

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الا نتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت

ملا حظات ورود على شريط "الكفر كفران"

طاغوت کے جمایتوں کا رد

حق اتباع باطل کا رد

کیا ضروری نہیں؟

شیخ ناصر الدین الالبانی کی کیسٹ الکفر کفران پر تبصرہ و تقدیم

تألیف

فضیلۃ الشیخ عبد المعمم مصطفیٰ حییمہ ابو بصیر

مقدمہ

فضیلۃ الشیخ محمود الحسن الجیری

ترجمہ

فضیلۃ الشیخ عبد العظیم حسن زین

نظر ثانی

فضیلۃ الشیخ حافظ محمد نعیم راشد

(امام اسلامیات، امام اعرابی)

درسہ جامعہ ستاریہ اسلامیہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پیش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. وبعد

شیخ البانی جو کہ اس صدی کے ایک بہت ہی عظیم محدث و محقق العصر گزرے ہیں۔ اس امت کے لئے ایک مجدد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن کے علم پر تمام علم فخر اور شک کرتے ہیں۔ ان کی لا تعداد کتابوں اور تقاریر میں سے ایک تقریر (الکفر کفران) جو کہ سوال وجواب پر منی ہے۔

جس کو ”اشیخ عبد المعمم مصطفیٰ حلیمة حَفَظَ اللّٰهُ عَنْهُ أَعْلَمُ ابو بصیر الطرسوی“ نے قلم بند کیا ہے اور پھر اس پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا ہے۔ جو کہ اپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔

یاد رہے کہ ہر انسان پر اولین فرائض میں سے دو فرائض ایسے ہیں جنہیں جانے بغیر کوئی انسان اللہ رب العزت کے ہاں تقرب تودور کی بات ہے مسلم و مؤمن بھی شمار نہیں ہوتا۔

① ایک یہ ہے کہ وہ تو حید کو جانے اور اسکے تقاضے کو پورے کرے۔

② دوسرا بات یہ ہے کہ وہ شرک کو جانے اور اسکے ارتکاب سے پرہیز کرے۔

جس طرح کوئی مشرک تک تک موحد نہیں بن سکتا جب تک تو حید کو اچھی طرح جان نالے اسی طرح کوئی موحد اپنے ایمان کو چنانیں سکتا جب تک شرک کو اچھی طرح جان نالے۔

جیسے کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء: ۳۶)

”صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“۔

اور اسی طرح دوسرا جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(النساء: ٤٨)

”اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جس کو
چاہے معاف کر دے۔“

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

((يَا مَعَاذْ هَلْ نَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ؟ قَلْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ

قال: إِنْ حَقَ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدَهُ وَلَا بَشَرٌ كَوَابِهِ شَيْئًا))

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ تھیں پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے۔ معاف نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں: پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔“

تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا حق اور سکتا ہے؟ جو توحید اور شرک سے نااشتا ہو؟ یقیناً نہیں۔

تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں جانتا پھر بھی وہ مؤمن و موحد ہے۔ یاد رہے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان دائرة اسلام سے خارج ہو جاتا ہے چاہے وہ جہالت کی وجہ کیا ہو، مزاحاً کیا ہو یا عمداً کیا ہو۔ جن پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے۔

① اللہ یا اسکے رسول ﷺ کے ساتھ مراخ کرنا۔

② شعائر اسلام کا مراخ اڑانا۔

③ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کرنا۔

④ کافروں کے دین یا روانج کو دین اسلام سے بہتر سمجھنا۔

⑤ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا۔

- ۶ مسلمانوں پر انسان کے بنائے ہوئے قانون کو لا گو کرنا۔
- ۷ حلال اور حرام سمجھنا اگرچا سے کھانا بھی ہو یا حرام کو حلال سمجھنا اگرچہ نہیں کھاتا ہو۔
اب آئیے اس شبہ کو بھی دور کر لیتے ہیں کہ کیا بھلا مسلمان بھی کسی بات کی ارتکاب کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے اگرچا اسکی نیت میں ایسی کوئی بات نہ ہو؟

تو اس کا جواب ہے جی ہاں! بالکل ہو سکتا ہے آئیے سورۃ توبہ کی اس آیت کو پڑھیں۔

وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نُلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ أَبِيهِ وَ رَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

(التوبہ: ۶۵، ۶۶)

”اوہ اگر تم ان سے (اس بارے میں) دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ ۝ بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔“
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و شرک میں تمیز کرنے کی اور ہر طرح کے کفر و شرک بچانے توفیق عطا فرمائے۔ آمین

کتبہ: محمود الحسن الجمیری جعفری

۲۹ ذی الحجه ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وَكَفَلَ وَسَلَامٌ عَلَى عَبادِهِ الْمُنْذَرِ اَسْطَافُ اَمَابعِ

سب سے پہلے میں شکر یہ ادا کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں اس دوست کے احسان کا جس نے اس کتاب کو قارئین کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ اللہ انہیں جزاۓ خیر دے۔ ان دوستوں کا بھی میں تہہ دل سے احسان مند ہوں جنہوں نے کم سے کم وقت میں اس کتاب کی نشر و اشاعت کو ممکن بنایا ہم اس کتاب کا اولین نسخہ قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی گئی۔

نوٹ: ہم یہ کتاب کبھی شائع نہ کرتے اگر شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ (اپنی زندگی میں) الکفر کفران کی تردید کر دیتے۔ اس کتاب کی اشاعت سے ہمارا مقصد صرف کتاب چھاپنا نہیں بلکہ لوگوں کو حق بتلانا ہے۔ ہم نے شیخ الالبانی (جو، اب انتقال کر چکے ہیں) کو (ان کی زندگی میں) خط لکھا تھا اور ان کے متعارف کرائے ہوئے نظام سے متعلق کچھ جواب طلب با تین لکھی تھیں مگر دو ماگزرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے ہبتر جانا کہ یہ خط کتابی صورت میں شائع ہو جائے۔ خاص کر اس وجہ سے بھی کہ قوم میں شبہات پھیلتے جا رہے ہیں۔ اور اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ چند افراد کے بجائے دنیا کی ایک کثیر تعداد کو متاثر کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دے۔ آمین

عبد المعمۇم مصطفى حليمہ ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سينات اعمالنا، ومن يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادى له، وشهادان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد ان محمداً عبده ورسوله .

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجلاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً.

يا ايها الذي آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

اما بعد:

فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلاله ، وكل ضلاله في النار، اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والارض، عالم الغيب والشهادة ، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهداي لما اختلف فيه من الحق باذنك ، انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم .

لگوں اپنے رب سے ڈروجس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے

اس کا جوڑ پیدا کیا پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ جس کے ذریعے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور صدر حجی کا خیال کرو۔ اللہ تم پر نگران ہے۔

ایمان والوں اللہ سے ڈرجاؤ اور سیدھی بات کرو وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کر لی اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اما بعد:

سب سے سچی بات اللہ کی ہے اور بہترین راستہ جناب محمد ﷺ کا ہے سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں۔ ہر نیا ایجاد کردہ کام (دین میں) بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشهادۃ تو ہی اپنے بندوں کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے اختلافی باتوں اور امور میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرم۔ تو ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

ایسا حق جو اعتدال والا ہواب تقریباً ناپید ہو چکا ہے ایسا انجمنی بن چکا ہے جس طرح طائفہ منصورہ انجمنی بن گیا ہے جن کے بارے میں رسول ﷺ نے فرمایا تھا۔ اسلام غربت و اجنبيت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور دوبارہ اسی اجنبيت کی طرف لوٹ آئے گا جس طرح شروع ہوا تھا غرباء قابل ستائش ہیں۔ سوال ہوا: اللہ کے رسول ﷺ غرباء کون ہیں؟ فرمایا وہ اس وقت اصلاح کا کام کریں گے جب سارے لوگ فساد و بگاڑ پیدا کریں گے۔ فرمایا یہ چند صلح لوگ ہوں گے بقیہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ان کی پیروی کرنے والے کم اور نافرمانی و مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ اب اسلامی دنیا میں یہ حالت چھائی ہے ایک طرف خوارج

۱ کی طرح افراط ہے دوسری طرف مرجنہ کی طرح تفریط، اس سے بھی زیادہ تجھ کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سلفی اور قبیع سنت ہیں، ایمان، وعدہ و عید کے مسائل میں سلف کے عقائد پر ہیں۔ ایمان قول، عمل اور اعقاد کا نام ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے مگر اس سب کے باوجود یہ لوگ مرجنہ **۲** کی رائے اپنائے ہوئے ہیں۔ ایمان وعدہ اور عید میں انہوں نے جسمیہ کا عقیدہ اور رائے اپنارکھی ہے۔ ان کے طریقے پر چل رہے ہیں ان کی طرح بول بول رہے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر رواں دواں ہیں ہر معاملے میں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیا ایک ہی وقت میں دو متصاد باتیں یا متصاد عقیدے و نظریے اپنائے جاسکتے ہیں؟ یہ تو تجھ انگیز بات ہے؟ ان میں ایک خرابی یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کے ساتھ مرجنہ والا سلوک و معاملہ نہیں کرتے بلکہ کمزوروں اور غربیوں کے لیے بہت سخت ہیں وہ اہل قبلہ مسلمان جوان کے مقابل ہیں یہ ان پر بہت سختی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ بدظنی کاشکار رہتے ہیں ان کے معمولی گناہوں پر بھی ان کے خلاف ہر قسم کے دلائل و نصوص لاگو کر کے انہیں گناہ گار، فاسق، مجرم بلکہ کافر تک قرار

۱ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قادری میں (۲۸۱/۷) لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے خوارج نے گناہوں کی بنیاد پر اہل قبلہ کا فرقہ ارادیا بلکہ گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کا خون تک جائز فرقہ دینتے تھے ان کے بارے میں حسیار رسول صلی اللہ نے کہا تھا یہ دیے ہی تھے کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرسوں کو (قربیب آنے کی) دعوت دیں گے۔ انہوں نے علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور ان کے حمایتوں کو کافر کہا۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور ان کے قتل کو حلال سمجھا۔ عبد الرحمن بن ملجم المرادی انہی میں سے تھا جس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ یہ دیگر خوارج کی طرح بہت عبادت گزار تھا مگر یہ لوگ اہلسنت والجماعت سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے جاہل تھے۔ یہ کہتے تھے کہ لوگ یا تو مومن ہوتے ہیں یا کافر، مومن وہ ہوتا ہے جو تمام واجبات کو جالاتا ہے اور تمام محمرمات کو ترک کر دیتا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ کافر ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر انہوں نے ہر شخص کو کافر اور ہمیشہ کا جہنمی قرار دیدیا جوان کی اس بات کی مخالفت کرتا ہے۔

۲ مرجنہ وہ لوگ ہیں جو عمل کا ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح انہوں نے عمل کو کافر اور فساد عقیدہ پر دلیل کے طور پر مؤخر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان قول و قصدیق کا نام ہے لہذا ان کے نزدیک کفر دلی انکار اور زبانی مکنذیب کا نام ہے ان میں جو غلوکرنے والا فرقہ ہے وہ جسمیہ کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دلی قصدیق کا نام ہے اور کفر دلی انکار کا نام ہے جو قصدیق کے منافی ہو۔ مرجنہ نے عمل کی اہمیت کم کر دی۔ وعدے کی احادیث لے لی ہیں اور عید کی چھوٹ رکھی ہیں۔

دیتے ہیں۔ جبکہ کافر طاغوتوں اور مرتدین کے خلاف یہ بہت نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں (خوف یا لائچ کی وجہ سے) ان کے لیے ہر قسم کی تاویلات کرتے ہیں اور تاویل میں اتنی وسعت پیدا کر لیتے ہیں کہ جسے نہ عقل قبول کر سکتی ہے اور نہ ہی نقل۔ ان پر ہر قسم کے نصوص کو منطبق کرتے ہیں جس نص سے بھی ان کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ اس طرح ان لوگوں میں بہت سی صفات جسمیہ کی اور بہت سی برائیاں مرجد کی اکھٹی ہو گئی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے اہل قبلہ مخالفین کے لیے یہ خوارج ہیں اور طاغوتوں کے لیے مرجد ہیں ان میں کفر و نفاق کی تمام خرابیاں آگئی ہیں۔ یہ ایک منفرد دونار نمونہ ہے اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مزید خرابی کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب طرز عمل چند افراد تک محدود نہیں ہے بلکہ دن و سیچ تر ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے تمام ممالک میں پھیل گیا ہے کوئی بھی اسلامی ملک اس سے محفوظ نہیں رہا۔ ان لوگوں کے جال میں بہت سے عالم نوجوان گرفتار ہو چکے ہیں ان نوجوانوں کو ان لوگوں نے شریعت کے نام پر شرعی اصطلاحات استعمال کر کے درگایا ہے حالانکہ ان کی عملی زندگی میں شریعت کہیں نظر نہیں آتی ان کی سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ یہ اپنے غلط نظریات سلف صالحین کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ جس غلط نظریہ پر یہ قائم ہیں اور خود کو اثری و سلفی کہتے ہیں ان کے پاس سلف کے منیج میں سے کچھ نہیں ہے۔

ان لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ان کے بارے میں وضاحت سے بیان کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے تاکہ ان کے باطل نظریات اور ارجاء کا عقیدہ لوگوں کے سامنے آجائے۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ طاغوتوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں ان کے سامنے کتنی عاجزی کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ان کے خلاف لکھنے پر لوگ مجھ پر الزامات لگائیں گے کہ میں شہرت چاہتا ہوں۔ میں نے بے وفائی کی ہے زیادتی کی ہے۔ اس لیے کہ جو حق بیان کرتا ہے لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہی ہیں۔ اس کے باوجود ہم جسے حق

سمجھتے ہیں اس کا اظہار بر ملا کریں گے اس لیے کہ ہمارے نزدیک لوگوں کی ناراضگی کی نسبت اللہ کی رضا مندی زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اپنی جانوں۔ بیٹوں اور آباء سے حق زیادہ پسند ہے۔ ہم حق بر مخلوق کو ترجیح نہیں دے سکتے چاہے کوئی بھی ہو۔ مجھے ایک کیست دی گئی جس کا عنوان ہے الکفر کفر ان حسے عمان میں بیت المقدس کیست ہاؤس نے جاری کیا ہے یہ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کیست ہے ① اس کیست میں جگہ محمد ابراہیم شقرہ ② کی باتیں ہیں اور آراء بھی موجود ہیں

① ہم شیخ الالبانی کی عزت کرتے ہیں ان کے علمی مقام و مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم شیخ کی ان غلطیوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگی انتشار لوگوں میں پھیل رہا ہے اور لوگ اس وجہ سے آنکھیں بند کر کے انہیں اپنارہ ہے ہوں کہ یہ شیخ الالبانی کی رائے ہے۔ شیخ الالبانی خود امام ابن حزم رحمہ اللہ کی علمی قدر کے معترف ہیں مگر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صفات میں خالص چہیے ہیں اسی طرح ہم بھی شیخ الالبانی کی علمی قابلیت و لیاقت کے اعتراف کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ شیخ الالبانی ایمان۔ وعد۔ وعد میں خالص چہیے ہیں۔ ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عنقریب آئندہ صفات میں قارئین کے سامنے اپنی بات مل ثابت کر دیں گے ان شاء اللہ۔ اللہ امام ذہبی رحمہ اللہ پر حرم فرمائے کہ انہوں نے (السیر 45/03) میں کیا خوب بات کی ہے کہ غالی معتزلہ، غالی شیعہ، غالی حنبلیہ، غالی اشاعرہ، غالی مرجیہ، غالی جہیہ اور غالی کرامیہ سے دنیا بھری پڑی ہے ان میں سے بہت سے عابدزاہ اور علماء شامل ہیں۔ ہم اہل توحید کے لیے اللہ سے معافی و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خواہشات اور بدعاں کی پیرودی سے پناہ مانگتے ہیں سنت و اہل سنت سے محبت کرتے ہیں اس عالم کو پسند کرتے ہیں جس میں صفات حمیدہ اور اتابع کی خوبی ہو۔ تاویل کے پچھے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اعتبار زیادہ نیکیوں کا ہوتا ہے۔

② ابراہیم شقرہ اپنی کتاب ”ہی السلفی“ میں لکھتے ہیں حقیقی سلفیت اور سلفی منہج کے لیے جو بات پر بیانی کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی حکمرانوں کو اپنا کام کرنے دو اور اللہ کا کام اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ بتیرین عقل کی بات ہے جو ہمارے زمانے کے حالات سے موافق رکھتی ہے۔ اب دین و حکومت میں علیحدگی بہت ضروری ہو گئی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہے جیسے حالات ہیں ان میں کسی مسلمان پر سیاسی عمل میں شرکت کرنا ضروری ہو۔ اس لیے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا جبکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجنہیں ڈالتا۔ یہ فضول اور بے فائدہ بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ سیاسی عمل میں حصہ لیں جو صرف سیاستدانوں کا کام ہے۔ ہم پوچھتے ہیں امت جہادی کی تیاری کی استطاعت کیوں نہیں رکھتی؟ جبکہ جہاد اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد صرف امام کی موجودگی میں اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے اس کی مثال حدود اور سزا میں نافذ کرنے کی ہے جو کہ امام کے بغیر نہیں ہے

اور ایسی عجیب آراء اور باتیں ہیں کہ ان پر خاموشی اختیار کرنا ممکن نہیں ان باتوں نے ہمیں اس کیسٹ کے مواد پر روڈ اور تبصرہ کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے ان صفحات میں لائیں کے نیچے ان کی کیسٹ کا مواد دیا ہے اور لائن کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تاکہ دونوں کی باتیں علیحدہ پڑھنے میں آئیں۔ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے یہ دراصل اس باطل کارڈ ہے جو اس کیسٹ میں موجود ہے۔ یہ ان شذوذ و اخراجات کا بھی رڈ ہے جو اس کیسٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں عنقریب جن کا تذکرہ آئندہ سطور میں ہوگا۔

میں قارئین سے گزارش کروں گا مکمل کتاب پڑھنے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کریں جب پوری کتاب پڑھ لیں تو پھر اپنے دل سے پوچھ کر مبینی بر انصاف فیصلہ کریں ایسا فیصلہ جس میں نہ شیخ کا لحاظ رکھا گیا ہونہ میری طرفداری کی لئی ہو حق کی اتباع ہر چیز پر مقدم رکھنی چاہیے۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأَصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكِيدُ

إِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸)

میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ اللہ سے ہی تو فیق کا خواستگار ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى صَاحِبِهِ وَسَلَّمَ

عبد المعمم مصطفیٰ عبد القادر حليمہ ابو بصیر

ہے ہوتیں، جہاد کا دروازہ نہیں کھول سکتا نہ اس کا علم بلند کر سکتا ہے نہیں اس کی طرف دعوت دے سکتا ہے مگر صرف ایک امام جو تمام مسلمانوں کا ہو چاہے کوئی اس بات کو پسند کرے یا ناپسند کرے مگر امت کے تحفظ کے لیے یہی بات ہے۔ امت کے دفاع کا تقاضا ہے کہ جہاد ہو جکہ مدافعت کے قانون کا تقاضا ہے کہ جہاد کی اجازت دینے والا تمام مسلمانوں کا ایک امام ہو ورنہ موجودہ جو مسلمانوں کی حالت ہے ان حالات میں جہاد کرنے والا یا جہاد کا حکم دینے والا گناہ میں ملوث شمار ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شیخ کی عبارت جو کیست میں ہے وہ ابراہیم شترہ کے سوال اور شیخ البانی کے جواب کے ساتھ اس طرح ہے۔

سوال کیا خوارج، معزز لہ اور رافضہ جیسے گمراہ فرقوں کو جنت قائم ہونے کے بعد کافر قرار دینا جائز ہے؟

البانی: سوال میں جب یہ پوچھا گیا کہ جنت قائم ہونے کے بعد کافر کہا جاسکتا ہے؟ تو اس کا جواب (اگر جنت قائم ہو چکی ہو) ہے کہ ہاں۔

ابو بصیر: ہم جلد بازی میں دیئے گئے اس جواب پر دوزاویوں سے بات کرنا ساچا ہتھی ہیں:

① اس طرح مطلقاً ہاں کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل کی اور فرق واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ خوارج کے بہت سے فرقے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں کچھ اہلسنت کے عقیدے سے زیادہ دور ہیں کچھ کم اسی طرح معزز لہ و رافضہ میں بھی ہیں۔ جلد بازی میں دیا جانے والا یہ نامکمل فتویٰ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق بھی نہیں ہے اس لیے کہ سلف نے خوارج کو کافرنہیں کہا ہے بلکہ انہیں باغی مسلمان شمار کیا ہے۔

(ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قتوی: 712/7) میں لکھتے ہیں: خوارج بدعتی تھے اور امامت کے قتل اور تکفیر میں بھی آگے تھے مگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی انہیں کافرنہیں کہا۔ یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں بلکہ انہیں سرکش و ظالم کہا ان کے مسلمانوں کے ساتھ رواہ کئے سلوک کی وجہ سے۔

یہ ہو گا عذاب کی طرف جانے والا اور اللہ کے غصب کا حصہ اپنے لیے حاصل کرنے والا ہے۔ اس طرح کی دیگر باتیں بھی ابراہیم شترہ کی اس کتاب میں موجود ہیں یہ سب کچھ طاغوت کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے ہم ان شاء اللہ اس کتاب میں ان کا بھی رذکر میں گے۔

۲) ایک طرف شیخ جلد بازی میں ان گمراہ فرقوں کے خلاف نامکمل فتویٰ دے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف طواغیت الحکم کے لیے زبردستی کی تاویلیں کر رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں حالانکہ یہ طواغیت گمراہ فرقوں خوارج، معتزلہ، رافضہ وغیرہ کفریہ وزنادقہ فرقوں مثلاً سیکولر، لا دین جماعتوں کے محافظ ہیں یہاں کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جنکی بنا پر ان فرقوں کے لیے اپنی گمراہیاں لوگوں میں پھیلانا آسان ہو جاتا ہے اور یہ طاغوت اس کو اعتقاد، رائے اور سیاسی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان گمراہ فرقوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ سب کے حقوق و فرائض برابر ہوتے ہیں جب تک اکھٹے رہتے ہیں تو وطن اور حدود وطن کی طرف ہی خود کو منسوب کرتے ہیں تاکہ خود پر سے کفر کا حکم ہٹا سکیں۔ یہ فرقے کیوں مطلقاً کافر ہیں جبکہ طاغوت ان کی بنسوت بڑے منافق اور کافر ہیں جن کی طرف سے تم بحث و جدال کر کے ان کا دفاع کرتے ہو ان کے لیے زبردستی کی تاویلات کرتے ہو تاکہ ان پر کفر کا حکم نہ لگ سکتے انہیں زبردستی اسلام میں داخل کرتے ہو۔ کیوں؟

هَانُتُمْ هُوَلَاءِ جَاهَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

بھلام تم دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟۔

اللجنة الدائمه للبحوث العلمية کے فتویٰ (541/1) میں لکھا ہے کہ جس نے یہود نصاریٰ یا دیگر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق نہیں کیا سوائے وطنی فرق کے اور ان سب کا حکم ایک قرار دیا تو وہ کافر ہے یہ ایک وجہ ہیں ہے جس کی وجہ سے یہ طواغیت الحکم کا فرقہ را پاتے ہیں بلکہ کفر و نفاق کی عادتیں ایک سے بڑھ کر ایک ان میں جمع ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتیں اور اگر نظر بھی آجائیں تو تم سمجھنہ سکو گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم لوگ اکثر اقامۃ جمیع کو جملہ معتبر ضمہ کے طور پر کیوں

استعمال کرتے رہتے ہو؟ تاکہ کفر، نفاق اور فتنہ کے سراغنوں تک احکام الہی نہ پہنچ سکیں (ان پر فتویٰ نہ لگ سکے کفر کا؟) اقامت ججت کی شرط اس وقت شرط ہے جب غالب گمان ہو کہ جو شخص شریعت کی مخالفت کر رہا ہو وہ اتنا عاجز اور مجبور ہو چکا ہے کہ اس عجز کو دفع نہیں کر سکتا۔ عجز بالاتفاق مواخذہ و ذمہ داری کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر شریعت کی مخالفت عجز و مجبوری کے بغیر ہو یا اس کا دفع کرنا ممکن ہو دفع کرنے کی طاقت ہو مگر کچھ اسباب یا وجوہات کی وجہ سے اس عجز کو دفع نہیں کر سکتا جن کا دفع کرنا ممکن ہے تو یہ شخص قابل ملامت ہے قابل مواخذہ ہے اس پر اللہ کے احکام جاری ہوں گے قیام ججت کی شرط کے بغیر۔ اس لیے کہ یہ اپنے آپ سے جہالت دور کر سکتا ہے مگر نہیں کر رہا۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمُ﴾ (التغابن: ۱۶) ”اللہ سے ڈر جتنی تمہاری طاقت ہو۔“ اور فرماتے ہیں: ﴿لَا يَكُنْ لِفُلُوْلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) ”اللہ ذمہ داری نہیں رکھتا بندے پر مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔“ اور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: ((وَمَا أَمْرَتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا سَطَعَتْ عَيْنُكُمْ)) ”جس کا میں تمہیں حکم دوں تو اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔“

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاویٰ (59/20) میں فرماتے ہیں: بندوں پر ججت دو چیزوں سے قائم ہوتی ہے ایک مسئلے کا علم دوسرا اس پر عمل کرنے کی طاقت۔ پس جو علم سے عاجز ہوتا ہے جیسے مجنون شخص ہے یا عمل کرنے سے عاجز ہے تو وہ نہ امر کا مکلف ہے نہ نبی (منع) کا کیونکہ کسی چیز کا واجب ہونا یا اس کا حرام ہونا اس شخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جس کو اس مسئلے کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو کیونکہ انسان کا سمجھنا اور عمل سے عاجز ہونا اس حکم کے یا اس منع کے ساقط ہونے کا سبب ہے۔ اگرچہ وہ حکم دراصل واجب ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ جو شخص کسی مسئلے کے علم سے قاصر ہے اس پر اس مسئلے کا علم اور پھر اس پر عمل کرنا

فرض نہیں ہے کیونکہ علم عمل کا تابع ہوتا ہے البتہ جو شخص علم پر قادر ہو لیکن عمل سے عاجز ہے یعنی اس مسئلے پر عمل نہیں کر سکتا تو اس پر اس مسئلے کی تصدیق اور اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ کیونکہ یا اس کی استطاعت میں ہے۔ اور عمل اس سے ساقط ہے کیونکہ یا اس کی استطاعت میں نہیں ہے۔

اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جن کے بارے میں تم ہمیشہ شرط لگاتے ہو کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے ججۃ قائم کی جائے۔ کیا یہ لوگ یقیناً اللہ کے نازل کردہ احکام کے علم حاصل کرنے سے عاجز ہیں؟ اگر عاجز ہیں تو آپ کی مقرر کردہ شرط اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ عاجز نہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ علم عام ہوا ہے اور جو لوگ علم حاصل کرنا چاہیے تو آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کی یہ شرط بے کار ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ یہ مر جہہ کی باتیں اور ان کی گنگناہٹ ہے جو کافر کو بھی کافر کہنے میں تامل کرتے ہیں اور اس کو پر ہیز گاری سمجھتے ہیں۔

البانی: مزید فرماتے ہیں کہ: ہر وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے مخالف یا منکر پر ججۃ قائم کر دی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا یہ اپنے مخالف پر ججۃ قائم کرنے کا اہل ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں (افسوں کے ساتھ) کہ بہت سارے ہمارے سلفی نوجوان جب چند ایک مسائل کا علم حاصل کریں پھر کسی عالم سے اس کا اختلاف ہو جائے (جبکہ وہ حقیقت میں عالم ہو جو علم کے آلات ہیں (نحو، صرف، اصول، اصول فقه) ان سب پر عبور رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے (نوجوانوں) نے یہ فنون اور علم کے آلات اس مسئلے پر فٹ نہیں کئے ہوتے (تو یہ ان علم کے ابتدائی طالب علم بھائیوں میں سے کوئی آتا ہے جس نے صرف ایک یاد مسئلے سیکھے ہوتے ہیں اور اس عالم سے اس کا اختلاف ہوا ہو تو کہتا ہے میں نے فلاں عالم پر ججۃ قائم کر دی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے ججۃ قائم کی جائے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب اس پر عملًا ججۃ قائم کر لی جائے تو اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

جیتے کون قائم کرے؟ پس جیتے قائم کرنے والے لوگ علماء ہیں۔ کتاب و سنت اور منیج سلف صالحین کی معرفت اور سمجھ رکھنے والے ہیں۔

ابو بصیر: یہی بات شیخ البانی نے کئی مقامات پر کہی ہے۔ اور کئی شرطوں کے ساتھ کہی ہے۔ جب بھی شیخ البانی قیامِ جیتے کی بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، جبکہ اس بات پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی سلف میں سے کسی نے شیخ البانی کا اس بات میں ساتھ دیا ہے۔ یہ ان کی تفرادت میں سے تمام امت کے علماء کے مقابلے میں تو ہم شیخ البانی سے عرض کرتے ہیں، کہ آپ نے بہت وسیع چیز کو تنگ کر دیا اللہ کی جنت دلوں پر اترنے والی ہے (یا تمام عالم تک پہنچنے والی ہے) اگر چاہتے تو تم سب کو سیدھی راہ پر چلا لیتے۔ آپ نے صرف کتاب و سنت اور منیج سلف کے فہم رکھنے والے علماء میں یہ بات مخصوص کر دی۔ جبکہ یہ لوگ آپ کو ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنی جیتے چند لوگوں میں مخصوص کر دی ہے؟ اپنی تمام مخلوق اور نشانیوں کے سوا، جن کی تعداد و شمار ممکن نہیں؟!!

اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ وہ جاہل جو اپنا جاہل دور کرنے سے عاجز ہے اس پر اس قدر جیتے قائم ہو گی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا جاہل و عجز دور کر سکے اور اس کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب کا اتنا علم آجائے کہ جو اس کے جاہل و عجز کی وجہ سے کیے ہوئے کاموں کے خلاف ہو۔ اب کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے توسط سے یہ جیتے قائم ہو سکے؟ یہ ذریعہ کبھی عالم ہوتا ہے کبھی طالب علم ہوتا ہے اور کبھی عام مسلمان۔ کبھی مرد ہوتا ہے کبھی عورت کبھی کوئی بچہ، یا اطلاعات کے مختلف ذرائع میں سے کوئی ذریعہ مثلاً وی، ریڈیو، کتابیں، رسائل، اخبارات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی ذریعہ جیتے قائم ہونے کا ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اس ذریعے سے جیتے شرعیہ پہنچائی جائے۔ جیتے شرعی سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فرمان یا امت کے سلف کا اجماع جو کہ جاہل و عجز کو دور کر سکتا ہو اور اس شخص کو ان کاموں اور باتوں میں جن کا یہ مرتكب ہو رہا ہے

شارع کا مقصد سمجھایا جاسکے۔ اس شخص تک شرعی حکم پہنچنے میں اعتبار اس بات کا ہوگا کہ اسے شارع کا حکم اس زبان میں پہنچ گیا ہے جسے یہ سمجھتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک شخص اس بات سے لعلم ہے کہ شراب حرام ہے اور یہ علمی اس کی ایسے عجز کی وجہ سے کہ جسے رفع کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ (بعض دفعہ یہ عجز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہوتا ہے یا ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہوتا ہے کہ جو علم سے دور ہونہ وہاں علم پہنچ سکتا ہے نہ یہ علم تک پہنچ سکتا ہے۔ یا یہ عجز ایسی تاویل کی وجہ سے ہوتا ہے جو معمول ہو۔ یا شارع کے حکم کو سمجھنے میں غلطی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اور اس طرح کے دیگر موالع تکفیر جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ عجز کی وہ صفت پیدا کر دیتے ہیں جس کا رفع کرنا اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جس مالع میں یہ صفت موجود نہ ہو وہ شرعاً معتبر مالع نہیں ہے اور اس کی بناء پر تکفیر معین کے منع پر استثنہاد صحیح نہیں ہوگا۔ پھر ایسے آدمی کے پاس ایک چھوٹا بچہ آتا ہے جو کہ عالم نہیں ہے وہ اس شخص کو بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے اور اسے شرعی دلائل بتادیتا ہے شراب کی حرمت کے، شراب کی حرمت پر اللہ کا جو حکم ہے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس طرح لاعلم و جاہل مخالفت کرنے والے پر جنتہ قائم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر اسے یہ معلومات ریڈ یو یاٹی وی کے ذریعے پہنچتی ہیں (تو بھی جنتہ قائم ہو جائے گی) صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ”رسول ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس یہودی یا نصرانی نے میری نبوت کے بارے میں سناؤ پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔“ اس میں یہ بات اہم ہے کہ نبی ﷺ کی نبوت اور دعوت کو صحیح طریقے یا ذریعے سے پہنچ جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ کس ذریعے سے نبوت و دعوت پہنچی ہے۔ سلمان فارسی ﷺ کے اقوال و فرایمن اور معلومات کفار، یہودی راہبوں اور عیسائی علماء سے حاصل کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، ہم یہ شرط نہیں لگاتے کہ جنتہ قائم کرنے کے لیے کسی عالم، عارف اور مجتهد کا ہونا ضروری البتہ یہ شرط ضرور لگاتے ہیں کہ اس مسئلے کے

ساتھ کہ جس میں جیتے قائم کر رہا ہے صحیح شرعی تعلق اور معلومات رکھتا ہو تب ہی وہ لاعلم اور مخالفت کرنے والے پر جتہ قائم کر سکتا ہے۔ ورنہ جو شخص خود کسی مسئلے سے لاعلم ہو وہ دوسروں کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ قیام جتہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مخالف جاہل کو مطمئن کر دیا جائے اور اس کو صحیح فہم دے دیا جائے اس لیے کہ یہ کام مخلوق کی استطاعت کا نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت و گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ کی جتہ قرآن ہے جس کو قرآن پہنچ گیا اس کو جتہ پہنچ کئی لیکن مشکل یہ ہے کہ قیام جتہ اور فہم جتہ میں لوگ فرق نہیں سمجھتے۔ اکثر کفار اور مسلمانوں میں موجود مفہوم فقین اللہ کی جتہ اور اس کا قیام نہیں سمجھ پاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَصَلُّ سَبِيلًا (الفرقان: ٤٤)

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ تو چوپا یوں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

جب معین پر جتہ قائم ہو جائے تو اس کو فرکہا جا سکتا ہے تو یہ معلوم ہی ہے کہ قیام کا معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو اس طرح سمجھے جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا بلکہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کلام پہنچ جائے اور کوئی عذر والی بات نہ رہے تو وہ کافر ہے۔ سب پر قرآن کے (پہنچنے) کے ذریعے سے جتہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا﴾ بنی اسرائیل: ٦٤ ﴿هُمْ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس کو سمجھنے سے۔﴾ پھر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جہل کو عذر بنانے والی بات ایک علامت بن گئی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی پہچان ہو سکتی ہے کہ وہ کتنے صحیح راستے پر ہیں؟ لہذا جو بھی آدمی جہل کو مطلقاً عذر مانے بغیر کسی استثناء اور رضوا باط کے اور ہمیشہ ہی اسے تکفیر کے لیے

مانع قرار دے اور ہمیشہ قیام ججت کو عاجز و غیر عاجز کے لیے شرط بنائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شخص مرجح ہے تفریط کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر ایسا آدمی نظر آئے جو جبل کو مطلقاً عذر نہیں مانتا یہاں تک کہ جبل مجھ کو بھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلو اور افراط کی طرف مائل ہو چکا ہے اور یہ خوارج کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے چاہیے یہ مانے یا نہ مانے، حق ان دونوں کے درمیان ہے حق کتاب و سنت کے ساتھ ہے افراط و تفریط غلو اور ارجاء کے بغیر۔ بلکہ وہ مطلقاً کافر مرتد ہے کتاب و سنت کے نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں اور اقوال صحابہ رض و تابعین بھی، تبع تابعین ائمہ دین رض سب کی یہی رائے ہے سوائے چند مرجحہ اور جمیعہ کے، ان ادلہ کی تفصیل اب پیش خدمت ہے۔

کتاب اللہ سے دلائل

وَ إِنْ نَكُنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعْنُوا فِيْ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوْا أَئِمَّةَ الْكُفَّارِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعْلَهُمْ يَنْتَهُونَ (التوبہ: ۱۲)

اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑا میں اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو (یہ بے ایمان لوگ ہیں اور) ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ (اپنی حرکتوں سے) بازا جائیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (الصارم: ص 17) میں لکھتے ہیں: اگر ان کو ائمہ کفردین میں طعن کی وجہ سے کہا گیا ہے تو پھر ہر وہ شخص جو ایمان میں طعن کرتا ہے (عیب نکالتا ہے) وہ امام کفر ہے۔

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (82/8) میں لکھتے ہیں: جس نے عہد توڑا اور دین میں طعن کیا تو وہ ائمہ کفر میں سے ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ دین میں طعن کرنے والے کو فاسد سمجھ کر قتل کیا جائے گا۔ طعن سے مراد ہے دین کی طرف الیسی بات منسوب کرنا جو دین کے شایان شان نہ ہو یاد دین کے کسی مسئلے پر اعتراض کرنا اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہوئے جبکہ دین کے اصول و فروع

دلیل قطعی سے ثابت شدہ ہیں۔

ابن کثیر رض اپنی تفسیر (2/253) میں لکھتے ہیں: اس سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ جس نے رسول ﷺ کو گالی دی یادِ دین اسلام میں طعن یا نقص نکالا اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

وَلَئِنْ سَالَتْهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ أَبِيهِ وَ رَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (التوبہ: ۶۵-۶۶)

اگر آپ ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے ہم بتیں کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ ان سے کہد و کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ بہانے مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تم میں سے تو ایک گروہ کو عذاب کریں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔

ان لوگوں نے اعتقاد کے بغیر کھیل کھیل میں ایک بات کی تھی گالی بھی نہیں دی تھی مگر وہ ایمان لانے کے بعد کافر قرار دیئے گئے اس سے معلوم ہوا کہ گالی دینا تو اس سے بھی زیادہ ارتدا اور کفر کا سبب ہے۔ ابن تیمیہ رض اپنے فتاویٰ (7/272) میں لکھتے ہیں: یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو گالی دینا بدرجہ اولیٰ کفر ہے یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس نے بھی رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کی چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں وہ کافر ہو گیا۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بغیر اعتقاد کے بات کی ہے ہم تو صرف بتیں کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے۔ ابن العربي رض (الاحکام: 2/976) میں لکھتے ہیں: انہوں نے جو بات کی تھی وہ دو حالتوں سے خالی نہ ہو گی یا مذاق میں کی ہو گی یا سنجیدگی سے۔ مگر جیسے بھی کی ہے وہ کفر

اس لیے کہ مذاق میں بھی کفر یہ بات کہنا کفر ہے اس میں امت میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ تحقیق جو ہے وہ حق اور علم کا ساتھی ہے مذاق اور بے ہودگی باطل اور جہل کی ساتھی ہے ابو بکر جصاص رضی اللہ عنہ (الاحکام: 348/4) میں کہتے ہیں: اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ مذاق کرنے والا اور سنجیدگی سے بات کرنے والا حکمہ کفر کے اظہار میں برابر ہیں جبکہ یہ بغیر اکراہ کے ہو۔ آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کا یہ قول کفر ہے چاہے کسی بھی طریقے سے کہا گیا ہو جان بوجھ کر ہو یا مذاق میں حکم دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے اللہ کی آیات یا شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفُرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ

إِسْلَامَهُمْ (التوبۃ: ۷۴)

یہ فتنمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ یہ کفر یہ کلمہ کہہ چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں۔

قشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کلمہ کفر نبی ﷺ کو گالی دینا ہے اور اسلام میں طعن کرنا ہے (کَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامَهُمْ) کا معنی ہے اسلام کا حکم لگنے کے بعد کافر ہو گئے (تفیر قرطی: 206/8) کشمیری اپنی کتاب اکفار المحمدین میں لکھتے ہیں: خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے کلمہ کفر مذاق یا سنجیدگی میں ادا کر لیا سب کے نزدیک وہ کافر ہے اعتقد کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسا کہ اخانیہ اور رد المحتار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتِ اللَّهِ يُكْفِرُ بِهَا وَ يُسْتَهْرِرُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفَقِينَ وَ الْكُفَّارِ إِنَّ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (النساء: ۱۴۰)

اور اللہ نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل کیا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ اللہ کی آیات سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی بُنْسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکھڑا کرنے والا ہے۔

سلیمان آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آیت کا وہی معنی و مطلب ہے جو اس کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھی بغیر کسی مجبوری و کراہ کے وہاں بیٹھا رہا اور اس غلط کام پر اعتراض و انکار نہ کیا تو وہ انہی مذاق اڑانے والوں کی طرح کا فر ہے اگرچہ ان کی طرح کا عمل نہیں کیا مگر اس کا یہ طرز عمل کفر پر راضی ہونے کی دلیل ہے جبکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ اس جیسی آیات سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ کسی گناہ پر راضی ہونے والا گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں دل میں اس گناہ سے نفرت کرتا ہوں مگر اس کی یہ بات قبل قبول نہ ہوگی اس لیے کہ حکم ظاہر پر لگایا جاتا ہے اور اس نے کفر کا اظہار کر دیا ہے لہذا کافر ہو گیا ہے۔ (مجموعہ التوحید: ص 48)

جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے کے لیے یہ حکم ہے جبکہ وہ خود اس فعل کا مرتبہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا جو صراحتاً اللہ کے دین کو برآجھلا کہتا ہو؟ بلا شک و شبہ وہ کفر و ارتدا کا زیادہ مستحق ہے۔ کشمیری کہتے ہیں: کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے "اعلام" کے فصل الکفر لمستفق علیہ میں کتب حنفیہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ جس نے کفر یہ لفظ مند سے ادا کیا تو وہ کافر ہے اور جس نے بھی اس کے اس عمل کو اچھا کہا یا اس پر راضی ہوا وہ بھی کافر ہے۔ الحیر میں ہے (غالباً الحیر الارثی کتاب مراد ہے۔ مترجم) جس نے خوشی سے کفر یہ کلمہ زبان سے ادا کیا اگرچہ اس کا دل ایمان پر تھا تو وہ شخص کافر ہوگا اللہ کے ہاں مومن نہیں ہوگا اسی طرح فتاویٰ قاضی

خان، هندیہ اور جامع الفصول میں بھی ہے۔ (اکفار الصلحدار ص: 59)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک نایبنا آدمی کی ایک لوٹی تھی جو نبی ﷺ کو گالیاں دیتی تھی اور آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ وہ نایبنا اسے روکتا تھا مگر وہ باز نہیں آتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ رسول ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کر رہی تھی کہ نایبنا نے کdal اٹھائی اس کے پیٹ پر رکھا اور پرسے دبائے رکھا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا اور اس کا حمل بھی ضائع ہوا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ذکر ہوا آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے یہ فعل کیا ہے اگر وہ خود پر میراث تسلیم کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ نایبنا آدمی کھڑا ہوا لوگوں کو پھلانگتا ہوا۔ ہانپتا کانپتا آگے بڑھا یہاں تک کہ رسول ﷺ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور عرض کی اللہ کے رسول ﷺ میں ہی اس کا قاتل ہوں اس لیے کہ وہ آپ کو برا جھلا کر تھی میں اسے منع کرتا تھا مگر وہ نہیں مانی۔ اس کے طلن سے میرے دو بیٹے ہیں موتیوں کی طرح (خوبصورت) وہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی مگر جب کل رات وہ آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے لگی تو میں نے کdal اٹھائی اور اس کے پیٹ پر رکھ کر اور پر سے دبا ڈالا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا سنواں کا خون رائیگاں ہے۔ (صحیح سنن ابی داؤد: 3665)

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث نص ہے اس کے قتل کے جواز کے لیے اس لیے کہ وہ رسول ﷺ کو گالیاں دیتی تھی۔ اسی طرح ذمی کے قتل اور مسلمان مرد عورت کے قتل پر بھی نص ہے جب وہ رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کریں۔ (الصارم ص: 62)

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عصماء بنت مروان نامی ایک عورت نے رسول ﷺ کی ہجوکی تو آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے جو اس سے میرا بدله لے؟ اسی کی قوم میں سے ایک آدمی عمر بن عذر رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ میں بدله لوں گا وہ گیا اور اس عورت کو قتل کر دیا

پھر آکر نبی ﷺ کو بتا دیا۔ نبی ﷺ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تم ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے تو عمر بن عدی کو دیکھو۔ (الصارم ص: 95)

اسی طرح بخاری میں بھی ہے آپ ﷺ نے فرمایا کون کعب بن اشرف سے میرابدلے لے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایڈ ادی ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ﷺ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ ﷺ کی بھومن گانے گائے تھے لکھا اگر تم پہلے نہ کر چکے ہوتے تو میں تمہیں اس کے قتل کا حکم دیتا اس لیے کہ انبیاء کے بارے میں جو حد ہوتی ہے وہ دوسری حدود کی طرح نہیں ہوتی۔ جس مسلمان نے بھی اس (عورت کے عمل کی) طرح عمل کیا تو وہ مرتد یا غدار، محارب ہے۔ (الصارم)

مجاہد کہتے ہیں: عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لا یا گیا جس نے رسول ﷺ کو گالی دی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا پھر فرمایا جس نے اللہ کو یا کسی بھی نبی کو گالی دی دی اسے قتل کر دو۔ (الصارم) ابو بزرگہ اسلامی کہتے ہیں: کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالط باتیں کیں تو میں نے کہا کہ میں انہیں قتل کر دوں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ رسول ﷺ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ (صحیح سنن نسائی: 3795)

امام اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ یا اس کے رسول کو گالی دی یا اللہ کے نازل کردہ دین میں سے کسی مسئلے کو مسترد کر دیا۔ یا کسی نبی کو قتل کیا تو وہ کافر ہو گیا اگرچہ وہ اللہ کے نازل کردہ تمام شائع کا اقرار کرتا ہو۔ خطابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ اس کے قتل کے وجوب میں کسی مسلمان کو اختلاف رہا ہو۔ حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سناؤہ کہتے تھے جس نے بھی نبی ﷺ کو گالی دی یا آپ ﷺ کی شان میں (کوئی اور) گستاخی کی مسلمان ہو یا کافر سے قتل کیا جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل

کیا جائے اور توبہ بھی نہ کرائی جائے۔ ابوالصرف اے کہتے ہیں: میں نے ابو عبداللہ سے ایک آدمی کے بارے میں سوال کیا جو ذمی ہے اور نبی ﷺ کو گالی دیتا ہے اسے کیا سزا دی جائے گی؟ انہوں نے کہا جب ثبوت مل جائے تو نبی ﷺ کو گالی دینے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ایک روایت میں ہے ان سے سوال ہوا کیا اس بارے میں احادیث ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اور ان میں سے ایک نابینے آدمی والی حدیث بھی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والی عورت کو قتل کیا تھا۔ اور حصین کی روایت بھی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے نبی ﷺ کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے تھے نبی ﷺ کو گالی دینے والے کو اس گالی کی بنا پر قتل کیا جائے گا وہ اسلام سے مرتد ہے۔ مسلمان کبھی نبی ﷺ کو گالی نہیں دے سکتا۔ عبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے نبی ﷺ کو گالی دی ہو کہ اس سے توبہ کروائی جائے گی؟ انہوں نے کہا اس کا قتل واجب ہے اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور اس سے توبہ نہیں کروائی تھی۔ کہتے ہیں میرے والد سے دوسرا سوال ہوا کہ جس نے نبی ﷺ کو (بطور توہین کے کہا) کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے۔ تم اور تمہارے بعد آنے (والے بھی ایسے ہیں) تو میرے والد احمد بن حنبل نے کہا ایسا کہنے والا مرتد ہے۔ میں نے کہا کیا آپ اس کی گردن ماریں گے؟ انہوں نے کہا میں اس کی گردن ماروں گا۔ ان سے ایک یہودی کے بارے میں سوال ہوا جو کسی موزون کی اذان کو سن کر کہے کہ تو نے جھوٹ بولा۔ تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اس نے گالی دی ہے۔ (یہ تمام اقوال ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”الصارم المسلط علی شاتم الرسول“ میں نقل کی ہیں اور پھر قرآن و سنت کے نصوص بھی پیش کر دیئے ہیں اس کے ساتھ اقوال سلف بھی اس بات پر نقل کیے ہیں کہ رسول ﷺ کو گالی دینے والا مرتد کافر ہے صرف گالی دینے

سے ہی کافر ہو جاتا ہے اگرچہ اعتماد نہ رکھتا ہو۔ اور دل میں جائز بھی نہ سمجھتا ہو۔ تعجب کی بات ہے کہ ارجاء کا یہ گروہ اس مسئلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتب مصنف کی اس شاہکار تصنیف کو بھول جاتا ہے جس میں اس مسئلے کی مکمل تفصیل بیان ہوئی ہے اور کتاب و سنت کے دلائل دیے گئے ہیں)

کشمیری اکفار الملحدین (ص: 64) میں کہتے ہیں: مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے رسول ﷺ کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ارتداد ہے کہ کوئی شخص نبی ﷺ کو جھلائے۔ یا ان کی شان میں گستاخی کرے یا آپ سے براءت کا اعلان کرے۔ محمد بن سعیدون کہتے ہیں: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے رسول ﷺ کو گالی دی آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کی وہ کافر ہے جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔

الشفاء میں قاضی عیاض لکھتے ہیں: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمانوں میں سے جس نے اللہ کو گالی دی وہ کافر ہے اس کا خون حلال ہے۔ اسی طرح جس نے یہ کہا کہ (نعوذ باللہ) رسول ﷺ نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام میں جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے یا آپ ﷺ کی صداقت میں شک کیا یا آپ ﷺ کو گالی دی۔ یا یہ کہا کہ آپ ﷺ نے دین نہیں پہنچایا۔ یا آپ ﷺ کی شان میں (کوئی اور) گستاخی کی یا کسی اور پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، یا ان پر جھوٹ باندھا، یا کسی نبی کو قتل کیا یا تکلیف دی یا کسی نبی سے جنگ کی تو وہ بالاجماع کافر ہے۔

ابن حزم المکھلی 12/438 میں نبی کو گالی دینے والے کے کفر پر دلائل پیش کیے ہیں پھر کہا ہے کہ ہم نے جو دلائل دیے ان سے ثابت ہوا کہ جس نے اللہ کو گالی دی یا مذاق اڑایا۔ کسی فرشتے کو گالی دی یا مذاق دی یا مذاق اڑایا۔ کسی نبی کو گالی دی یا مذاق اڑایا۔ اللہ کی آیت کو گالی دی تو وہ اس عمل کی وجہ سے کافر مرتد ہے اس پر مرتد کا حکم لگایا جائے گا ہمارا بھی یہی مذہب اور رائے ہے۔ دوسری

گلکھتے ہیں: ان دلائل سے ثابت ہوا کہ جس نے اللہ یا اس کے رسول ﷺ کو ایذا دی وہ کافر مرتد ہے۔

یہ تھے کتاب و سنت اور اقوال ائمۃ العلم سے دلائل اس بات پر کہ اللہ یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دینے والا بالاجماع کافر ہے۔ یہ تمام دلائل شیخ البانی کے اس قول کے رد کے لیے کافی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے مطلقاً کافرنیبیں کہہ سکتے۔ اس قول میں شیخ متفرد ہیں دیگر ائمۃ سلف و خلف کی رائے دوسری ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ شیخ کے قول کی ایک اور توجیہ شرع میں کی جاسکتی ہے مگر سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے خاص کرایے دور میں کہ جب لوگوں کے لیے رب کی توہین کرنا معمولی کام بن گیا ہے ذرا سی بات پر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کبھی تو شہرت و ناموری کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی حالت میں یہ اچھی بات ہے کہ ہم ان کے اس گالی دینے کے عمل کی تحسین کریں؟ ان سے کہدیں کہ چونکہ تم مسلمان اور جنتی ہو اس لیے اللہ و رسول کو گالی دینا چاہو تو دیتے رہو؟ میر انہیں خیال کہ شیخ اور دیگر موجودہ دور کے ان کے چہمیہ ساتھیوں پر یہ بات مخفی ہو گی کہ نبی ﷺ بوڑھے روزہ دار کو بوسے کی اجازت دی تھی اور جوان کو نہیں دی تھی۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ قاتل کے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے نہیں میں جواب دیا تھا اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں قتل کی رغبت دیکھ لی تھی۔ دوسری بات جس کی نشاندہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے جن طواغیت حکم کا کفر در حاضر کے ان چہمیہ پر مخفی ہے یہ جانتے ہیں کہ ان طواغیت کے ساتھی حماقی وغیرہ اللہ اس کے رسول ﷺ، اور دین کو گالیاں دے رہے ہیں اور بہت ہی معمولی وجوہات کی بنابر ایسا کر رہے ہیں مگر یہ طواغیت ایسا نہیں کرتے کہ ان کو روکیں یا ان کو سزا نہیں دیں، بلکہ کسی با دشہ، گورنر، یا حکومت کے کسی کارندے یا نجّ وغیرہ کی توہین کرنے پر سخت ترین سزا نہیں مقرر ہیں اور وہ دی بھی جاتی ہیں۔ جن میں کئی سال کی قید، مارپیٹ اور تمام

شہری حقوق سے محرومی وغیرہ کی سزا میں ہیں۔ اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحْبُّونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَ
الَّذِينَ امْنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۵)

کچھ لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنارکھے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے جبکہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔

سوال صحابہ کرام ﷺ میں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بعض ائمہ عیسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ یا اس کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کافر کہا ہے اور اسے مرتد قرار دیا ہے کیا یہ مطلقاً ہے؟ جواب دیکھ مستقید فرمائیں؟

البانی: ہمارے خیال میں یہ مطلقاً نہیں ہے (الرسائل الشصیہ ص: 220-224) کبھی کبھی گستاخی جہالت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے عدم تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی انجانے میں ہو جاتی ہے اور کبھی جانتے بوجھتے کر لی جاتی ہے جب یہ آخری صورت ہو تو یہ بلاشبہ و شبہ ارتداد ہے اور اگر اس کے علاوہ مذکورہ دیگر وجوہات کا احتمال ہو تو مکفیر میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے بلکہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

ابو بصیر تبصرہ ورقہ: پہلے گزر چکا ہے کہ جس جہالت یا عدم واقفیت کی وجہ سے کسی کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے تو اس سے وہ جہالت مراد ہے جو عجز کی وجہ سے ہو اور اس کا رفع کرنا ممکن نہ ہو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کہاں کا عجز ہے؟ جبکہ اس کو اللہ کی تعظیم و توقیر کا علم اسی وقت ہو چکا ہوتا ہے جس اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور شہادتین کا اقرار کرتا ہے ہمیں پوری دنیا میں ایسا کوئی مسلمان دکھلا دیں جو شہادتین کے ذریعے اسلام میں داخل ہو چکا ہو اور پھر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ یا اس کے رسول اور دین کی شان میں گستاخی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بلکہ یعنی

ممکن ہے کہ مسلمان کے سامنے جب اللہ یا اس کے رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کی جائے تو یاں کو کہے کہ کفر مت کر۔ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں تو کفر اور اللہ و رسول ﷺ کی شان میں گستاخانہ کلمہ ایک ہی چیز ہے۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گالی دینے والے کے لیے عدم علم کا عذر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی تکفیر میں کوئی مانع ہے سوائے اکراہ کے اس لیے کہ اللہ نے اکراہ کوہی مستثنیٰ کیا ہے۔ ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ اور عمار کی مشہور حدیث بھی ہے۔ بری تربیت کی جہاں تک بات ہے تو یہ انہتائی نامناسب اور ہر طرح سے باطل قول ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ ہی کسی عالم کا قول اس کی تائید میں موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بری تربیت تکفیر کے موانع میں سے ہے اگر شیخ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر سارے کافر معدود ہیں اس لیے کان کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ شرعی دلائل بھی کفار کی بری تربیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی انہیں معدود نہیں سمجھا گیا جب کہ ان کو رسول ﷺ کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ نبی ﷺ کی صحیح حدیث ہے:

((کل مولود یولد علی الفطرة، ای ملة التوحید فابواه یہودانہ او ینصرانہ او یمسسانہ))

ہر بچہ فطرت (ملت توحید) پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوہی بناتے ہیں۔

اس کے باوجود کسی نے بھی یہود و نصاریٰ یا مجوہی کو بری تربیت کی وجہ سے معدود نہیں کہا۔ بے پرواہی کی جہاں تک بات ہے تو علماء کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں کہ اعتقاد کے معاملے میں غفلت ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر گستاخی کرنے والے کو صحیح کہا جائے بلکہ یہ سب عذر دور حاضر کے جنمیہ نے تراشے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک کفر صرف وہ ہے جو دلی اعتقاد کی بنیاد پر کیا جائے۔ اس رائے کی بنا پر لازم ہے کہ ایمان صرف دلی اعتقاد کو کہا جائے اگرچہ اعضاء کا ظاہری

عمل نہ بھی ہو۔ شیخ کا مقصد یہ ہے کہ دل کا ارادہ جس کے ساتھ اعتقاد و استھنال لازم ہے وہ ہو (تب شام رسول کافر ہوگا) ہم یہ بات اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب سوء تربیت کو عذر مانتے ہیں حالانکہ سوء تربیت والا جانتے تو جھٹے گستاخی کا مرتكب ہوتا ہے مگر اس کے باوجود شیخ کے نزدیک وہ تکفیر سے مستثنی ہے اس لیے احتمال کی بنا پر کہ شاید اس نے یہ گستاخی بغیر اعتقاد اور بغیر استھنال کے کی ہو۔ شیخ کا یہ قول اہل سنت کے قول کے بر عکس ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے اس طرح ان کے نزدیک کفر اعتقاد سے بھی ہوتا ہے۔ قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ جبکہ ہم اور اس کے موجودہ تبعین (دور حاضر کے چہمیہ) کہتے ہیں ایمان صرف اعتقاد قلبی کا نام ہے اس لیے کفر بھی صرف دلی طور پر انکار کا نام ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے اللہ کو یا اس کے رسول کو گالی دی وہ باطنًا و ظاہرًا کافر ہو گیا چاہے گالی دینے والا اس گالی کو حرام سمجھتا ہو یا حلال، مذاق میں دے یا اعتقاد آئی تمام فقهاء اور اہل سنت کا مذہب ہے جو ایمان قول عمل اور اعتقاد کو کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گالی دینے والے کوتب کافر کہیں گے جب وہ اسے حلال سمجھتا ہو تو ان کی یہ بات ان کی لغزش اور غلطی ہے اور بہت ہی فضول بات ہے۔ اپنی اس بات کی تائید کے لیے جو لوگ فقهاء کا قول پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس نے حلال و جائز سمجھ کر گالی دی وہ کافر ہے ورنہ نہیں تو اس قول کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی جو بیان ہوئی۔

دوسری وجہ: جب کفر صرف استھنال کی وجہ سے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اعتقاد گالی کی حلت کا ہو۔ تو جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا (اس کا مرتكب کفر ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ معلوم محمرات کو حلال کہے گا تو یہ کافر ہوگا مگر اس میں فرق نہیں کہ وہ نبی ﷺ کی شان میں گستاخی کرے یا کسی مونی پر تمہت لگائے یا اس کی غیبت کرے وغیرہ دیگر اقوال جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے جس نے ان میں سے کوئی بھی کام حلال سمجھ کر کیا

تو وہ کافر ہوا جبکہ یہ جائز نہیں ہے کہ جس نے مومن پر تہمت لگائی وہ کافر ہوا اور اس سے مراد وہ استھنال لے رہا ہو۔

تیسری وجہ: گالی کا حلال سمجھنا کفر ہے چاہے اس کے ساتھ عملاً گالی دی ہو یا نہ۔ تو جب تکفیر کے لیے گالی کا وجود عدم موثر نہیں ہے اور صرف اعتقاد موثر ہے یہ علماء کے اجماع کے خلاف ہے۔

چوتھی وجہ: جب کفر کا سبب گالی کا استھنال ہو تو پھر گالی میں ایسی کوئی چیز نہیں جو یہ بتا سکے کہ دینے والا اسے حلال سمجھ رہا ہے تو لازم آتا ہے کہ اسے کافرنہ کہا جائے خاص کر جب وہ گالی کی حرمت کا اعتقاد کر رکھتا ہو اور صرف غصہ، یا کھلیل و مذاق میں گالی دے جیسا کہ منافقین نے کہا تھا کہ: ﴿إِنَّمَا گَنَّا نُخُوضُ وَ نُلْعَبُ﴾ ”هم صرف باتیں کر رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔“ اگر ان منافقین کو کافر کہا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایسے عمل پر کافر کہا گیا جو انہوں نے کیا نہیں تھا اس لیے کہ ان کا عمل اعتقاد سے نہیں تھا اور تکفیر کے لیے عمل کے ساتھ اعتقاد بھی ضروری ہے جبکہ اللہ نے ان کے اس قول پر ہی کہا تھا کہ: ﴿لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ”بہانے مت بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔“ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے اس قول میں جھوٹے ہو۔ اس عذر میں ان کو دیگر عذروں کی طرح جھٹلایا نہیں جن کے ذریعے سوہ کفر سے بری ہوتے تھے اگر عذر سچے ہوتے تھے۔ ان کا عذر قبول کرنے کے بجائے مذاق میں کہی ہوئی بات پر بھی انہیں کافر قرار دیدیا۔ (غور کریں کہ کس طرح اس فتویٰ اور ایمان کی تعریف کے قول عمل کا نام ہے میں کس طرح ربط پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کے لیے لازم ہے کہ اس فتویٰ کو مانا جائے اور اگر کوئی شخص ایمان کی وہ تعریف کرتا ہے جو سلف نے کی ہے اور فتویٰ کو نہیں اپناتا تو وہ ایک ہی وقت میں دو متصاد باتیں کرتا ہے حالانکہ ایمان کے بارے میں یہ قول چشم کے قول کے قریب ہے) جب یہ ثابت ہو گیا

کہ سلف اور ان کے تبعین خلف کا مذہب یہ ہے کہ اس طرح کا قول کفر ہے چاہے اسے حلال جانا ہو یا حرام اور اس پر دلیل وہ احادیث اور ائمہ کے اقوال ہیں جو ہم نے سابقہ سطور میں پیش کر دیئے ہیں کہ گالی دینا ہی کفر ہے اعتقاد حرام و حلال کا اعتبار کیے بغیر اگر ایک شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے اور اسی نے اس کام کا حکم دیا ہے مگر حکم کی پیروی نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم (نعواز بالله) صحیح نہیں ہے اس آدمی اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں جو عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد ﷺ سچے رسول ہیں اپنے احکام میں واجب الاتباع ہیں پھر آپ ﷺ کو گالی دیتا ہے یا آپ ﷺ کے حکم میں عیوب نکالتا ہے۔ یا آپ ﷺ کی ذات میں نقص و ہونڈتا ہے۔ یا آپ ﷺ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرتا ہے جو رسول ﷺ کی شان کے خلاف ہو اس لیے کہ ایمان قول عمل کا نام ہے یہاں سے جنم بن صفوان اور اس کے پیروکاروں کے قول کی غلطی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق علم قلبی کا نام ہے۔ اعمال قلب کو وہ ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان دلی طور پر مکمل مومن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو گالی دیتا ہے ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی اور دشمنوں سے دوستی کرتا ہے۔ انبیاء کو قتل کرتا ہے۔ مسجدیں منہدم کرتا ہے قرآن کی توہین کرتا ہے۔ موننوں کی بہت زیادہ توہین کرتا ہے۔ اور کافروں کو حد درجہ احترام و عزت دیتا ہے مگر یہ سب صرف معاصی ہیں دلی ایمان کے منافی نہیں لہذا اس سب کچھ کے باوجود وہ دلی طور پر مومن رہتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کفار کے احکام ثابت ہیں اس لیے کہ یہ سب کام کفر کی نشانیاں و علامات ہیں لہذا ظاہر پر حکم لگایا جائے گا جس طرح کہ (مسلمان ہونے کا حکم) شہادتیں کے اقرار پر لگایا جاتا ہے۔ اگرچہ باطن میں وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جب ان لوگوں کے سامنے قرآن۔ سنت اور اجماع پیش کر کے کہا جائے اس طرح کے کام کرنے والے کافر ہیں آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تصدیق قلب و علم کی نفی کی دلیل ہے۔ ان کے

نzd یک کفر صرف ایک ہی چیز کا نام ہے یعنی جہل اور ایمان بھی ایک ہی چیز کا نام ہے یعنی علم یا تکذیب قلب کفر اور تصدیق قلب ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ سب سے بدترین قول ہے مگر بہت سے اہل کلام مر جھنے نے اس کو اپنایا ہے اور بہت سے اسلاف جیسے وکیع بن جراح - احمد بن حنبل اور ابو عبید وغیرہ رض نے انہیں اور جو بھی اس قول کا مقابل ہے اسے کافر قرار دیا ہے۔ (قابل غور بات ہے کہ کس طرح اس بات کو کہ ایمان قول عمل کے لزوم کے لیے معتبر قرار دیا ہے گالی دینے والے، قول فعل سے گستاخی کرنے والے کے کفر کو اگرچہ وہ اللہ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی ابتداء کے وجوب کا اعتقاد رکھتا ہو) ان لوگوں نے دواصولوں میں غلطی کی ہے۔

① یہ کہ ایمان صرف تصدیق علم ہے اس کے ساتھ عمل کا ارادہ۔ حرکت۔ محبت اور خشیتی فی القلب کا تعلق نہیں ہے۔ یہ مر جھنے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔

② ان کا یہ خیال کہ جہاں بھی شارع نے کسی کو کافر مخلد فی النار کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں علم و تصدیق نہیں تھا (یہی الفاظ ہیں شیخ اور اس کے جمییہ تبعین کے جو سلف کے عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں) یہ ایسی بات ہے جو عقل اور شرع کے خلاف ہے اور سلیم الفطرت اسلام اور جہور کے خلاف ہے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام نے عمدہ فتاوی کی ہے جو ہماری کتاب تنبیہ الغافلین میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ ابن حزم رض کہتے ہیں: اللہ کو گالی دینے کے کفر ہونے میں روئے زمین کے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے سوائے چہمیہ اور اشعریہ کے (مراد وہ مر جھنے ہیں جو ایمان صرف اعتقاد کو کہتے ہیں قول عمل کو شامل نہیں کرتے) جبکہ یہ دونوں فرقے قابل اعتباً نہیں ہیں اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو گالی دینا اور کفر کا اظہار کرنا کفر نہیں ہے۔ یہ کفر پر دلالت کرتی ہے مگر یقینی کفر نہیں ہے۔ اس بارے میں ان کا اصول اہل اسلام کے اجماع کے خلاف ہے کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے اگرچہ کوئی شخص بغیر تقدیہ و حکایت کے بتوں کی عبادت اور کفر کا اعلان ہی کیوں نہ کر دے۔ ابن حزم رض کہتے ہیں: کہ یہ خالص کفر

ہے اس لیے کہ یہ اجماع امت اور اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہے اور تمام صحابہ کی رائے کے برعکس ہے غور کریں کہ کس طرح ثابت کیا ہے کہ گالی دینے کے لیے عقیدہ واستھان کو جرمیہ اور غالی مرجحہ کا عقیدہ قرار دیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور کفر ان کے نزدیک صرف انکار و رنکنیب ہے اس بنا پر ہم نے کبھی صحیح بات کا دامن نہیں چھوڑا جب ہم نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض ایسے لوگ جو بظاہر عقیدہ سلف کو اپنائے ہوئے ہیں اور کفر کے لیے قلبی کوہی شرط مانتے ہیں اور عمل کے استھان کو۔ وہ جرمیہ ہیں ایمان کے معاملے میں جنم کے عقیدے پر ہیں۔)

البانی: مجھے اس بارے میں تجھب اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض فقهاء کا یہ قول ہے کہ جب نناوے علماء کسی شخص کی تکفیر پر کسی عمل مکفر کی وجہ سے متفق ہو جائیں اور ان میں سے ایک کہدے کہ یہ کفر نہیں ہے تو وہ عمل فتنہ کھلاتا ہے کہتے ہیں جب تک کہ سوکے سو متفق نہ ہوں تو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ (ص: 14-22)

ابو بصیر: یہ قول ان الفاظ کے ساتھ کہیں نہیں ہے نہ کسی جاہل نہ عالم نے ایسا کہا ہے۔ کسی عالم سے الحند یہ میں جو منقول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کی متعدد وجوہ ہوں جو کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ کفر کی ممانعت کی ہو تو مفتی کو چاہیے کہ اس ایک وجہ کی طرف رجحان رکھے۔ اسی طرح کا قول الغزالی کا، فیصل الترقہ میں ہے۔ نہیں خیال کرنا چاہیے تکفیر یا اس کی نفی ایک ہی جگہ پر قطعی طور پر پائی جائے بلکہ تکفیر شرعی حکم ہے اس کا ماغذہ بھی دیگر احکام شرعیہ کی طرح ہے۔ کبھی یقینی طور پر پایا جاتا ہے اور کبھی ظن غالب اور کبھی تردود کے ساتھ جب تردود کے ساتھ ہو تو تکفیر سے احتساب بہتر ہے۔ ان منقولہ اقوال اور الفاظ اور شیخ کے منسوب کردہ بعض فقهاء کی طرف الفاظ میں واضح فرق ہے۔ بعض فقهاء سے اگرچہ اس طرح منقول ہے کہ کسی مسئلے میں نناوے وجوہ ہوں اور ایک طرف ایک وجہ ہو..... مگر وجوہ اور عالم میں فرق ہے)

الباني: یہ ہے وہ احتیاط کا مقام جو اس قول کی وجہ سے اپنایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا تو یہ تکفیر کا فتویٰ دونوں میں سے کسی ایک پر لوٹ آئے گا۔ زیادہ مشہور عبارت یہ ہے کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا وہ خود کافر ہوا۔ لہذا اجتناب و احتیاط کرنا چاہیے کسی ایسے مسلمان کو مطلقاً کافر کہنے سے جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ“ کا اقرار کرتا ہو۔ (ص: 15-16-22)

ابو بصری: حدیث پر تبصرہ آئندہ چل کر ہم کریں گے کہ مطلقاً کسی کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ البتہ جہاں تک بات ہے شہادتین کے اقرار کی تو اس کلے کے کچھ تقاضے، شروط اور نواقض ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر صرف زبان سے رشد لگانا کوئی فائدہ نہیں کرتا جیسا کہ عصر حاضر کے جہیہ کا خیال ہے۔ اس لیے کہ ایمان قول، اعتقاد اور عمل کا نام ہے۔ ہاں اگر کوئی شہادتین کا اقرار کرنے والا اس کے شروط تقاضوں کا لحاظ کرنے سے عاجز ہوت ب تو ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس حالت میں شہادتین کا اقرار اس کا اعتقاد اور اس سے محبت فائدہ دے گی جیسا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور اسی وقت قتل ہو گیا اور اسے کسی قسم کے عمل کا موقع نہیں ملا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول ﷺ کا فرمان ہے عَمَلَ كُمْ كِيَا جِزْ زِيَادَه مَلَ كِيَا۔ آگے ہم شہادتین کے تقاضے اور شروط تفصیل سے بیان کریں گے۔

الباني: دلیل کے طور پر اس مشرک کا واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے جو جنگ کے دوران ایک صحابی کی تلوار کے نیچے آگیا تو اس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھ لیا حالانکہ یہ صرف تقبیہ کی بنا پر تھا مگر رسول ﷺ نے اس کلمہ طبیبہ کا اعتبار کیا اور صحابی کو (آئندہ) ایسا کرنے سے منع کیا جو اس وقت صحابی نے کیا تھا (یعنی اس آدمی کو قتل کیا تھا)

ابو بصری: ہم کہتے ہیں کہ شیخ یہ دلیل تو آپ کے خلاف جا رہی ہے اس میں آپ کے باطل مذہب کا رد ہے جو تکفیر کے حکم کے لیے دل چیر کے دیکھنے اور دلی علم معلوم کرنے کی بات کرتا ہے جبکہ آدمی کے ظاہری اعمال کفریہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں کفر و ایمان کے ابتدائی مرحلہ کی

بات ہے جب اس کا کفر و ایمان برابر ہو۔ اس کے بعد جب ایک آدمی ایمان کا بغیر مناقض کے اظہار کر دے تو اس کے ظاہر پر اعتبار کرتے ہوئے اس کا ایمان قبول کیا جائے گا اور اگر وہ واضح کفر کا اظہار کر دے تو اس کا بھی اعتبار ہو گا اور اس کے ساتھ کافروں مرتدوں والا معاملہ کیا جائے گا۔ امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں: آپ ﷺ نے صحابی سے جو یہ کہتا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہ دیکھا؟ تو اس میں دلیل ہے اس مشہور فقہی اصول کی کہ احکام میں ظاہر دلکش کر معاملہ کیا جائے گا اس لیے کہ باطن کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول ﷺ کے زمانے میں لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے سے کیا جاتا تھا اب وحی منقطع ہو چکی ہے اب ہم لوگوں کا مواخذہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر کریں گے جس نے اچھا عمل ظاہر کیا ہم اسے امن دیں گے اسے قریب کریں گے ہمیں اس کے باطن سے کوئی غرض نہیں جس نے بر اعمال ظاہر کیا ہم اسے امن نہیں دیں گے نہ اس کی بات کی تصدیق کریں گے اگر چوہہ کہتا رہے کہ میرا باطن بہت اچھا ہے۔ (107/2)

صحیح مسلم میں ہے (عمر بن الخطاب) فرماتے ہیں مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں نق卜 لگاؤں یا ان کا پیٹ پھاڑوں۔ حالانکہ شیخ صاحب آپ لوگ تو ظاہری اعمال کو ایمان کی دلیل بناتے ہو کفر کی نہیں اور جب کسی کے ظاہر کا اعتبار کر کے اس کے کفر کی طرف اشارہ کر لیا جائے تو آپ لوگ فوراً اس کے خلاف اس لفظ کو دلیل بناتے ہو کہ ((هلا شفقت قلبہ)) تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دلکھ لیا؟۔ اس سے مراد آپ لوگ یہ لیتے ہو کہ اس کے دل میں موجود حقیقت کو کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ کفر پر قائم ہے یا نہیں؟ آپ لوگ گویا اپنے مخالفین سے یہ مطالبة کرتے ہو کہ وہ لوگوں کا باطن معلوم کریں کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اور پھر اس کے مطابق حکم لگائیں یہ جبکہ یہ بات مذکورہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ جب نبی ﷺ نے یہ بات کی تھی تو اس کا مطلب صحابی کو یہ سمجھانا تھا کہ دلوں کی حالت سے واقفیت ممکن نہیں ہے۔ یہ کسی بشر کا کام

نہیں تم کیسے کسی انسان کے دل کی بات معلوم کر سکتے ہو؟ الہذا تم صرف ظاہر پر اعتبار کرو جہاں تک بات ہے تقویہ کی تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ اس آدمی نے توحید کا اظہار کر لیا تھا نبی ﷺ نے تقویہ کی اشارہ نہیں کیا مگر شاید آپ اعتبارِ ظاہر والے قاعدے کو رد کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس اقرارِ تقویہ (نفاق) سے تعبیر کرتے ہو مگر اس کے باوجود اس سے کافر نہیں کہا جائے گا۔

البانی: تکفیر ایک مشکل کام ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث اکثر ہمیں اس بات کی طرف بھی لے گئی ہے کہ ہم اکثر نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں کہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کافر کہہ رہے ہیں ان نوجوانوں نے خود کو صرف اس تکفیر میں مشغول کر لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ کافر کہتے ہیں ان میں بہت سے لوگ نمازی ہیں بہت سے روزے دار اور بہت سے حاجی ہیں یہ ظاہری اعمال ان کے مسلمان ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تکفیر کا فتویٰ جلدی لگائیں جبکہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ تکفیر ایک خطرناک کام ہے تو یہ ایک قابل غور پہلو ہے۔

ابو بصیر: جی ہاں کام تو یہ، بہت مشکل ہے مگر صرف جمیع و مر جمیع کے شیوخ و علماء کے لیے پھر دور حاضر کے جمیع کی طرف سے یہ تکرار کہ تکفیر پر ہر ایسے غیرے کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے صرف علماء مجتهدین تجربہ کار اور معروف علماء کا اس کا اختیار ہونا چاہیے اس بات پر ہمارے چند اعتراضات ہیں۔

① تکفیر شرعی حکم ہے کتاب و سنت سے اسی طرح ثابت ہے جس طرح دیگر احکام ہیں الہذا جس عمل کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ کافر ہے اور اس کا مر تکب یقینی کافر ہے جیسا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یا اپنے اندر اللہ کی خصوصیات کا سمجھنا اپنی طرف سے اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایسی حالت میں تو مطلقاً جائز نہیں کہ کافر کی عدم تکفیر یا اس کے کافر میں شک ملتہ سے خارج کرنے والا ہے اس لیے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے انکار ہے بلکہ اللہ کے حکم کو

رڈ کرنا ہے۔

۲) کتاب و سنت کے نصوص ان آیات و احادیث سے بھرے پڑے ہیں جو مونین کے ساتھ دوستی اور کفار کے ساتھ دشمنی کو واجب کرتے ہیں یا ایسے نصوص ہیں جنہیں امت کے تمام افراد کو ان میں مخاطب کیا گیا ہے یا انہیں سمجھایا گیا ہے اگر یہ بہت مشکل کام کام ہے تو پھر کس طرح کفر اور اس کی حدود اور کافر اور اس کی صفات کو کیسے معلوم کیا جائے گا؟

۳) ہم زنا کرنے والے کو آسانی سے زانی کہہ دیتے ہیں۔ چوری کرنے والے کو آسانی سے چور کہہ دیتے ہیں اور جب ان سے زیادہ اہم موقع آتا ہے لیعنی کوئی شخص صریح کفر کرتا ہے اور کوئی مانع بھی نہیں ہوتا تو ہم اس کی تکفیر سے ڈرتے ہیں اور افراد امت کو بھی تکفیر سے اجتناب کا مشورہ دیتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افراد امت پر اس بات کا معلوم کرنا لازمی سمجھتے ہیں کہ ہوا کے اخراج سے وضولوٹ جاتا ہے اور مشائخ ارجاء ان کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ نواقض و ضوپہچانیں اس لیے کہ ان نواقض کا مرتكب مومن نہیں رہتا۔ ہم نے موجودہ دور کے جہیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں ان کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ وہ کافر بے دین، اللہ کی شریعت کو جھٹلانے والے اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھنے والے جس پر شریعت کی ججۃ قاطعہ قائم ہو چکی ہو جس کی تکفیر میں کوئی مانع نہ ہواں کی تکفیر سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور صرف اس بات پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ یہ ”کفر دون کفر“ ہے اس احتیاط اور پرہیزگاری کی وجہ سے کفر کا حکم نہیں لگاتے۔ ان سے منقول اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمام احتمالات ختم ہو جائیں اور تکفیر کے معابر وغیرہ معتبر تمام موانع نہ رہیں تو پھر بھی کسی مسلمان سے (اسلام کی) نفی نہ کریں صرف یہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے یہ قول یا فعل کفر ہے۔ احتیاط اور پرہیزگاری کا یہی تقاضا ہے ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی چیز سے ناواقف کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو وہ ملی ہی نہ ہواں لیے وہ آسانی کے ساتھ اس بتلا ہو سکتا ہے لہذا جو شخص کفر اور اس کی حدود سے ناواقف ہو وہ اس

میں بتلا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ شریعت کی سب سے بڑی حرام کردہ شی ہے اللہ نے تفصیل سے آیات بیان کی ہیں اور مجرمین کی روشن واضح کردی ہے اور کفر اور شک کی تمام اقسام کی وضاحت کردی ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

وَكَذِلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ وَلِتُسْتَعِنَ سَيِّلُ الْمُجْرِمِينَ (الانعام: ٥٥)
هم اسی طرح آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا رستہ واضح ہو کر
سامنے آجائے۔

تاکہ ہم اس سے محتاط رہ سکیں یہ اس لئے نہیں ہے کہ ہم قوم پر مشکل ڈال دیں کہ ان کو معلوم کرنا ضروری ہے یہ ان کی طاقت و استطاعت سے زیادہ ہے ایک اعتراض ہمارا یہ بھی ہے کہ جس مشکل کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے یہ اس وضاحت، تفصیل اور آسانی کے معارض ہے جو ہماری شریعت کا امتیازی وصف ہے اللہ کا فرمان ہے:

الْرَقْفِ تِلْكَ أَيُّثُ الْكِتَبِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (الحجر: ١)
یہ کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔

فرمان ہے:
حَمَّ، وَ الْكِتَبِ الْمُبِينُ (الدحان: ١)
قسم ہے کتاب وضاحت کرنے والے کی۔

فرمایا:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّهِ كُرِّ فَهُلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ (القمر: ١٧)
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا
ہے؟

علوم دین میں سب سے زیادہ آسان اور واضح توحید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مَنْ يَكُفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْةِ
الْوُثْقَى (البقرہ: ۲۵۶)

جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لا یا اس نے مضبوط کرنا تھام لیا۔

طاغوت کے انکار کے لیے لازم ہے اس کی تکفیر اور اس سے اجتناب جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا
الظَّاغُوتَ (الحل: ۳۶)

ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔

جب امت کے تمام افراد پر تو حید کو لازم کر دیا اور طاغوت سے اجتناب واجب کر دیا تو یہ ایسا مشکل کیسے ہوا کہ صرف چند بڑے عالم، ہی اسے سمجھ سکتے ہیں؟

دیکھیں انہوں نے (طاغوت کے بجائے) حکامِ مسلمین کا قصہ کھڑا کیا (یا طاغوت کے لفظ کی جگہ مسلم حکمران کا لفظ استعمال کرتے ہیں) تاکہ اس کے بعد یہ ان کا دفاع کر سکیں یہ بھی طاغوت کی طرف جھکا ڈا اور میلان کی ایک قسم ہے جسے انہوں نے خوشی سے اپنایا ہے۔ یہ معاملہ فضول نہیں ہے نہ وقت گزاری یادل بہلانے کا مشغله ہے بلکہ اس میں بہت تفصیل درکار ہے۔ اس کا تعلق ایمان اور شرعی نصوص کے ساتھ ہے کہ شریعت کے احکام والفاظ کو صحیح مفہوم و مقام پر رکھا جائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں جس طرح کسی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن کو مومن کہے اور اس سے دوستی رکھے اسی طرح اس پر واجب ہے کہ کافر کو کافر کہے اور اس سے دشمنی رکھے لہذا یہ کفر و ایمان سے متعلق مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تب صحیح ہوگی جب صریح اسلام کے مقابل ایسا کافر ہو جس کی تاویل

ممکن ہوا اور اسے کفر اصغر پر مجموع کیا جاسکتا ہوا س لیے کہ جس کا اسلام یقینی ہو تو وہ اسلام سے صرف یقینی کفر کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے (اس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب قواعد التکفیر میں بیان کر دی ہے) مگر جب صریح اسلام کے مقابل صریح کفر ہو جس کی تاویل ممکن نہ ہو جیسا کہ طواغیت الحکم ہیں جن میں کفر، نفاق، خیانت اور دھوکہ دہی کی تمام صفات بیک وقت موجود ہیں تو ان پر ارتدا اور کفر کا حکم لگانے کے علاوہ کوئی دوسرا استثنیہیں ہے۔ یہ تو می اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو گا کہ ایک دل میں کفر و ایمان بکجا نہیں رہ سکتے اور یہ کہ شرک تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ أَشِرَّ كُوَا لَحِبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الانعام: ۸۸ ”اگر انہوں نے شرک کر لیا تو ان کے اعمال بر باد ہو جائیں گے“ فرمان ہے: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ﴾ عِمَرَان: ۲۲ ”ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں بر باد ہو گئے“۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے: ایک ہی دل میں کفر و ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔

البانی: ایک اور پہلو سے دیکھیں تو سوچنا چاہئے کہ موجودہ دور میں تکفیر کے اسلوب سے ہم کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں کہ بعض حکام یا ان کے تبعین کو کافر قرار دیتے ہیں؟ جبکہ ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتے جسے رسول ﷺ نے مباح قرار دیا ہے جیسا کہ حدیث ہے آپ ﷺ سے سوال ہوا ((افلان نقلاتهم ؟)) ”کیا ہم ان حکمرانوں سے جنگ نہ کریں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں جب تک وہ صریح کفر نہ کر لیں۔ جب وہ صریح کفر کر لیں اور ہم ان سے قتل نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ اس موضوع کو اچھا لئے کا؟ سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کر لیں جو علم و فقه کی طلب کی نسبت زیادہ اہم نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اسلامی زندگی کے لیے نصاندہ ہے اس لیے ہم لازمی سمجھتے ہیں کہ تکفیر سے اجتناب کیا جائے۔

ابو بصیر: طواغیت وغیرہ اور کفار کی تکفیر ایمانی اور عقیدتی موقف ہے جس سے تجاوز جائز نہیں

ہے۔ یہ اس عقیدے کے لوازمات میں سے ہے جو مونوں کے لیے ضروری ہے یعنی ”براءت عن الکافرین“، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی بنیاد پر اللہ کی بندگی اختیار کی ہے الہادنیا وی مفاد کی خاطر ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَءُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (المتحنة: ٤)

تمہارے لیے ابراہیم عليه السلام اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو پکارتے ہو ان سے بیزار ہیں ہم تمہارے ان کاموں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو چکی جب تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔

یہی ملت ابراہیم ہے جس کی اتباع کا ہمیں حکم ملا ہے اس سے اعراض بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مَلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ﴾ البقرۃ: ١٣٠ ﴾﴿”ملت ابراہیم سے اعراض وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو“، اور اگر ہم طواغیت کفر و غیرہ اور کافروں کی تکفیر نہ کریں تو پھر مندرجہ ذیل خطرات پیدا ہونے کا اندر یہ ہے۔

① اللہ کا حکم معطل ہو جاتا ہے جو ان کے بارے میں اس نے دیا ہے کہ: ﴿وَمَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ﴾ السائدہ: ٤ ﴾﴿”جس نے اللہ کے نازل کردہ (دین) کے مطابق حکومت نہیں کی وہ کافر ہیں۔“ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ان کے بارے میں وہی حکم اور فیصلہ کریں جو اللہ نے ان کے بارے میں نازل کیا ہے۔ ورنہ ماں دہ کی تینوں آیات پر عمل نہیں ہو سکے گا اور ہم اس گناہ میں بیٹلا ہو جائیں گے جس میں یہود ہوئے تھے یعنی حکمرانوں

کی خوشی کے لیے حق پر پردہ ڈالنا۔

② ان کی تکفیر نہ کرنے سے ہم کتمان علم (یعنی حق کو چھپانا) کے مرتكب ہو گے۔ حالانکہ ہمیں اس کے اظہار کا حکم ہے۔ حق کو چھپانے والوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَسْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ
لَا يُزَكِّيُهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ
وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ (البقرہ: ۱۷۴)

جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو کچھ اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے اور ان کے عوض لیتے ہیں تھوڑی قیمت (دنیاوی مفاد) یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ان بات نہیں کرے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بد لے گمراہی اور مغفرت کے بد لے عذاب لے لیا انہیں آگ پر کیسے صبر آئے گا؟

③ ان کی عدم تکفیر کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے انہیں ان طواغیت کے کفر اور جرم کا پتہ نہیں ہو گا۔ خاص کر جب ہم انہیں مسلمان کہیں اور ان کو اسلامی لباس میں پیش کریں۔

④ طواغیت حکم کی تکفیر کو عبث سمجھنا سے بے فائدہ کہنا جیسا کہ محمد شفیق نے کہا اور شیخ نے اس کی تائید کی ہے اس سے یہ لازم آئے گا نبی ﷺ نے جن کافروں کا نام لے کر انہیں کافر کہا وہ بھی عبث ہو گا؟ جیسا کہ سورہ کافرون میں ہے جبکہ مکہ کے حالات اور شعب ابی طالب کے حالات موجودہ دور سے بہتر نہ تھے مگر اس کے باوجود رسول ﷺ نے اپنی کمزوری کے باوجود تبلیغ سے اجتناب نہ کیا اور اللہ کا حکم تکفیر بیان کرنے اور ان کے دین کے ناقص بیان کرنے ان کے ”الله“ کی مذمت کرنے سے اجتناب نہیں کیا۔ بلکہ ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کی اتباع کرنے

والاصرف ایک آدمی تھا مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی کمزوری کو تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور کافروں کے بارے میں جو اللہ کا حکم تھا جو عذاب کا اعلان تھا وہ بیان کر دیا کیا ہم یہ کہیں کہ کیا انبیاء کا یہ سب کچھ کرنا عبیث تھا؟

⑤ طواغیت کے حکم کی عدم تکفیر سے یہ طواغیت اپنی سرکشی ظلم اور گمراہی میں اور بڑھ جائیں گے اور یہ اپنے تبعین سمیت مزید ایسے غلط کام کریں گے کہ ان کو حکومت کرنے کا حق ہے وہ ایسا کرنے کے قادر ہیں۔ اس لیے کہ بڑے علماء اور مرجحہ کے سرداران کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ انہیں مسلمان قرار دے چکے ہیں۔

آخر میں ہم محمد بن عبد الوہاب رض کے چند کلمات پیش کر رہے ہیں شاید ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فرماتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو دین کی بنیاد کو تھامے رکھو جس کا اول و آخر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی ہے اس کا معنی سمجھ لو اس کلمہ سے محبت کرو کلمہ والوں سے محبت رکھو انہیں اپنا بھائی بنارکھوا گرچہ دور ہتے ہوں۔ طواغیت کو کافر سمجھو ان سے دشمنی رکھو ان سے نفرت کرو اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی نفرت کرو جو ان کا دفاع کرے یا انہیں کافر نہ سمجھے یا یہ کہے کہ ہمیں ان سے کیا؟ مجھ پر اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی تو ایسا شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان طواغیت کا انکار کرے ان سے براءت کا اعلان کرے اگرچہ ان کے بھائی ہوں اولاد ہوں لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اس بات کو تھامے رکھو تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو تو مشرک بن کرنا کرو۔ (مجموعۃ التوحید: ص 111)

ان کے خلاف قاتل و بغاوت کی جہاں تک بات ہے قاتل کا سبب تکفیر ہے اور قاتل جب مشکل ہے تو کیا آسان کام بھی ترک کر دیں؟ ان کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہے اسے بھی چھوڑ دیں؟ امت کو ان سے باخبر نہ کریں۔ آسان عمل مشکل کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا جبکہ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تکفیر شرعی ضرورت اور عقیدے وایمان کا مسئلہ ہے اس سے چشم پوشی کرنا ممکن نہیں

ہے۔ شیخ سے ہم یہ پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں کہ ہم شیخ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر آپ قبال و خروج کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے تکفیر کی ممانعت کرتے ہیں۔ سلف امتہ اور علماء میں سے کس نے یہ فتویٰ دیا ہے یا رائے دی ہے؟ ہم چور اور زانی کے بارے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کو چور اور زانی پر لاگو نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اس کا بیان لازم ہے؟ کیا ہم اللہ کا حکم لوگوں کو بتا کر انہیں زنا اور چوری سے محتاط رہنے اس سے اجتناب کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر عاقل مسلمان اس کا جواب ہاں میں ہی دے گا۔ تو پھر تو حیدر اور اس کے تقاضے تو زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اسے چھپایا نہ جائے۔

البانی: نے کہا ہے کہ تکفیر کے بجائے علم و فقه پر توجہ دینی چاہیے۔

ابو بصیر: وہ کو نا علم اور فقہ ہے جو توحید سے زیادہ اہم ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے زیادہ اہم ہے جس کا تقاضا اولین یہ ہے کہ تمام اللہ کی نعمتی کی جائے اللہ کے علاوہ جن کی بندگی و پرستش کی جاتی ہے بندگی کسی بھی طریقے سے ہواں کا انکار کرنا۔ اس سے دشمنی رکھنا اس کی تکفیر کرنا ہے۔ یہ عجیب قوم ہے کہ خود کو اور دیگر لوگوں کو فقہیات اور دیگر علوم کی باریکیوں میں مشغول رکھتے ہیں جبکہ دنیا ناحق معبودوں سے بھری ہوئی ہے جن کی عبادت کی جا رہی ہے لوگ تیزی سے ان کی عبادت کی طرف جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہنے یا لکھنے کے تیار نہیں ہے جبکہ فروعی فقہی اختلافی مسائل میں کئی کئی جلدیوں میں کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، فروعی مسائل میں یہ لوگ مصروف ہو گئے ہیں اور دین کا وہ اصل الاصول ترک کرچکے ہیں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا یہ لوگ صیرہ گناہوں سے بر سر پیکار ہیں مگر کبیرہ گناہوں اور شرک اکبر سے غافل ہیں جو ہر عمل کو باطل کرنے والا ہے۔

البانی: تکفیر ہماری اسلامی زندگی کے لیے نقضان دہ ہے۔

ابو بصیر: وہ کون سا نقصان ہے جس سے شیخ خوفزدہ ہیں؟ سزا میں قید، قتل یا دیگر تکالیف؟ کیا ان تکالیف کا سامنا اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے نبی ﷺ نہیں کیا؟ آپ ان شرعی نصوص کا کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن مصائب میں بیٹلا ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے دین کے حساب سے بیٹلا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مصائب و آلام انبیاء پر اور اس کے بعد جتنا نیک و دیندار آدمی ہوگا وہ بیٹلا ہوگا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو سرکشوں اور اللہ کے باغیوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے؟ تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دین کی مدد بھی ہو۔ اعلاء کلمۃ اللہ بھی ہو اور تکالیف بھی نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَرَّ مِنْهُمْ وَلِكُنْ لَّيْلُوا بَعْضُكُمْ بِعَصْرٍ وَالَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضْلَلَ أَعْمَالُهُمْ (سید بن حمود: ۶)

اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدله لے لیتا مگر وہ تم کو ایک دوسرے (کے ساتھ لڑا کر) آزماں چاہتا تھا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بہت ہارنے والواس راستے کو اپنا جو تھکاوٹ والا ہے اسی راستے پر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام چلے ہیں اسی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسماعیل علیہ السلام نے خود کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا یوسف علیہ السلام کو چند گلوں کے عوض فروخت کیا گیا انہیں قید کیا گیا زکر یا علیہ السلام کو آری سے کاٹا گیا، میحی علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، ایوب علیہ السلام پر سختیاں آئیں، داؤد علیہ السلام نے دکھاٹھائے، عیسیٰ علیہ السلام کو تہبا کیا گیا، محمد علیہ السلام کو مختلف قسم کی تکالیف دی گئیں مگر ہم (ان کی اتباع کے دعویدار) کھلیل کو دیں مصروف ہیں۔ (الفوائد: ص 42)

شیخ صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اردوگرد بیٹھے ہوئے لوگ میرے بارے میں یہی کہتے ہوں گے کہ یہ وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ چلنے سے ہم امت کو روک رہے ہیں

انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب انہیاء کرام علیہم السلام اور ان کے تبعین علماء کاملین ناپسندیدہ قرار دیئے گئے اور ان کا راستہ مشکل سمجھا گیا تو ہم سب سے پہلے ناپسندیدہ قرار دیئے جانے والے ہیں اس ناپسندیدگی کو ہم قبول کرتے ہیں اسے اپنے لیے باعثِ عزت سمجھتے ہیں۔

البانی: ہم کلمہ تکفیر کے استعمال سے اجتناب لازمی سمجھتے ہیں۔

ابو بصیر: جہاں اجتناب واحتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں مگر جہاں صریح کفر ہو تو تکفیر سے اجتناب ایسی پرہیزگاری نہیں ہے کہ جس کی گنجائش اللہ کی شریعت میں ہو بلکہ یہ تو قوم کے ساتھ تلبیس ابلیس کرنا ہے، ایسی پرہیزگاروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ کی تکفیر سے بھی اجتناب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک ان پر جنت قائم نہ ہو جائے تب تک تکفیر نہیں کرنا چاہیے۔

البانی: شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ (تکفیری) ان (حاکم مسلمین) پر کفر کا حکم لگاتے ہیں اس وجہ سے ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں۔

ابو بصیر: یہ مسئلہ مذاق یا کسی کی خواہش و مرضی کا نہیں ہے کہ ہم اس پر اکتفا کریں کہ کون کیا چاہتا ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ جب اللہ کی شریعت میں ان پر کفر کا حکم لگایا جا چکا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس سے کم پر اکتفا کریں بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر اللہ کا وہ حکم لا گو کر دیں جس کے وہ مستحق ہیں اس میں کسی قسم کی طرفداری، لحاظ یا کمی بیشی نہ کریں۔

البانی: شیخ کہتے ہیں ان لوگوں نے شریعت کے احکام میں بہت سختی کی ہے حالانکہ یہ کافی ہے کہ ہم کسی عمل کو گراہی کہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں کافر ہے۔ فلاں کام کافر ہے۔

ابو بصیر: یہ تو ظاہر ہے کہ شیخ اس کا اقرار نہیں کریں گے نہ ہی اس پر رائے دیں گے۔ اس لیے

کہ ان کے نزدیک کفر اس وقت ہوتا ہے جب (کفر یعنی عمل کے ساتھ) دلی اعتقاد بھی ہو۔ گویا کفر صرف اعتقاد ہے زبانی قول نہیں حالانکہ ایمان کے بارے میں یہ ہم کا قول ہے جو کہ نصوص شرعیہ اور علماء امت کے خلاف ہے۔ علماء امت کہتے ہیں کہ ایمان، عقیدہ، قول اور عمل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الظِّينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيْمَ﴾^{☆المائدہ: ۱۷} ”وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔“ دوسرا جگہ ارشاد ہے: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الظِّينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَالِثُ ثَلَاثَةَ﴾^{☆المائدہ: ۷۳} ”وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔“ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾^{☆المائدہ: ۶۴} ”یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بند ہے ہوئے ہیں۔“ ان کے ہاتھ بند ہے ہوئے ان پر لعنت کی گئی ہے ان کے اس قول کی وجہ سے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کے قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے عقیدے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفَرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾^{☆التوبۃ: ۷۴} ”انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔“ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے ثابت ہوا کہ کفر قول کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر بہت سے دلائل ہیں جنہیں ہم عنقریب ذکر کریں گے اور علماء کے اقوال بھی پیش کریں کریں گے جن سے ان کے تمام شبہات کا ازالہ ہو جائے گا جو دور حاضر کے جہیے کے دل میں ہیں۔ ایسی وضاحت کریں گے اس مناسکے کی کہ ہم اور اس کے تبعین اس تک پہنچ نہیں سکے ہوں گے۔

البانی: ہم اس سوال کی نسبت سے بات کر رہے ہیں۔

ابو بصیر: یہ شام رسول کے حکم کے متعلق ہے۔

البانی: مسلمانوں کے ہاں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ جس سے کلمہ کفر صادر ہوا اس سے

توبہ کرائی جائے گی۔

ابو بصیر: یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ شامتم رسول ﷺ کو توبہ کرائے بغیر قتل کرنا واجب ہے۔ جس طرح کہ کفر وارتداد پر بطور حد کے قتل کیا جاتا ہے اس کا ساقط کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ یہ حد دیکر حدود کی طرح نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الصارم“ میں کہتے ہیں: شامتم رسول کا قتل اگرچہ ایک کافر کا قتل ہے مگر یہ حدود میں سے صرف کفر و حرباً پر قتل نہیں ہے پہلے احادیث لگز رچکی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکی قتل ہے۔ اسی طرح زندقی اور جو بار بار گالیاں دے رسول ﷺ کو بیا بار بار مرد ہو جس کی اس حرکت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اسلام کو تھیر سمجھ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تو اس کو توبہ کرائے بغیر قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ

اللَّهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهُدِيْهُمْ سَبِيلًا (النساء: ۱۳۷)

جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر زیادہ کیا اللہ انہیں بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہیں راستہ دھلانے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ

أُولَئِكَ هُمُ الظَّالُمُونَ (آل عمران: ۹۰)

جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد پھر زیادہ کیا کفر ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی یہ لوگ گمراہ ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان آئیوں میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر زیادہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کفر اور کفر زیادہ میں اللہ نے فرق رکھا ہے صرف کفر کے بجائے

زادگی توبہ قبول نہ ہوگی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کفر کی توبہ قبول ہوتی ہے ان کی سوچ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (الصارم: ص 368)

ابن ضویان منار اس بیل (409/2) میں لکھتے ہیں: بار بار مرتد ہونے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا بار بار کا ارتدا اس کے عقیدے کی خرابی اور اسلام کو حقیر سمجھنے کی دلیل ہے۔ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جس نے متعدد بار اللہ کی شان میں گستاخی کی اور اپنے اس عمل کی پرواہ بھی نہیں کرتا اسے معمولی کام سمجھتا ہے تو یہ اس کی توبہ کے کذب اور اس کے عقیدے کی خرابی کی دلیل ہے یہ اس زنداقی کی طرح ہے جس کے باطن پر ہم یقین نہیں کر سکتے نہ ہی اس کا رجوع قبول کر سکتے ہیں۔ (الشفاء: ص 631)

البانی: شیخ البانی کہتے ہیں کہ جس نے توبہ کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلمہ کفر کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر دوبارہ یہ عمل کر لیا تو پھر اسے بھی مرتد سمجھ کر قتل کیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔

ابو بصیر: اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توبہ کرانے سے پہلے کسی پر کفر و ارتدا کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اس لیے کہ اس کا ارادہ اور اس کا باطن معلوم نہیں اس کا ارادہ و باطن اس وقت معلوم ہوگا جب اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ باطنی طور پر صحیح ہے لہذا اس کا ظہری کفری عمل کی بنابر اسے کافرنہیں کہا جائے گا۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور توبہ پر قتل ہونے کو ترجیح دیدی تو اس کا بد باطن ظاہر ہو جائے گا اور اس بنیاد پر ہم اس کے کافر اور مرتد ہونے کا حکم لگادیں گے اس لیے کہ ہم نے اس کے باطن کی خرابی معلوم کر لی ہو گی۔ نہ اس بنابر کہ اس نے کفر کا اظہار کیا ہے۔ یہ قول چند وجوہ کی بنابر باطل ہے۔

① یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا قول اور رائے ہے قرآن و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ ہی شیخ کے اسلاف میں سے کسی نے اس طرح کہا ہے۔

۲ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے۔ یہ دلائل بتاتے ہیں کہ مرتد سے توبہ ارتدا وہ کفر سے کروائی جائے گی صرف کفر کے بارے میں غلطی کرنے سے نہیں اور نہ ہی توبہ کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ توبہ سے پہلے اسے مرتد یا کافرنہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: ﴿فَإِذَا
أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾^{التوبۃ: ۵} ”جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکین سے قتل کرو۔” ﴿فَإِنْ تَأْبُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَتُوْا الزَّكُوْةَ فَخَلُوْا
سَبِيْلَهُمْ﴾^{التوبۃ: ۵} ”اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو (یعنی جنگ نہ کرو)۔“ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ خطاب عام ہے ہر مشرک کے قتل کے لیے اور جب وہ شرک سے توبہ کر لے نماز قائم کرے زکاۃ دے تو اس کا راستہ چھوڑنا ہے چاہے وہ اصلی مشرک ہو یا مرتد مشرک۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انصار کا ایک آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکین سے جاملاتو اللہ نے آیت نازل کی: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ
قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاهَهُمُ الْبَيِّنُونَ وَ اللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^{آل عمران: ۸۶} ”اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا (کیوں
دے گا؟) جو ایمان لانے اور رسول ﷺ کی حقانیت کی گواہی کے بعد کافر ہو گئے جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آگئے تھے اللہ طالبوں کو ہدایت نہیں کرتا۔“ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا مِنْ بَعْدِ
ذِلِّكَ وَ أَصْلُحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^{آل عمران: ۸۹} ”مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ بخششے والا رحم کرنے والا ہے۔“ اس کی قوم نے یہ اس آیت اس آدمی کے پاس پھیجی تو اس نے توبہ کر لی اور واپس ہوا تو نبی ﷺ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ عبد اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اہل عراق میں سے کچھ لوگوں کو پکڑا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ ان لوگوں کے سامنے دین حق اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پیش کرو اگر وہ قبول کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ

دواگر قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے قبول کیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا کچھ نہ نہیں کیا تو انہیں قتل کر دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم میں کہتے ہیں: کہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ محمد بن عبد اللہ عبدالقاری کہتے ہیں: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو موئی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک آدمی پیش ہوا انہوں نے اس سے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے اس نے بتا دیا۔ پھر پوچھا کوئی عجیب خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا ہم نے اُس کی گردان مار دی (قتل کر دیا) عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم لوگوں نے اسے تین دن تک قید کیوں نہ رکھا؟ روزانہ اسے اچھی روٹی کھلاتے اور اس سے توبہ طلب کرتے شاید وہ توبہ کر لیتا اللہ کے حکم کی طرف آ جاتا، میں نہ وہاں موجود تھا، نہ میں نے حکم دیا نہ اس پر راضی ہوں، قاضی عیاض کہتے ہیں: جمہور سلف کا مذہب ہے کہ مرتد سے توبہ کروائی جائے گی۔ ابن القصار نے بیان کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ علیہم کا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر اجماع ہے کہ مرتد سے توبہ کروائی جائے گی کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی، عثمان، علی، ابن مسعود رضی اللہ علیہم، عطاء بن ابی رباح، نجحی، ثوری، مالک، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق و اصحاب الرائے کی بھی رائے ہے۔ (الشفاء: 2/556)

یہ تمام دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مرتد سے توبہ کروائی جائے گی مگر توبہ سے پہلے اس پر مرتد و کافر کا حکم لگانے میں کوئی مانع نہیں ہے۔

③ شیخ کے نزدیک توبہ کروانا دراصل باطن کو ٹوٹانا اور دل میں جو کچھ ہے اسے معلوم کرنا ہے ظاہری کفر کا خاتمہ نہیں ہے اس لیے کہ حکم اس پر لگایا جاتا ہے جو دل میں جا گزیں ہے جو کفر اس نے ظاہر کیا اس پر نہیں یہ قول اس قاعدے اور اصول کے خلاف ہے جو کفر و ایمان سے متعلق ہے اور جس پر گذشتہ طور میں بحث ہو چکی ہے۔

④ توبہ کسی چیز سے کروائی جاتی ہے جب کفر وارتداد ہی نہیں ہے تو پھر توبہ کس لیے کروائی

جاری ہے۔ قارئین پر قیامِ جحۃ اور توبہ کروانے میں جو فرق ہے وہ مخفی نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں میں اتنا واضح فرق ہے کہ دونوں کو باہم خلط نہیں کیا جاسکتا۔

۵ اس قول کا مقصد دراصل تکفیرِ معین سے خود کو بچانا ہے اس لیے کہ تکفیر کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے ایسا توہہ کرنا کہ جو باطن کی حقیقت اور دل میں پھیپھی باتوں سے آگاہی فراہم کرے۔ چونکہ ہم کسی باطن کی حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتے لہذا کسی کی تکفیر بھی نہیں کر سکیں گے

۶ یہ قول جنم کے عقیدے کو بنیاد فراہم کر رہا ہے جس نے ایمان کو صرف قلبی اعتقاد تک منحصر کر رکھا ہے۔ اور کفر کو قلبی انکارتک محدود رکھا ہے۔ ان نکات اور اشارات کی طرف تو جنم کی بھی نگاہ نہ گئی ہو گی جہاں تک شیخ کی گئی ہے۔ خدا لگتی کہو کہ کیا جنم نے توہہ کو فر کے دلی قصد و ارادے کی نفی کی دلیل قرار دیا ہے؟ پہلے دلائل گزر چکے ہیں کہ مرد دین میں ایسے بھی تھے جنہوں نے ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے کفر کا قصد کیا مگر جب انہوں نے توبہ کی تو وہ قبول کر لی گئی۔ تو کیا ان نصوص کی مخالفت جائز ہے؟ کیا ان کی توبہ کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دلوں میں کفر کا قصد نہیں کیا تھا؟ اور ان کی توبہ سے پہلے ہم ان پر کفر و ارتاد کا حکم نہیں لگا سکتے؟ شیخ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا اصرار اور توبہ پر قتل ہونے کو ترجیح دینا دلیل ہے اس بات پر کہ اس نے دل سے کفر کا قصد کیا ہے۔ جنم کی طرح شیخ کے نزد یہ بھی کفر کا مدار صرف دلی اعتقاد ہے۔

البانی: حقیقت یہ ہے کہ تکفیر کا مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے میں یہاں جواب دینے کے بجائے امام بخاری کی روایت کردہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول ﷺ فرماتے ہیں تم لوگوں سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اس نے کوئی بھلانی نہیں کی تھی جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا باپ تھا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ تھے۔ اس نے کہا اگر اللہ کو مجھ پر قدرت مل گئی تو مجھے بذریعہ عذاب کرے گا یہاں دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی قدرت پر شک کرتا تھا اور صریح کفر ہے۔ اب اس کی وصیت

ویکھیں۔ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو میری را کھ آدھی دریا میں آدھی ہوا میں اڑا دوتا کہ رب سے چھپ جاؤں یہ گویا کفر کی تکمیل تھی (مرنے پر اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا) اللہ نے اس کے ذرات سے کہا فلاں آدمی بن جاؤ وہ بن گئے اللہ نے پوچھا میرے بندے تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف نے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہاں ہم اللہ کے فرمان کی طرف آتے ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^{النساء: ٤٨} ”اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ بخشتا ہے جسے چا ہے۔“ اس نے شرک کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں اس نے کفر کیا۔ میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ شرع کی لغت میں شرک و کفر متادف لفظ ہیں جس نے شرک کیا اس نے کفر کیا جس نے کفر کیا اس نے شرک کیا۔ دلیل (اس حدیث میں) یہ ہے کہ اس آدمی نے جب ایسی بات کی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے اللہ سے مجع کرے گا اسے اٹھا دے گا اور عذاب کر دے گا کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس نے جب کفر کا اظہار کر لیا اور اللہ نے اسے بخش دیا تو اللہ کے اس قول کا ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^{النساء: ٤٨} حالانکہ اس کا یہ قول کفر تھا اس کے باوجود اللہ نے اسے بخش دیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ایک ایسا کفر تھا جس کا اس نے دل سے ارادہ نہیں کیا تھا۔ ولی اعتقاد کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ رب کے خوف کی وجہ سے تھا کہ اس کے ہاتھ گناہوں اور معاصلی میں رنگے ہوئے تھے اس وجہ سے اس نے ایسی غلط وصیت کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور اللہ نے اس کا گناہ بلکہ اس کا کفر معاف کر دیا اس لیے کہ وہ ولی اعتقاد کی بنیاد پر نہیں تھا۔

ابو بصیر: کافر کا عدم تکفیر بھی خطرناک مسئلہ ہے تو آپ لوگ کیوں تکفیر سے خوفزدہ رہتے ہیں جو تم پوشی کرتے ہیں خوف یا خواہش کی بنا پر تکفیر کافر سے بھی اجتناب کرتے ہیں اس آدمی کی

بخشش کی وجہ بنا کا کہ اس نے دلی کفر نہیں کیا تھا؟ تو یہ دور حاضر کے جمیع کی عجیب و غریب باتوں میں سے ایک ہے اس میں یہ لوگ متفرد ہیں امت کے علماء میں سے یہ بات کسی نے نہیں کی ہے۔ لہذا یہ بات چند وجوہات کی بنابری باطل ہے۔

① اس آدمی نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا تھا کہ اسے حاصل کرنا ہے اس کے حصول کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور ان سے ایسا کرنے کا عہد لیا۔ اگر یہ اس کا قصد و ارادہ نہیں تھا تو پھر ارادہ کس کو کہتے ہیں؟

② علماء نے کہا ہے کہ یہ آدمی اپنی جہالت و علمی کی وجہ سے معدود ہے کہ اسے اللہ کی صفات کا علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے عذاب سے نہیں بچا کہ اس نے قصد نہیں کیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ (411-491) میں لکھتے ہیں: اس بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی صفات سے آگاہ نہیں تھا اس کی قدرت سے لاعلم تھا بہت سے مسلمان بھی اس کی طرح لاعلم ہوتے ہیں لہذا وہ کافر نہیں ہو جاتے۔ ان کے علاوہ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس آدمی کو علم نہیں تھا عدم قصد کفر نہیں۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی صفات کا منکر تھا اس کے باوجود اس کی تکفیر میں مانع اس کا ایسا جہل ہے جسے وہ رفع نہیں کر سکتا تھا۔

③ دل میں کفر کا اعتقاد نہ ہونا جہنم اور اس کے تبعین کے علاوہ کسی کے ہاں موائع تکفیر میں سے نہیں ہے اس لیے کہ جہنم کے نزدیک ایمان صرف اعتقاد قلبی کو کہتے ہیں اس لیے کفر بھی اعتقاد قلبی کا نام ہے۔

④ اگر ایک آدمی اپنے کفر یہ قول عمل پر اصرار کرتا ہے اور زبان سے واضح طور پر کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کا منکر ہے تو یہ سب کچھ پھر بھی شیخ کے نزدیک صرف قلبی کفر کے قصد پر دلیل ہے؟ و یہ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ شیخ اور ان کے تبعین جمیع زماں کے نزدیک دلی طور پر کفر تب ہوتا ہے جب وہ شخص خود وضاحت و صراحة کے ساتھ زبان سے اقرار کرے کہ وہ قلبی طور پر کفر کا

قدرتکھتا ہے اس کا اعتقاد رکھتا ہے اور اسے حلال سمجھتا ہے۔ ورنہ تاویل کامیدان تو بہت وسیع ہے جتنا بھی کفر و عناد کا اظہار کر لے..... اس سے ان جمیع زماں پر لازم آتا ہے کہ وہ ابلیس کی تکفیر سے بھی اجتناب کریں اور بہت سے ان سرکشوں کی تکفیر سے بھی جن کے کفر کی گواہی قرآن نے دی ہے اس لیے کہ ان میں تکفیر معین کے لیے وہ شرطیں نہیں پائی جاتیں جو ان لوگوں کے ہاں معتبر ہیں۔

⑤ شیخ کی طرف سے یہ علت بیان کرنا دراصل ایمان کے بارے میں جہنم کی رائے کی تائید و حمایت ہے چاہے شیخ کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ ہم شیخ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔

البانی: (بخاری کی روایت میں مذکور) شخص نے جب یہ بات کی اور اس طرح کی وصیت کر لی تو وہ کفر اور گمراہی ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی کفر میں واقع ہوا تو کفر اس پر واقع ہوا۔

ابو بصیر: یہ اصول صحیح ہے قرآن و حدیث سے اس پر دلالت موجود ہے۔ ہم نے بھی اسے اپنی کتاب ”قواعد التکفیر“ میں ذکر کیا ہے۔ مگر شیخ نے اس قاعدے اور دیگر کی غلط تفسیر کی ہے۔ انہیں وہاں محمول کیا ہے جہاں ان کو محمول نہیں کیا جاتا دور حاضر کے جهیے کی طرف سے اس میں بدترین بد دیناتی کی گئی ہے، کہ اسے تکفیر معین کے لیے مانع بنادیا ہے جتنا بھی واضح و صریح کیوں نہ ہو، انہوں نے بغیر دلیل کے اس سے استشہاد کیا ہے اپنے قواعد کی حقانیت اور اپنی شاذ آراء پر لہذا ہم مجبور ہیں کہ اس قاعدے کے بارے میں شرعی ضابطہ کی وضاحت کریں تاکہ اس کا صحیح استعمال ہوتا رہے اسے افراط و تغیریط کا شکار نہ کیا جائے۔

قواعدہ یہ ہے: کہ اگر تکفیر معین کے موانع میں سے کسی مانع کا احتمال ہو تو وعید و تکفیر کو معین کے ساتھ نہ ملایا جائے، یہ جتنے موانع ہیں اہل علم کی وضاحت کے مطابق سب میں ایک صفت مشترک ہے اور وہ ہے شارع کے مقصد کو سمجھنے یا حاصل کرنے سے بجز، جس کی وجہ سے مخالفت اور کفر کا

ارتکاب کر بیٹھا ہے اب جس مانع کے اندر عجز کی صفت مکمل طور پر ثابت نہ ہوا اور جس مخالفت یا کفر یہ قول عمل میں واقع ہوا ہے اس میں شارع کے مقصد کو سمجھنے سے مکمل طور پر عاجز نہ ہوتا یہ مانع معتبر نہیں ہوگا اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ اس وقت بروئے کار لایا جاتا ہے جب ظن موجود ہو جو تکفیر معین کی راہ میں مانع ہو مگر جب شرعاً موانع تکفیر میں سے کوئی مانع نہ ہوتا اس قاعدہ کا استعمال جائز نہیں ایسے موقع پر اس کا استعمال تلبیس وار جاءے ہی ہے۔

البانی: ہمیں اس حقیقت کو منظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان خوارج میں شامل نہ ہوں جو مسلمانوں کی تکفیر میں مبالغہ کرتے ہیں صرف گناہوں اور معصیات کی بنابر انہیں کافر قرار دیتے ہیں جبکہ ہماری یہ گفتگو گناہ سے متعلق نہیں بلکہ کفر سے متعلق ہے مگر ہم فرق کرتے ہیں اس کفر میں جو دل کے قصد وارادے سے کیا جائے اور جو بغیر قلبی ارادے کے ہو یعنی ایک قلبی ہو دوسرا علی میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔

ابوبصیر: شیخ کی بات کا مقصد یہ ہے جو شخص قلبی و ظاہری کفر کرتا ہے وہ کافر ہے فعلی کفر کرنے والا کافر نہیں ہے۔ اس کا واضح و ظاہر کفر اس بات میں رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کا باطن ایمان پر قائم ہوا سے علیحدہ سمجھا جائے گا اس کافر سے جو قصد وارادہ قلبی کے ساتھ کفر کرتا ہے صرف یہی شخص کافر ہے۔ یہ قول کئی وجہات کی بنابر غلط اور باطل ہے۔

① یہ اس صحیح شرعی قاعدے کے معارض ہے جو کفر اور ایمان میں ظاہر کا اعتبار کرتا ہے دل چیر کرد کیکھنے سے منع کرتا ہے جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔

② اس میں ان نصوص شرعیہ کا رد ہے جن میں ظاہر و باطن کے باہم مربوط ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن میں سے ہر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور ظاہر کا فساد اصل میں دل کے فساد کی وجہ سے ہے دل جتنا خراب ہوتا جائے گا ظاہر اتنا خراب ہوگا اسی طرح بر عکس بھی ہوتا ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے (بخاری کی

روایت ہے) خردار جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے سنوہ دل ہے۔ فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے جب وہ گناہ ترک کر دیتا ہے استغفار کر لیتا ہے تو بہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (صحیح ترمذی: 2654) ”ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگادیا ہے ان کے اعمال نے۔“ ان کے علاوہ دیگر نصوص و دلائل ہیں جو ظاہر و باطن کے تعلق وربط پر دلالت کرتے ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (الفتاویٰ: 14/120-121) میں فرماتے ہیں: ایک اصول ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ کیا دل صرف تصدیق و تکذیب کرتا ہے اس کا کوئی (اثر عمل) زبان یا اعضاء پر ظاہر نہیں ہوتا مگر اس کے خلاف قول زیادہ واضح ہے اس لیے کہ سلف امتہ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اظہار اعضاء سے ہوتا ہے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ وہ رسول کو مانتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے ان کے ساتھ دلی محبت رکھتا ہے مگر زبان سے کبھی اسلام کی بات نہیں کرتا نہ اسلام کے واجبات میں سے کچھ بجا لاتا ہے تو یہ شخص باطنی طور پر مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ جہنم اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ ایسا شخص باطنی طور پر مومن ہو سکتا ہے صرف دلی معرفت و تصدیق ایمان ہے اسی کی بنیاد پر قیامت میں ثواب ملے گا اگرچہ قول عمل نہ ہو مگر شرعاً و عقلائیّہ قول اور رائے باطل ہے۔ کوچ اور احمد بن حنبل وغیرہ سلف نے اس کو کافر کہا ہے۔ نبی ﷺ کا فرمان ہے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اگر بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے سنوہ دل ہے، آپ ﷺ نے وضاحت کر دی ہے کہ دل کی اصلاح سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے دونوں لازم و ملزم ہیں۔ اگر جسم صحیح نہیں تو یہ دل کی خرابی پر دلیل ہے۔ مومن کا

دل اچھے کام ہی کرتا ہے۔ جس نے ایمان کا اقرار کیا مگر عمل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا دل مومن نہیں ہے اس لیے کہ جسم دل کے تابع ہے دل میں جو کچھ ہوگا اس کے مطابق اثر عمل جسم پر ظاہر ہوگا کسی بھی صورت میں ہو۔ غور فرمائیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ البانی کے قول کو کس طرح جہنم کا قول قرار دیا ہے کہ ایمان کے بارے میں یہی رائے جہنم اور اس کے تبعین کی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا قول نقل کیا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔

۳) شیخ کا قول جہنم کی رائے کو بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ جہنم بھی یہی کہتا تھا کہ ایمان صرف قلبی معرفت اور اعتقاد کا نام ہے اعضاء کے اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حمدان بن علی و راق کہتے ہیں: احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ مر جہد کا ذکر ہوا میں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دل سے اللہ کو پہچان جائے تو وہ مومن ہے۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بات مر جہد نہیں بلکہ جہمیہ کرتے ہیں۔ مر جہد کہتے ہیں کہ انسان زبان سے اقرار کرے چاہے اعضاء سے عمل بھی نہ کرے۔ جہمیہ کہتے ہیں جب آدمی دل سے رب کی معرفت حاصل کر لے اور اعضاء سے عمل نہ کرے (تو وہ مومن ہے) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کفر ہے اس لیے کہ ابلیس رب کو پہچانتا تھا جبھی تو کہا کہ ﴿رب بما اغويتنی﴾ میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ (المسائل والرسائل فی العقیدہ: 73/1)

۴) اگر کوئی کافر کہے کہ میں دل سے تصدیق کرتا ہوں تو ہم اس تصدیق کو معلوم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اس دعویٰ پر قائم ہے خاص کر جب شیخ نے صریح کفر کو بھی باطن کے کفر پر دلیل نہیں بنایا لہذا اس طرح ہم کسی کو بھی متعین طور پر کافر نہیں کہہ سکتے۔ (جہمیہ جہنم بن صفوان کی طرف منسوب ہیں وہ خراسان کا تھا امیر خراسان مسلم بن احوز نے اس کے باطل عقیدے کی بنیا پر اسے قتل کر دیا تھا میزان الاعتدال (426/1) میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں : گمراہ، بعد تھا جہمیہ کا سر براد تھا۔ چھوٹے تابعین کے دور میں ہلاک ہوا کوئی روایت نہیں کی مگر

بہت بڑا شرپ پھیلایا)

ابراہیم شقرہ: سوال کرتے ہیں شیخ آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اصولی علمی قاعدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس سے کفر سرزد ہو ضروری نہیں کہ اس پر کفر واقع ہو (کافر قرار دیا جائے) یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔

ابوبصیر: پہلے گذر چکا ہے کہ اس قاعدے کے کچھ ضوابط ہیں اس کو وہاں لا گو کیا جاتا ہے جہاں تکفیر کے موافق ہوں اور شرعاً معتبر ہوں ہم اس دور حاضر کے جهیہ اور اس کے تبعین سے کہتے ہیں کہ دین کا جو قاعدہ و اصول تمہاری رائے سے مناسبت رکھتا ہے وہ تمہیں نظر آ جاتا ہے جبکہ بقیہ اصول و قواعد کے لیے تمہاری آنکھیں بند بلکہ انہی ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اہم قواعد تمہاری گمراہی، خواہشات اور تلبیسات کو باطل کر دیتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ بہت اہم ہے تو تکفیر (کی حمایت میں) دیگر قواعد و اصول بھی بہت اہم ہیں۔ جو لوگ تکفیر کے مسئلہ میں افراط و تفریط کا شکار ہیں تو یہ افراط یا تفریط ان کے اپنے اعمال کی مناسبت سے ہے کہ اپنے مقصد کے قواعد پناہ لیے ہیں اور بقیہ کو چھوڑ دیا ہے جو ان کی خواہشات اور شاذ آراء کو باطل کرنے والے ہیں وہ قواعد ان کے نظریات کو غلط ثابت کرنے والے ہیں۔

البانی: میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کی اس مسئلے کے ساتھ میری اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ جو لوگ مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دیتے ہیں وہ دوバتوں میں سے گویا ایک کرنا چاہتے ہیں:

① یہ کہ عوام سے کہہ رہے ہیں ان حکام کا کہنا مت منو۔

② یہ ان حکام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو انہیں معزول کر دو۔

یہ دونوں باتیں صرف خام خیالی ہیں اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان حکام کے خلاف بتحیار اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر میں معمولی ساختیاں بھی نہیں رکھتے۔

ابو بصیر: معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اور ان کے ساتھی طاغوتی حکمرانوں میں سے بھی بعض کو کافر نہیں سمجھتے۔ کسی حاکم یا محاکوم کو کافر قرار دینے کے صرف دو مقصد نہیں ہوتے بلکہ ان کے علاوہ دیگر مقاصد بھی ہیں جن میں سے اہم ترین مقصد ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا کہ اللہ نے جنہیں کافر کہا ہے ہم اس کی تکفیر سے اجتناب نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ایمان کے لوازمات میں سے ہے کسی شخص کا اس وقت تک ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ مؤمنین سے دوستی اور کافروں سے دشمنی نہ کرے اور جب تک کسی کی تکفیر نہ کریں گے تو گویا اسے مسلمان مانتے ہیں اور اگر مسلمان مانیں گے تو اس سے دوستی کرنی ہو گی جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْ لِيَاءً
وَلِكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ (المائدہ: ۸)

اگر یہ لوگ اللہ پر، نبی پر اور نبی پر نازل ہونے والی (کتاب و شریعت) پر ایمان لاتے تو یہ بھی ان (کفار) سے دوستی نہ کرتے مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ (17/7) میں لکھتے ہیں: یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کافروں کی دوستی کی نفی کرتا ہے اور اس کی ضد ہے ایک دل میں ایمان اور کفار کی دوستی جمع نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى أَوْ لِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْ لِيَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ مُنَكَّرٌ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ (المائدہ: ۵۱)

یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ یہ لوگ آپس میں دوست ہیں جس نے ان سے دوستی کر لی وہ انہی میں سے ہے۔

اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ ان یہود و نصاریٰ کا دوست مؤمن نہیں جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو گا۔ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ

کافر کی تفیر اور اس سے دشمنی اس ملت ابراہیم کا حصہ ہے جسے اپنا نے کاہمیں حکم دیا گیا ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَءُوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (المتحنة: ٤)

تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے علاوہ تمہارے جو معبود ہیں ان سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و نفرت ظاہر ہو چکی ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَرْغُبُ عَنْ مَلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ (آلہ: ١٣٠)

ملت ابراہیم سے اعراض وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو۔

ان کے علاوہ بھی بہت سے مقاصد ہیں اگر موضوع سے ہٹ جانے اور کتاب کی طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمام کو دلائل کے ساتھ ذکر کر لیتے۔ شیخ کی بات میں شریعت کے مقاصد پر تمہت لگائی گئی ہے کہ یہ صرف خیالی باتیں ہیں ایسی باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ شریعت کے نصوص قطعی طور پر اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ کافروں اور ان کے سربراہوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ﴿وَإِنَّ أَطْعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ﴿الانعام: ١٢١﴾ ”اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو تم مشرک ہو گے۔“ اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَإِنْ تُطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿الانعام: ١١٦﴾ ”اگر آپ اکثر اہل زمین کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھکڑا دیں گے۔“ ﴿یا ایہا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَطِعُ الْكُفَّارِينَ وَالْمُنْفِقِينَ﴾ ﴿احزاب: ١﴾ ”اے نبی آپ اللہ کا تقویٰ

اختیار کریں اور کافروں کا کہانے مانیں۔ ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَطْعُمْ مِنْهُمْ أَثْمًا أَوْ كَفُورًا﴾ دھر: ۲۴ ﴿أَپنے رب کے حکم لے لیے صبر کریں اور ان میں سے گناہ گارونا شکرے کی اطاعت نہ کریں۔﴾ ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوْكُمْ عَلَى آغْيَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَسِيرِينَ﴾ آل عمران: ۱۴۹ ﴿اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایریوں کے بل پھر دیں گے پھر تم نقصان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى آذِبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ﴾ ذلک بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سُتْرِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ﴾ محمد: ۲۵، ۲۶ ﴿جو لوگ پیٹھے کے بل پھر گئے بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی۔﴾ شیطان نے ان کے سامنے مزین کیا اور انہیں امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے نازل کردہ سے نفرت کرتے ہیں کہا کہ ہم بعض باتیں تمہاری مانیں گے۔ ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفَّارِ يَنْعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ النساء: ۱۴۱ ﴿اللہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مومنین پر راستہ -﴾ ان کے علاوہ بھی بہت سے شرعی نصوص ہیں جن میں کفار سے اجتناب کرنے، ان کی اطاعت نہ کرنے ان کی طرف مائل نہ ہونے۔ اور ان سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ کیا ان واضح ترین آیات کے بعد بھی یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ شرعی نصوص ہمیں جن کاموں کا حکم دے رہے ہیں وہ خام خیالی پر مشتمل ہیں؟ اس پر عمل ممکن نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ الكھف: ۵ ﴿بہت بڑی بات ہے جوان کی زبانوں سے نکل رہی ہے یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔﴾

الباني: (شیخ البانی کہتے ہیں کہ) یہ لوگ اپنے گھروں میں (اپنے ملکوں میں) سکون و امن نہیں لاسکتے۔

ابو بصیر: یہ غلط بات ہے اس پر ہمیں مندرجہ ذیل اعتراضات ہیں:

مسلمان اگر سکون و امن میں نہیں ہیں تو شرعاً یا عقلائی کسی بھی لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم طواغیت الحکم کے کفر کو بیان اور واضح نہ کریں۔ اس لیے کہ ققال کی قوت کا حصول الگ چیز ہے اور کسی چیز کے بارے میں اللہ کا حکم بیان کرنا الگ ہے۔ ہم بہت سے انبیاء کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا اور طواغیت و دیگر کافروں سے عداوت کا اظہار کیا مگر ان کے ساتھ ققال یا مسلح کارروائی نہیں کی تھی۔ انہیں ققال کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہ نبی ﷺ کا کمی دور تھا جسے ہمارے نبی ﷺ نے بغیر ققال کے گزارا، اور مشرکین سے ققال کا حکم بھی نہیں دیا مگر اس کے باوجود حق بیان کرنے سے نہیں رکے تھے۔ مشرکین سے عداوت کے اظہار سے بازاۓ نہ اکٹی اور ان کے طواغیت کی تکفیر سے اجتناب کیا۔ انہیں عذاب الیم کی خبر دی۔ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ، شرح عقیدہ طحا ویہ میں کہتے ہیں: انبیاء میں سے سب سے زیادہ مخفی مجھہ یا آیت ہود ﷺ کی ہیں یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہا: ﴿يَا هُوَ ذُمَّاً مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ﴾ (۵۳: هود) "ہود تم ہمارے پاس واضح دلیل نہیں لائے۔" مگر اللہ نے جس کو توفیق دی ہے مجھنے اور تدبر کرنے کی ان کے نزدیک ہود ﷺ کے دلائل واضح تھے۔ جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ:

إِنَّى أُشَهِّدُ اللَّهَ وَ اشْهَدُو أَنِّي بَرِّيَءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِنْ دُوْنِهِ فَكِبِدُونِي
جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَ رَبُّكُمْ مَا مِنْ دَآبَةٍ
إِلَّا هُوَ أَخْذُ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (۵۵: هود)

میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو تم میرے خلاف مل کر مکر کرو پھر مجھے مہلت نہ دو میں نے اللہ پر توکل کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے جو بھی جاندار ہے اللہ اس کا مالک ہے میرا رب سید ہے راستے پر ہے۔

یہ بہت بڑا مجھہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی بہت بڑی قوم کو اس طرح مخاطب کرتا ہے بغیر کسی گھبراہٹ

یاڑ رخوف کے بلکہ اللہ پر بھروسہ و اعتماد کرتا ہے اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ اللہ ہی میرا مددگار اور وہ تمہیں مجھ پر غالب نہیں کرے گا۔ پھر انہیں اس کھلی دشمنی پر گواہ بنایا جو وہ ان کے ساتھ کر رہا تھا۔ کہ وہ ان سے اور ان کے دین سے بیزار ہے ان کے معبدوں سے بیزار ہے جو ان کی دوستی و دشمنی کا معیار ہیں اور ان کے لیے اپنا مال اور جان قربان کرتے ہیں۔ پھر انہیں مزید رسوائی کے لیے اپنی بات تاکید اور ہر ای کہ اگر تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے مہلت نہ دو تو پھر بھی صرف وہی کچھ کر سکو گے جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر انہیاء میں سے ایسے بھی تھے جن پر صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ جب اس نبی کے پاس اسلحہ اور قوال کی قوت نہیں تھی تو اس نے قوم کے سامنے حق کا اظہار نہیں کیا۔ اور طواغیت کی یا ان کے حمایتوں کی تغیر نہیں کی؟

(۲) اگر مشکل کام کی استطاعت نہ ہو تو آسان کوترک نہیں کیا جاتا جو شخص قبال کرنے سے عاجز ہو وہ زبانی طور پر حق کے اظہار سے عاجز نہیں بلکہ بعض مقام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جہاد بالسان جہاد بالسان سے زیادہ بہتر، مفید اور مناسب ہوتا ہے۔

(۳) جب امت میں استطاعت نہیں ہے یا خود امن سے نہیں ہے جیسا کہ شیخ کا دعویٰ ہے تو پھر یہ اس بات کی طرف دعوت دینے والی صورت حال ہے کہ ان کفار کے مقابلے کے لیے مادی قوت حاصل کی جائے:

اعِدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَ عَدُوُّكُمْ (الانفال: ۶۰)

ان (کفار) کے مقابلے کے لیے تیاری کر جتنی ممکن ہو قوت اور گھوڑوں تربیت اور تیاری سے اس سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈرائتے ہو۔

اسی طرح جہاد کی تیاری کرنی چاہیے اس لیے کہ واجب جس کے بغیر تکمیل کونہ پہنچ سکتا ہو اس کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر مسلمان جہاد سے عاجز ہے تو اس کے پاس جہاد کی تیاری کے بغیر چارہ نہیں

ہے اور اس سے کم تو پھر صرف نفاق ہی رہ جاتا ہے۔

اللَّهُ تَعَالَى كَافِرْ مَنْ هُوَ :

وَ لَوْ أَرَادُوا الْحُرُوجَ لَا عَدُوا لَهُ عُدَّةٌ وَ لِكُنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْبَاعَهُمْ فَشَبَّهُمْ

وَ قَيْلَ أَقْعَدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ (التوبہ: ۴۶)

اگر یہ لوگ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہوتے مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا تو انہیں ہلنے نہیں دیا اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی (معذور) بیٹھنے والوں سے ساتھ بیٹھ رہو۔

ابراہیم شقرہ: آج بھی مسلمان کمزور اور ماتحت ہیں اگر وہ کفار سے لڑنے قتال کرنے اور ان کی حکومتیں چھیننے جیسی باتیں کرنے لگ جائیں (تو صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں ورنہ) سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ زندہ درگور ہیں یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ زبان سے ہی کچھ کہہ سکے اگر اسے کفار سے مقابلے کی تیاری، قتال وغیرہ کے لیے بلا یا جائے۔

ابوبصیر: امت سے تبدیلی و انقلاب کی امید کیسے کی رکھی جاسکتی ہے جبکہ یہ جہاد سے رک گئی ہے اس سے بیگانہ ہو چکی ہے جہاد کا معنی اور اس کی روح تک ختم ہو گئی ہے دینی حمیت وغیرت جا چکی ہے۔ ہم لوگوں کو اس حال پر چھوڑ دیں کہ وہ ہمیشہ خوف اور طاغوتوں کے رب میں زندگی بسر کریں؟ میرے رائے تو یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر دینا ان منافقین کی روشن ہے جو نہیں چاہتے کہ امت میں طاقت، قوت اور خود مختاری آئے اسے عزت ملے اس میں جذبہ جہاد پیدا ہو۔ جیسا کہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذَى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ

كَعَذَابَ اللَّهِ وَ لَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيَسَ

اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (العنکبوت: ١٠)

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جب اسے اللہ کی راہ میں لوگوں کی طرف سے مدد آئے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سینوں کی باتوں سے باخبر نہیں ہے؟

اللَّهُ تَعَالَى كَافِرُوا مَنْ هُنَّ

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَّقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةٌ عَلَى
الْخَيْرِ (احزاب: ١٩)

جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے ساتھ بھلائی سے خالی سخت زبان کے ساتھ چلتے ہیں۔

ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سخت زبان کا یہ استعمال کئی طریقوں سے ہوتا ہے:

① کبھی تو یہ منافق مومنوں کو کہتے ہیں کہ یہ نوحست ہم پر تمہاری وجہ سے آئی ہے تم ہی نے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دی ان سے قفال کیا ان کی مخالفت کی۔

② کبھی کہتے ہیں تم اپنی قلت اور ضعف کے باوجود دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو؟ تمہیں تمہارے دین نے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُوَ لَاءُ دِينِهِمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الانفال: ٤٩)

جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔

③ کبھی کہتے ہیں تم لوگ دیوانے ہو۔ تمہارے پاس عقل نہیں ہے تم چاہتے ہو کہ خود کو

ہلاک کرو اور لوگ تمہارا ساتھ دیں۔ اسی طرح کی تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھلائی مل جائے۔ (الفتاویٰ: 28/457/858)

منافقین اور اس شخص کی بات کا موازنہ کریں۔ تو ان کے بیانات اور ان کے احساسات بالکل ایک جیسے ہیں۔

ابراہیم شقرہ: یہ مسئلہ صرف خیالات پر مبنی ہے۔ دو وجہ سے ایک تو اس کی بنیاد ہی تخلیل پر ہے شریعت کے مقاصدِ تکفیر سے علمی پر مبنی ہے۔ ثانیاً یہ اپنا ایمان ان کے ایمان پر ثابت نہیں کر سکتے۔

ابوبصیر: مسئلہ سے مراد شیخ کی ہے طواغیت الحکم والکفر اور ان کے خلاف بغاوت۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ شرعی مسائل کو خیالی قرار دینا دین کو معیوب بنانے کی ایک فرم ہے۔ ان کی باقاعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موجودہ دور کے طواغیت حکم میں سے کسی تکفیر نہیں کرتے۔

ابراہیم شقرہ: دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو ان کی قدرت واستطاعت میں نہیں سوائے اس کے کہ یہ خاموشی اختیار کر لیں۔ لہذا تمہارے قول کے مطابق اس بات کا بار بار دہرانا اس پر اصرار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے نفع کے بجائے نقصان کا سبب ہے۔ یہ تو ہوا ایک مسئلہ۔

ابوبصیر: حق بیان کرنے سے خاموشی اختیار کرنے والا گونگا شیطان ہے اس پر اللہ کا یہ کلام پیش کیا جاسکتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَبِ أُولَئِكَ يَأْعُنُهُمُ اللَّهُ وَيَأْعُنُهُمُ اللَّعْنُونَ (البقرہ: ۱۵۹)

جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل اور ہدایت میں سے اس کے

بعد کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے ان لوگوں پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

کیا ہمارے اسلاف (چہ جانبیکہ انبیاء و رسول) باطل و شرک پر خاموشی اختیار کرتے رہے؟ جس طرح کہ یہ علم شخص کہہ رہا ہے امت کو بیٹھے رہنے کا اور جو کچھ ہورہا ہے اس پر راضی و خاموش رہنے کی بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا إِيَّاهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ (المائدہ: ۶۷)

اے رسول پہنچا و جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔

علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں اس لیے تبلیغ و بیان ان کی ذمہ داری ہے۔ جو خاموشی یہ جاہل شخص چاہتا ہے کیا اللہ کے اس فرمان میں یہی مراد ہے؟

كُنْتُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے۔

وہ بہت سی احادیث کہاں جائیں گی جن میں طائفہ منصورہ ناجیہ کی صفات بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ طائفہ حق بیان کرے گا اس کے لیے قتال کرے گا اور اس بارے میں کسی کی ملامت کا خیال نہیں کرے گا کیونکہ امت کو بیٹھے رہنے خاموشی اختیار کرنے کی جو دعوت دے رہا ہے یہ بدعتی دعوت ہے جسے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ دعوت دینے والا غیر

یقین با تیں کرنے والا ہے اس سمعت اور ہنچا ہے۔ جہاں تک تکفیر سے نفع و نقصان کی بات ہے تو ہم اس پر پہلے بات کر کچے ہیں یہاں ہم دو باتیں کریں گے جن کا ذہن میں رکھنا اور اس پر یقین رکھنا چاہیے:

① یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ طواغیت الکفر اور ان کی افواج مسلمانوں کے ساتھ جنگ اس لینے نہیں کرتے کہ مسلمان ان کی تکفیر نہیں کرتے اور انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتے اگر ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے تو وہ ہم سے لڑنے اور ہمیں تکالیف دینے سے رک جائیں گے۔ اس طرح سوچنا صریح جہالت ہے نصوص شرعی سے مسلمانوں کی علمی اس کا سبب ہے حقیقت حال سے ان کی یہ بے خبری ہے انہیں حق و باطل کے معمر کے علم نہیں ہے۔ کفار اور مومنوں کے تعلق کا پتہ نہیں ورنہ اللہ نے تو فرمادیا ہے کہ:

وَ لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا

(البقرہ: ۲۱۷)

یہ (کفار) تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دیں اگر ان کی استطاعت ہو۔

فرمان ہے:

وَذَكَرِيْشُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ اَحَسَدًا
مِنْ عِنْدِ اَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (البقرہ: ۱۰۹)

بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد و بارہ کافر بنا دیں حسد کی وجہ سے جوان کے دلوں میں ہے جبکہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔

فرماتا ہے:

وَ لَئِنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَارَى حَتَّىٰ تَتَّبَعَ مِلَّتَهُمْ (البقرہ: ۱۲۰)

یہود و نصاریٰ ہرگز تجھ سے راضی نہ ہوں گے جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کر لے۔

تم جتنی بھی صلح کرتے رہو۔ دوستیاں نبھاتے رہوان کے سامنے بھکے رہو سکون و خاموشی سے رہو۔ وہ بھی بھی راضی و خوش نہ ہوں گے جب تک کہ اپنا دین مکمل طور پر چھوڑ کر ان کے دین کو نہ اختیار کرلو۔ اسلام ہی وہ واحد وجہ نفرت ہے جو انہیں کسی مسلمان میں نظر آتی ہے۔ اسی کی وجہ سے تو وہ مسلمانوں سے لڑتے ہیں:

وَإِذَا ذِكْرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا
ذِكْرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِّشُرُونَ (الزمر: ٤٥)

جب ایک اکیلے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے دل سکڑنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جب اللہ کے علاوہ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو تب یہ خوش ہوتے ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُمْ كَانُوا آءِيْدَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (الصفات: ٣٥)

جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لاٹ نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے تھے۔

بلکہ یہ لوگ تو مسلمانوں کی پاکیزگی دین اسلام پر استقامت اور جس خباثت اور فسق و فجور میں یہ بتلا ہیں ان سے مسلمانوں کی دوری کو بھی ناپسند کرتے ہیں اس پر بھی مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ ان کا تو مقصد یہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے علاقوں و ملکوں سے بے دخل کر دو۔

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيْبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (اعراف: ٨٢)

ان کو اپنے گاؤں سے نکال دو یہ لوگ پاک صاف لوگ ہیں۔

جو کفریہ ممالک آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں پرده کرنے والی یا ناقاب پہننے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ لہذا در حاضر کے چہمیہ مسلمانوں کو یہ جو خواب دکھار ہے ہیں کہ اگر مسلمان کافروں کی تیغیر سے رک جائیں تو یہ کافر بھی مسلمانوں سے لڑنا ترک کر دیں گے۔ یہ صرف خواب ہیں خیال است و محال است، دوسری بات جس کا سمجھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دیتا وہ عنقریب طاغوت کی راہ میں قربانی دے گا جو اللہ کے فرض کردہ احکام پر عمل کرنے میں کوتا ہی کرے گا تو اسے عنقریب طاغوت کے احکام کوئی گناہ زیادہ ماننا پڑے گا جو اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرے گا وہ عنقریب طاغوت کی راہ میں قتال کرے گا۔ جو حق کا دفاع نہیں کرتا اسے طاغوت کا دفاع کرنا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں تکالیف و پریشانیاں کتنی ہی بڑی اور سخت کیوں نہ ہوں طاغوت کی راہ کی تکالیف سے کئی گناہم ہیں۔ اس لیے کہ طاغوت اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کی راہ میں اپنے دین کی ضمیر کی عزت و مال اور رسانی و فقار کی قربانی نہ دی جائے اور پھر بھی یہ سب پریشانیاں قیامت کے عذاب کے علاوہ ہیں۔ اس کے بارے میں سید قطب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ:

”طاغوت کی غلامی سے نکلنے کے نقصانات و تکالیف اور اللہ کے دین کو اپنانا طاغوت کی غلامی کی نسبت بہت آسان ہیں اس لیے کہ طاغوت کی غلامی کی نسبت بہت آسان ہیں اس لیے کہ طاغوت کی غلامی بہت بڑی غلطی ہے اس میں جتنا بھی تحفظ، اطمینان اور زندگی کا امن اور رزق کی ضمانت ہو مگر یہ ہمیشہ رہنے والی تکلیف ہے اس لیے کہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ انسان اگر انسان کا غلام بن جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی غلامی ہے کہ انسان انسان کے بنائے ہوئے قانون کا غلام بن جائے۔ یہ کتنی بڑی غلامی ہے کہ ایک انسان کی لگام دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہوا سے جہاں اور جیسے چاہے لیے پھر تار ہے؟ بات یہاں تک آگے

نہیں رک جاتی بلکہ انسان مزید پسستی میں گر جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان طاغوت کی اطاعت میں اپنا مالی نقصان کرتا ہے جس طرح کہ اپنی اولاد کا نقصان کرتا ہے کہ طاغوت جیسے چاہے اور جن افکار و تصورات پر چاہے اس کی پروش کرے جیسے اخلاق و عادات کی اسے تعلیم دے۔ طاغوت ان کی زندگی بلکہ ان کی روح میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسے اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھاتا ہے۔ پھر ان کے دلوں میں ذہنوں میں اپنی عظمت عہدہ اور قدر و منزلت بھھاتا ہے۔ آخر کار ان کی عز توں کا بھی نقصان کر لیتا ہے کوئی باپ پھر اپنے نوجوان بیٹے یا بیٹی کے معاملات کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، طاغوت جو چاہے ان نوجوانوں سے کرواتا ہے۔ چاہے یہ سب کچھ کھلم کھلیا ہوتا رہے یا اس کو مختلف قسم کے مفہوم و تصور دے کر کروایا جائے۔ لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ طاغوت کے ماتحت رہ کر اپنی زندگی عزت مال اور اولاد کو تحفظ دی دیں گے یہاں کا وہم ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ احساس سے عاری ہو چکے ہیں۔ طاغوت کی غلامی سے اگر مال، عزت اور ضمیر کے لحاظ سے بہت بڑے نقصان اٹھانے پڑ جائیں تو وہ سب بالآخر فرع کا سبب بنتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کے میزان میں بھی ان کا وزن بھاری ہو گا.....

ابراہیم شقرہ: دوسرا مسئلہ یہ ہے کہاں ہیں وہ مسلمان جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں کیا تبدیلی چاہنے والے مسلمان موجود ہیں؟

ابوبصیر: یہ سوال جس سے تبدیلی چاہنے والوں کی نفی ثابت ہوتی ہے (وہ مسلمان جو کفر کی حالت کو ایمان و اسلام کی حالت میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں) یہ سوال باطل اور غلط ہے ہم اس کوئی طریقوں سے رد کر سکتے ہیں:

① اس طرح تصور کر لینا (کہ تبدیلی چاہنے والے مسلمان موجود نہیں) دراصل ان شرعی نصوص کا رد ہے جن میں ایک طائفہ منصوروہ کا ذکر ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا غالب ہو گا کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا جیسا کہ حدیث رسول ﷺ ہے:

((لاتزال طائفة من امتی ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى
ياتی امرالله وهم كذلك))

ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر رہے گا انہیں رسوائرنے (کی کوشش) کرنے
والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا وہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

میری امت کا ایک گروہ، ہمیشہ قوال کرتا رہے گا قیامت تک حق پر رہے گا۔ فرمایا: اللہ
اس دین میں ایک گروہ ایسا داخل کرے گا جسے اپنی اطاعت میں لگائے رکھے گا۔

ان کے علاوہ بھی نصوص ہیں جو اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔

② یہ بات دراصل موجودہ دور کے تمام مسلمانوں کی تکفیر ہے اس لیے کہ اس جاہل کو یہ
نہیں معلوم کرتے یہی کی خواہش یا کوشش کی نفی کا مقصد ہے کفر پر راضی ہونا۔ اور کفر پر راضی ہونا
کفر ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں مگر یہ جاہل آدمی تمام تر باتوں لفاظی اور چالاکی کے شریعت
کے مدلولات سے واقف نہیں ہے۔

③ یعنی ان بہت سے شرعی نصوص کے معارض ہے جن میں بتلایا گیا ہے کہ اس امت میں
ہمیشہ خیر باقی رہے گا قیامت تک۔ ان کے علاوہ بھی نصوص ہیں جو اس کو ثابت کرتے ہیں۔

④ جو کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ سب سے زیادہ بر باد ہونے والا ہے۔

ابراهیم شقرہ: رسول ﷺ نے فرمایا کہ: ((لا ما اقاموا الصلاة اور الا ان تروا كفرا
بواحًا)) کہ جب تک یہ حکمران نمازیں پڑھتے رہیں۔ جب تک تم ان سے صریح کفر نہ دیکھے
لو۔ ان احادیث میں رسول ﷺ نے جماعت مسلمین کو اشارہ کیا ہے جو ان حکمرانوں کو جبکہ وہ کفر
کر رہی یہ کہہ سکیں کہ حکومت چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیں (مسلمانوں میں اتنی طاقت ہو کہ کفر یہ حکومت

کو ختم کر سکیں) اور اگر صرف دشمنی، جہالت، خواہش کی بنابر ہو اور ضعف و عجز کی حالت ہو تو پھر حقیقت یہ ہے کہ خیال سے صرف خیال ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ شیخ البانی نے اس بات کی تصحیح کی ہے۔

ابو بصیر: حدیث میں (صرف ایک جماعت کی نہیں بلکہ) پوری امت کی بات کی گئی ہے کہ امت میں سے ہر شخص اپنی استطاعت مقام و حیثیت و مرتبے کے مطابق کام کرے صرف جماعت مسلمین کی تخصیص کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا کوئی طاغوت صرف کہنے سے حکومت چھوڑ دے گا؟ جہاں تک عناد، جبل اور خواہش کی بنیاد پر بات کرنے کا تعلق ہے تو یہ اس کہنے والے کی جہالت، قلت فہم اور قلت پر ہیزگاری کی وجہ سے ہے اگر شیخ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا اور شیخ اس کی بات کی تائید و تصحیح نہ کرتے تو ہم کبھی بھی اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ شیخ کی تائید و تصحیح کی وجہ سے اس آدمی کی تمام غلطیوں کا لمبے شیخ پر گرے گا اور جب ہم اس کا رد کریں گے تو وہ شیخ کا بھی رد ہو گا۔ ہمارا خیال ہے یہ آدمی شیخ کی زبان سے باطل اور غلط باتوں کی تائید کروانا اس لیے چاہتا ہے تاکہ شیخ کی وفات کے بعد یہ شخص اپنے مخصوص مقاصد، شاذ خیالات کی تائید شیخ کے اقوال سے حاصل کرتا رہے۔

سائل: ابن کثیر رض نے البدایہ والنہایہ میں یہ اجماع نقل کیا ہے کہ جس نے یاسن کے مطابق فیصلہ کیا وہ با جماع مسلمین کافر ہے اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رض نے فرمایا ہے کہ طواغیت پانچ ہیں ان میں سے ایک ہے ظالم حکمران جو اللہ کے احکام کو تبدیل کرتا ہے اور ان میں سے وہ بھی ہے جو بغیر ما انزل اللہ حکم و فیصلہ کرتا ہے۔

ابو بصیر: ﴿أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَيْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوْقِنُونَ ﴾☆المائدہ: ۵۰﴾ ”کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ کے حکم سے بہتر کون سا حکم ہے۔“ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رض نے لکھا ہے کہ آیت

میں ہر اس شخص کی مذمت ہے جو اللہ کے حکم سے نکل گیا ہو حالانکہ اللہ کا حکم ہر قسم کے خیر پر مشتمل
محکم حکم ہے۔ اور ہر قسم کے شر سے منع کرنے والا ہے اس سے نکل کر جو انسان دوسرے احکام کی
طرف گیا ہو یا دوسرے آراء و خیالات اور اصطلاحات کی طرف جنہیں انسانوں نے وضع کیے
ہوں اور اس کے لیے شریعت کا کوئی سہارا نہ ہو جس طرح کہ اہل جاہلیت گمراہ اور جہالت پر مبنی
آراء کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہ آراء ان کی وضع کردہ تھیں۔ جس طرح کہ تاتاری اپنے بادشاہ
چنگیز خان کی وضع کردہ کتاب یا سبق کے مطابق ملکی معاملات کے فیصلے کرتے تھے۔ چنگیز خان نے
الیاسق کو مختلف شرائع یہودیت، نصرانیت اور اسلام سے اخذ کر کے ترتیب دیا تھا۔ مگر بہت سے
احکام ایسے بھی تھے جو اس نے محض اپنی رائے کی بنیاد پر بنائے تھے جو بعد میں اس کی نسل میں
قانونین کی شکل اختیار کر گئے وہ انہیں کتاب و سنت پر مقدم رکھتے تھے۔ جس نے بھی ان کی طرح
کام کیا وہ کافر ہے اس کے ساتھ اس وقت تک قفال کیا جائے گا جب تک وہ اللہ و رسول ﷺ کے
حکم کی طرف نہ آجائے چھوٹے بڑے ہر معاملے میں ان کے حکم پر ہی عمل کرے۔

میں کہتا ہوں: کہ تمام مسلم ممالک میں اس وقت جو آئینیں اور دستور اور قوانین راجح ہیں یہ
تاتاریوں کے دستور الیاسق سے زیادہ خطرناک ہیں جس کے کفر کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے
ابن کثیر رض کی بات پر غور کریں فرماتے ہیں۔ جس کسی نے بھی ایسا کیا وہ کافر ہے۔ نہ نہیں کہا
کہ جس نے ایسا عقیدہ رکھا وہ کافر ہے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی شریعت کو جاہلیت
کے احکام سے بدلنے کا عمل ہی کفر ہے خرون عن الاسلام ہے۔ یہ قول دور حاضر کے چہبیہ کی رائے
کے خلاف ہے جو کفر کو ہمیشہ اعتقاد تک محدود رکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے طاغوت کی تو
طاغوت ہر اس شخص کو کہا جائے گا جس نے اللہ کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کو اپنے اندر
مان کر خود اللہ کا شریک بنالیا ہو۔ اور اللہ کے علاوہ اس کی بندگی کی جاتی ہو۔ اگرچہ بندگی کی کوئی
بھی صورت ہو۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ منقول ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت بہت

سارے ہیں ان میں سرفہرست پانچ ہیں اور ان میں سے پھر اس کو بھی شمار کیا جو بغیر ما نزل اللہ فیصلے کرتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ طاغوت تو اس کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو وہ حکمران جو بغیر ما نزل اللہ حکومت کرتا ہے اس کی عبادت کہاں کی جاتی ہے؟

جواب اس کی عبادت اس کی اطاعت کی رو سے ہوتی ہے (اس کی اطاعت عبادت ہی ہے) کہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ ہونے کے باوجود اس کا حکم مانا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ﴾ النسا: ٦٠ ”یہ لوگ طاغوت کے پاس فیصلے لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں طاغوت کے کفر و انکار کا حکم دیا گیا ہے۔“ فرمان ہے: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ”اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم مشرک ہو گے۔“ اس لیے کہ یہ گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو بھی حکم کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرعی نصوص میں شرک کا اطلاق عبادت کی ایک ایسی قسم کے لیے بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لئے تصرف مانا جائے۔ لہذا جہاں شرک پایا جائے گا وہاں مخلوق کی عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت و شکل پائی جائے گی۔ اسی طرح یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہ حکمران بذاته حکم کی خاصیت رکھتا ہے حالانکہ یہ اللہ کی مخصوص تین صفات میں سے ایک صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یکتا و اکیلا ہے کوئی مخلوق اس میں شامل نہیں ہو سکتی جیسا کہ فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ یوسف: ٤٠ ”حکم صرف اللہ کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَلَا يُشَرِّكُ فِيْ حُكْمِهِ﴾ اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

ابراہیم شقرہ (سائل): جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفر بالطاغوت ارکان توحید میں سے دوسرے کوں ہے اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے:

فَمَنْ يَكُفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

(البقرة: ٢٥٦)

جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لا یا تو اس نے مضبوط کر اتھام لیا۔

تو کفر بالطاغوت ارکان ایمان کا دوسرا رکن ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے والے کے کفر پر اجماع منعقد ہو چکا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں یہ عقیدہ رکھوں یا اسلام کی حکومت (جیسا کہ ہم نے آپ سے سنا) اپنے دل میں قائم کروں؟ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں یہ عقیدہ اپنے دل میں قائم کروں میں خاص طور پر جب مسلمان علماء نے شریعت تبدیل کرنے والے حاکم کے کفر پر اجماع نقل کیا ہے ان علماء میں محمود شاکر اور عمر اشقر سمیت چھ علماء ہیں جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے؟

ابو بصیر: کفر بالطاغوت توحید کا رکن اول ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کفر بالطاغوت کو ایمان باللہ پر مقدم رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آیت: ﴿فَمَنْ يَكُفِرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْأُثُرِ﴾ البقرہ: ٢٥٦ میں ہے اور جس طرح لا الہ الا اللہ میں ہے۔ دونوں جگہ نفی یعنی کفر بالطاغوت کو اثبات یعنی ایمان باللہ پر مقدم رکھا گیا ہے۔ دوسری اہم دلیل یہ ہے کہ ایمان و دیگر اعمال صالحہ کو کفر بالطاغوت پر مقدم رکھنے سے کوئی فائدہ عمل کرنے والے کو یا ایمان رکھنے والے کو نہیں ہو گا اس لیے کہ اللہ اور طاغوت دونوں پر ایمان رکھنا ایک ہی وقت میں و مقتضاد چیزوں کو یکجا رکھنا ہے لہذا ایمان باللہ اور اعمال صالحہ تب فائدہ دیں گے جب کفر بالطاغوت ہو گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام: ٨٨)

اگر یہ شرک کر لیتے تو ان کے تمام اعمال بر باد ہو جاتے۔

دوسری جگہ فرمان ہے:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (المائدہ: ٧٢)

جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔

جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوا س پر جنت حرام نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان باللہ پر کفر بالطاغوت کو مقدم رکھا جائے۔ دل میں یہ عقیدہ یا اسلامی حکومت کو دل میں قائم کرنے والی بات نامناسب مغلق اور ناسیب سمجھ میں آنے والی ہے۔ جن علماء کا نام انہوں نے دیا ہے ہم بھی ان میں سے چند ایک کی آراء پیش کر دیتے ہیں:

① ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ: ﴿الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ النساء: ٦٠) ”جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ ﷺ کی طرف نازل ہوا ہے جو آپ ﷺ سے قبل نازل ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ طاغوت کے پاس یجائیں۔“ اس آیت کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں لکھا ہے ان آیات میں مختلف عبرتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں ان لوگوں کی گمراہی پر جو کتاب و سنت کے علاوہ کسی قانون پر فیصلے کرتے ہیں اور ان کے نفاق پر دلیل ہیں اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو یا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ شرعی و عقلی دلائل میں مطابقت پیدا کر رہا ہے وہ عقلی باتیں جو بعض مشرکین و اہل کتاب طواغیت سے مانود ہیں اس کے علاوہ بھی اعتبارات ہیں۔ فرماتے ہیں: کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ جو شریعت اسلام سے نکل گیا اسے قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ شہادتیں کا اقرار کرتا ہو۔ ہر وہ با اختیار شخص جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں داخل نہیں ہوا۔ وہ اللہ و رسول ﷺ سے جنگ کر رہا ہے۔ اور جس حکمران نے ملک میں کتاب و سنت کے علاوہ کچھ سکھایا تو وہ فساد فی الارض کا مرتكب ہے۔ مسلمانوں کے دین اور مسلمانوں کے اتفاق کرنے سے یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کو پسند کیا یا شریعت محمدی کے علاوہ کسی اور شریعت کے تبعیین کو پسند کیا ① تو وہ اس طرح کا کافر ہے جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا اور

تیبیہ ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص اللہ کے نازل کردہ شریعت کی اتباع کے بجائے اپنی رائے سے کیے گئے فیصلہ کو مبنی بر عدل قرار دینے کو حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ ہر قوم عدل کا حکم کرتی ہے اور ہر قوم میں عدل اسی کو کہا جاتا ہے جسے اس کے اکابر عدل کہیں، بلکہ اکثر مسلمان اپنے ان رسوم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جنہیں اللہ نے نازل نہیں کیا جیسا کہ دیہاتوں کے پنجائیت وغیرہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطابق فیصلے کرنا ہی مناسب ہے بجائے کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ کے، یہی دراصل کفر ہے۔

② احمد شاکر: عمدة الشفیر میں ابن کثیر کی الیاسن کے بارے میں رائے سے متعلق کہتے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی شریعت میں یہ جائز ہے کہ مسلمان اپنے ملکوں میں ان قوں نے کے مطابق فیصلے کریں جو بے دین اور بنت پرست یورپ سے ماخوذ ہیں؟ یا ان کی آراء کے مطابق جن میں یہ لوگ اپنی مرضی سے تبدل و تغیر کرتے رہتے ہیں؟ ان کے وضع کرنے والے یہ پرواد نہیں کرتے کہ یہ شریعت سے مطابقت رکھتے ہیں یا مخالفت؟ ان وضعی قوانین میں یہ بات سورج کی طرح روشن اور واضح ہے کہ یہ کفر صریح ہے اس میں کوئی اخفاء و پوشیدگی نہیں ہے نہ ہی کسی مسلمان کھلانے والے کے لیے اس میں کوئی عذر ہے کہ اس جدید دین (خود ساختہ شریعت) کے ساتھ چمثار ہے۔ یا کسی مسلم کے لیے جواز ہو اس یا سنت جدید کے پاس فیصلے لیجائے اس پر عمل کرے اور واضح شریعت (اسلام) سے روگردانی کرے۔

③ محمد بن ابراہیم عبداللطیف آل شیخ: اپنے رسالہ تحکیم القوانین میں کفر کی اقسام ذکر

① پچھلے صفحہ کا حاشیہ: یہ توبہ کو معلوم ہے کہ موجودہ زمانے کے طاغونی حکمران شریعت محمدی کے علاوہ دیگر قوانین کو پسند کرنے کی حد سے بھی آگے جا چکے ہیں بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں اسے امت کے لیے لازم قرار دیتے ہیں اور جو لوگ ان طوایت کی طرف فیصلے لے جانے کی مذمت و ممانعت کرتے ہیں ان سے لڑائیاں کی جاتی ہیں مگر اس کے باوجود عصر حاضر کے جہیں کافر نہیں کہتے اور نہ ہی کوئی ایسی دلیل لاتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کفر صرف دل میں ہوتا ہے)

کرنے کے بعد کہتے ہیں بغیر ما نزل اللہ فیصلہ کرنا کفر اکبر ہے ملت سے خارج کرنے والا ہے یہ سب سے بڑا اور واضح کفر ہے شریعت سے بغض ہے اس کے احکام کی تحریر ہے اللہ و رسول ﷺ کی مخالفت ہے۔ شرعی عدالتوں کو پامال کرنا ہے۔ ان کے خلاف تیاری ہے۔ ان کے خلاف (غیر شرعی قوانین کی) امداد ہے۔ گھات ہے ان کے خلاف (غیر شرعی قوانین کو بنیاد فراہم کرنا ہے) اس کی فروعات واشکال و اقسام لانا ہے۔ جس طرح شرعی عدالتوں کی بنیاد ہے، یعنی صرف کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ اسی طرح ان قوانین کی بھی بنیادیں ہیں۔ وہ بنیادیں ہیں مختلف ممالک مثلاً، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور بعض نامنہاد شرعی ممالک کے قوانین یہ عدالتیں بہت سے اسلامی ممالک میں موجود ہیں ان کے دروازے چوبٹ کھلے ہیں لوگ ان کی طرف جو ق در جو ق دوڑ رہے ہیں ان میں کتاب و سنت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں یہ عدالتیں انہی اسلام مخالف قوانین کو پنانے ہوئے ہیں اور کو لوگوں پر لاگو کر رہی ہیں اب اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ((اشهدان محمد رسول اللہ)) کی گواہی کی خلاف ورزی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟

۳) اشنقیطی: اضوآلیان میں فرماتے ہیں خالق ارض و سماء کی شریعت کے مخالف نظام کے مطابق اور معاشرے کے دیگر مسائل کے لیے فیصلے لینا خالق ارض و سماء کے ساتھ کفر ہے اور اس آسمانی شریعت کے خلاف سرکشی ہے جسے خالق کائنات نے بنایا ہے جو کہ کائنات کی مصلحتوں سے اچھی طرح واقف ہے اس سے بڑھ کر کوئی قانون ساز کیسے ہو سکتا ہے؟ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكٌ^و شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ الْشُّورَى: ۲۱﴾ کیا ان کے ایسے شرکیں ہیں کہ وہ ان کے لیے ایسی شریعت بناتے ہیں جس کی اجازت اللہ نہ نہیں دی۔“ دوسری آیت ہے ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿الکھف:﴾ ” وہ اپنے حکم میں کسی کو شرکیں نہیں کرتا۔“ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون

کی اتباع کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں دیگر آیات میں بھی یہ مفہوم وضاحت کے ساتھ موجود ہے، سب سے زیادہ صریح سورہ نساء کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کے علاوہ دیگر قوانین کی طرف فیصلے لیجاتے ہیں ان کا دعویٰ ایمان پر تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے دعویٰ ایمان اور توحید کم الاطاغوت اتنا برا جھوٹ ہے کہ اس پر تعجب کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ اللہ کے اس فرمان میں ہے۔

الْمُتَرَبِّلُ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آنُزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَيِّ الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًاً بَعِيدًاً (النساء: ٦٠)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ سے قبل نازل ہونے والی (شریعت) پر ایمان رکھتے ہیں (جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت کے پاس لیجائیں حالانکہ انہیں تو طاغوت کے کفر کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال

و۔

ہم نے جو یہ آسمانی نصوص ذکر کیے ہیں ان سے مکمل طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو لوگ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یعنی وہ شیطانی قوانین جو شیطان کے پیر و کاروں نے اللہ کی شریعت کی مخالفت میں بنائے ان کی پیرودی کرتے ہیں وہ کافر ہیں اللہ نے ان کی بصیرت چھین لی ہے انہیں وحی کے نور سے انداھا کر دیا ہے۔ شفقتی الیاذن پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جیسی یا اس سے بدتری ہے کہ فرگنی قانون کو اپنایا جائے اور اس کے مطابق جان، مال اور عزتوں کے فیصلے کیے جائیں اسے کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ پر مقدم کیا جائے ایسا کرنے والا بلاشبک

وشبہ کا فر مرد ہے اگر اس پر مصربہ اور اللہ کے دین کی طرف رجوع نہ کیا وہ اپنام چاہے کچھ بھی رکھے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اور کوئی بھی ظاہری عمل روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کرتا رہے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اہل علم نے اس حاکم کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو اللہ کی شریعت کے بد لے میں انسانی قوانین کو لاگو کرتا ہے۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے تمام اقوال ذکر کر دیتے۔ متلاشیان حق کے لیے مذکورہ اقوال میں بھی کافی اشارہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ خواہشات کے بجائے حق کی پیروی کی جائے اور دل کے کانوں سے دلائل سنے جائیں۔

الباني: کیا مذکورہ باتوں سے یہ بات آپ کی سمجھ آگئی کہ کفر قلبی ہی ہوتا ہے جسمانی عمل نہیں ہوتا؟

ابوبصیر: یہ قول کئی وجوہات کی بنابر اطلاق ہے۔

① یہ دراصل چہم کے عقیدے کو بنیاد فراہم کرنا ہے اس کی تائید ہے۔ اس لیے کہ کفر کو دل تک محدود کرنا ایمان کو بھی دل تک منحصر کرنا ہے یہی عقیدہ چہم کا ہے جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان، اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ ایمان کی کئی شاخیں ہیں قولی اور عملی، ان کے ثابت ہونے سے ایمان ثابت ہوتا ہے لفظی سے ایمان کی لفظی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ فر بھی قولی و فعلی ہوتا ہے اور قول یا فعل کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ شیخ سلیمان بن محمد بن عبدالوہاب رض اپنی کتاب ”توحید الاخلاق“ میں ابن قیم رض کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب جو کہ نماز سے متعلق ہے میں لکھا ہے کہ ایمان کے شعبے ہیں۔ قولی، فعلی اس طرح کفر کے شعبے ہیں قولی، فعلی، جس طرح کہ ایمان کے کچھ قولی شعبے بھی ہیں جن کے زوال سے ہونے سے ایمان کا زوال لازم ہے اس طرح ایمان کے کچھ فعلی شعبے بھی ہیں جن کے زوال سے ایمان زائل ہو جاتا ہے جیسے نماز، اسی طرح کفر کے شعبے ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے کفر لازم

آتا ہے جیسے بت کے آگے سجدہ، قرآن کی تو ہیں، نماز کی تو ہیں، انبیاء کا قتل، یہ عملی کفر ہے، مزید فرماتے ہیں یہاں ایک اور اصول بھی ہے وہ یہ کہ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ کفر عمل، کفر جو دعناد، کفر جو دیہ ہے کہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے فلاں حکم لائے ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کیا جائے جیسے اللہ کے اسماء، صفات افعال، احکامِ دین، اور دیگر احکام سابقہ انبیاء لائے تھے۔ اس قسم کا کفر مکمل طور پر ایمان کے منافی ہے جبکہ کفر عمل کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ جو ایمان کے منافی و متضاد ہے۔

(۲) وہ جو متصاد نہیں ہے۔

پہلے کی مثال جیسے بت کو سجدہ کرنا، قرآن کی تو ہیں، نبی کا قتل یا ان کی شان میں گستاخی یا کسی نبی کی شریعت سے استہزا اور اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور قانون پر اس طرح عمل کرنا کہ اس سے اللہ کے دین کے نصوص کا رُد ہوتا ہو اور یہ عمل بغیر جبرا کراہ کے کیا جائے۔ نماز کا عناد کی وجہ سے ترک کرنا۔ فرماتے ہیں جب صرف دل کا عمل ختم ہو جائے اور تصدیق کا اعتقاد باقی رہے یا اعضاء کا عمل ختم ہو جائے اس مسئلے میں مرجحہ واہل سنت کا اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے ایمان زائل ہو جاتا ہے ہر صرف تصدیق کوئی فائدہ نہیں کرتی جب تک کہ قلبی عمل نہ ہو یعنی محبت، اور اوامر کی اطاعت، جب دل کے عمل کے زوال سے ایمان زائل ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات عجیب نہیں ہو سکتی کہ اس سے بڑے عمل کی وجہ سے زائل نہ ہو یعنی اعضاء کے عمل سے۔

شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ المقدمہ کے مصنف کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگر اس کا خیال یہ ہے کہ ایمان کے لیے صرف قلبی تصدیق کافی ہے اگرچہ دل اور اعضاء کا عمل بھی نہ ہو تو یہ خاص مرجحہ کا قول ہے ان کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے صرف زبانی اقرار کا نام ہے۔ امام بخاری و دیگر جید علماء نے اس گروہ پر رد کیا ہے اور ان کی غلطیوں کی نشان دہی کی ہے اور اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا عقیدہ کتاب و سنت اور ائمہ سلف کے خلاف ہے مثلاً مالک

ثُوری، او زانی حَمْمَمُ اللَّهُ اور ان کے بعد کے اہل علم و اہل حدیث رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو کہ امت کے لیے روشنی کے مینار اور دین کے ائمہ تھے۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ جب بھی دل کا عمل زائل ہو جاتا ہے یا دل کے عمل کے ساتھ اعضاء کا عمل زائل ہو جاتا ہے تو ایمان مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ صرف تصدیق جو کہ دل کے عمل کے بغیر ہودہ کوئی فائدہ نہیں کرتا جب تک دل اور اعضاء کا عمل یادوں میں سے ایک نہ ہو۔ جس طرح کہ ابلیس، فرعون اور اس کی تمام قوم کو فائدہ نہیں ہوا یہود اور مشرکین بھی رسول ﷺ کی صداقت کا ظاہری اور باطنی طور پر اعتقاد رکھتے تھے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن عباد پر رذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تم جو یہ کہتے ہو کہ ایمان رسول ﷺ کی لائی ہوئی شریعت پر پختہ تصدیق کا نام ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول ﷺ کے چچا ابوطالب کی تصدیق پختہ تھی۔ ﴿وَالَّذِينَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُم﴾ ”یوگ (محمد ﷺ کو) اسی طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔“ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف پختہ تصدیق کا نام ہے وہ جھمیہ ہیں جن پر اس مسئلے میں سلف نے شدید تقدیک کی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن عبد الوہاب رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے کہ تمہاری یہ بات کہ اسلام کے پانچ اركان ہیں جس طرح وضو کے ہوتے ہیں۔ تم اللہ اور رسول ﷺ کے کلام کو جانتے بھی ہو کہ اسلام کے نواقض بھی ہیں جس طرح وضو کے آٹھ نواقض ہوتے ہیں۔ (اسلام کے نواقض میں سے)

① اعتقاد قلب اگرچہ عمل و اقرار نہ ہو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی اور پہنچائی ہوئی شریعت کے خلاف اعتقاد۔

② زبان سے (شریعت کے خلاف بولنا) اگرچہ عمل و اعتماد نہ ہو۔

③ عمل بالجوارح اگرچہ اعتقاد و کلام نہ ہو۔ لیکن جو آدمی اسلام کا اظہار کرے اور اسے یہ خیال آئے کہ اس نے نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کیا ہے تو اس خیال کی بنا پر ہم

اس کی تکفیر نہیں کر سکتے جب تک یقین نہ ہو۔ جو آپ نے ثابت کیا ہے وہ صحیح ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے لازم پکڑے اس کو عقیدہ بنائے۔ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح علماء کے اجماع کی تائید کی ہے کہ کفر اعتقاد کا بھی ہوتا ہے۔ قول کا بھی اور عمل کا بھی اور ہر ایک علیحدہ کفر ہے۔

کشمیری: اپنی کتاب ”آکفار الْمُحَمَّدِينَ“ میں کہتے ہیں: (ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اپنی کتاب ”الایمان“ میں لکھتے ہیں: (علماء سلف نے) اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بعض افعال کفر ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ افعال تصدیق کی بنا پر وجود میں نہ آئے ہوں (یعنی دل ان پر تصدیق نہ بھی کرے) اس لیے کہ یہ دل واعضاء کے افعال ہیں اس کی مثال ہے کفر یہ لفظ زبان سے ادا کرنا اگرچہ اس کا اعتقاد نہ ہو، اور جیسے بت کو سجدہ کرنا، کسی نبی کو قتل کرنا، اس کی توہین کرنا، قرآن یا کعبہ کی توہین کرنا، اس کے کفر کی وجہ میں اختلاف ہے البتہ تکفیر پر اتفاق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شارع نے اگرچہ تصدیق کو معتبر سمجھنے کا حکم نہیں دیا مگر وہ حقیقت میں موجود ہوتی ہے۔

ابوالبقاء: اپنی کلیات میں کہتے ہیں: کبھی کفر قول کی وجہ سے کبھی فعل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قولی کفر اس کو کہتے ہیں کہ جس مسئلے پر نص ہوا اور اس پر اجماع ہو چکا ہوا س کا انکار کیا جائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ قول اعتقاد کے ساتھ ہے یا استہزاء ہے۔ جس فعل سے کفر لازم آتا ہے وہ ایسا فعل ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے اور اس میں دین کا صرٹ استہزاء ہو جیسے بت کو سجدہ کرنا۔ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ہر اس فعل پر کافر قرار دیتے ہیں جس کے کفر پر مسلمانوں کا اجماع ہو اگرچہ اس کا مرتكب اسلام کا اظہار کرتا ہو جیسے بت کو، چاند، سورج، صلیب، آگ کو سجدہ کرنا۔ ٹکیسا یا یہود کے معبد میں ان کے ساتھ جانا ان کے طور طریق اور مذہبی شعار کو اپنانا جیسے زناز پہننا وغیرہ۔

ان کے علاوہ بھی اہل علم ہیں جنہوں نے اس بات پر نصوص پیش کیے ہیں کہ کفر اعضاء سے بھی ہوتا ہے جس طرح کردار سے ہوتا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان، قول اور عمل

کا نام ہے۔

۲) کتاب و سنت کے نصوص اس بات پر واضح دلالت کرتے ہیں کہ کفر بدین قول یا عمل کی وجہ سے ہوتا ہے اگرچہ اعتقاد کے بغیر ہوا گرچہ اس کا مرتکب اپنے عقیدے کی سلامتی اور دل کی تصدیق کا ذمہ رکھتا ہوا اس کے بہت سے دلائل ہیں جن میں سے چند یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

۱) اس آدمی کے کفر پر دلیل جو بغیر اکراہ کے قول یا عمل کے ذریعے کفر کا اظہار کرے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قُلُوبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْأَيْمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ أُسْتَحْبُو الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ (الحل: ۱۰۶-۱۰۷)

جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا البتہ وہ شخص جس نے اپنا سیدہ کفر کے لیے کھول دیا (مرضی سے کفر کیا بغیر اکراہ کے) تو ان پر اللہ کا غضب ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اللہ کا فرقہ کو ہدایت نہیں کرتا۔

جس نے اکراہ کے بغیر قول یا عمل سے کفر کا اظہار کر لیا تو اس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا اگر وہ ایسا نہ مانیں تو پھر آیت کا پہلا حصہ دوسرے کا معارض ہو گا۔ اگر ہر کفر کرنے والے کو شرح صدر کہا جائے تو یہ بلا اکراہ ہوتا ہے تو اس میں مکرہ کو مستثنی کیا جاتا۔ جب کلمہ کفر خوشی سے بغیر اکراہ کے کہا تو یہ شرح صدر کے ساتھ کیا اور یہ کفر ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے بغیر اکراہ کے اللہ یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دی جس نے بغیر اکراہ کے کلمہ کفر دیا کیا۔ جس نے اللہ اس کی آیات اس کے

رسول کا مذاق اڑایا تو وہ ظاہری و باطنی دونوں طرح کا کافر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی بھی باطنی طور پر مومن ہوتا ہے اور ظاہر طور پر کافر ہوتا ہے تو یہ ایسا قول ہے جس کی خرابی و فساد دین میں واضح ہے۔ فرماتے ہیں: جس نے ایمان لانے کے بعد بغیر اکراہ کے اللہ کو گالی دی وہ مرتد ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کی مراد ہے کہ جس نے قول یا عمل سے بغیر اکراہ کے کفر کا اٹھاہار کیا وہ مرتد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جس نے کفر کا اعتقاد رکھا اس لیے کہ اعتقاد کے بغیر اکراہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ کفر کا اعتقاد تو کفر ہی ہے ایسے آدمی کا تو کوئی عذر نہیں ہوتا چاہے مکرہ ہو یا نہیں، اس لیے کہ اکراہ اعضاء پر تو ہو سکتا ہے دل پر نہیں جو کہ اعتقاد کی جگہ ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رض فرماتے ہیں: اللہ ان لوگوں کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا سوائے اکراہ کے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کے علاوہ جو چاہے تو وہ ایمان کے بعد کفر ہی کھلانے گا چاہے خوف کی وجہ سے ہو یا کسی کے ساتھ تعلق یا ملکی اور خاندانی یا قومی کوئی وجہ ہو۔ یا مزاح کے طور پر ہو یا ان کے علاوہ کوئی دیگر مقصد یا وجہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔“ اس میں وضاحت ہو گئی کہ یہ کفر اور عذاب اعتقاد یا جہل یادیں سے نفرت کی بنا پر نہیں تھا، ہی کفر سے ان کو محبت تھی بلکہ اس کا سبب صرف دنیا کو دین پر ترجیح دینا تھا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم تبدیل نہیں کیا جاتا جو اللہ کے دین سے کفر کی لوٹ گیا وہ کافر ہے چاہے وہ خوف کو عذر بنائے یا مال کو یا خاندان وغیرہ کو چاہے باطنی کفر کرے یا ظاہری ہو یا باطنی نہ ہو چاہے اتوال سے کفر کرے یا افعال سے یادوں میں سے کسی ایک سے۔ چاہے مشرکین سے دنیا کی طمع کرتے ہوئے کرے یا کسی اور وجہ سے۔ یہ ہر حال میں کافر ہے سوائے مکرہ کے۔ مکرہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس شخص کو جس پر زبردستی کی گئی ہو جب کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ کفر کرو رونہ تجھے قتل کر دیا جائے

گایا مارا پیٹا جائے گا یا مشرک کسی کو پکڑ لیں اسے مار دیں اور جان حفڑا نے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہو کہ ان کی موافقت کی جائے تو ظاہری طور پر ان کی موافقت اس کے لئے جائز ہے بشرطیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی مضبوط ہو۔ اس کا اعتقاد ایمان پر ہو۔ اگر ان کی موافقت دلی طور پر کر لی تو وہ کافر ہے چاہے مکرہ ہو۔ ان کے اس قول پر غور کریں کہ کفر جس نے ظاہری کیا باطنی نہیں۔ افعال سے ہو اقوال سے یادوں میں سے کسی ایک سے تو وہ ہر حال میں کافر ہے سوائے اکراہ کے۔ اس سے دور حاضر کے جمییت کے قول کی خرابی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ کفر بغیر اعتقاد کے عملًا و ظاہرًا اور بغیر استھان کے نہیں ہوتا۔

۲ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزا کرنے والے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کافر جو بغیر انکار و اکراہ کے ہوئی بدنبی عمل ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا

مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفَّارِ بْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (النساء: ۱۴۰)

کتاب میں تم پر یہ (حکم) نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ استہزا اور کفر کیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسرا کوئی بات نہ شروع کر دیں (اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو) تم بھی انہی کی طرح ہو گے اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو جہنم میں اکھٹا کرے گا۔

دوسری آیت میں ہے:

وَلَئِنْ سَالَتْهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَ أَبِيهِ وَ رَسُولِهِ

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدُرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ

طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بَانَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (التوبہ: ۶۵)

اگر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ ہم تو کھیل رہے تھے مذاق کر رہے تھے آپ ان سے کہدیں کیا اللہ کے ساتھ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ معدتر مت کرو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہوا گرہم ایک گروہ کو معاف کر دیں تم میں سے اور ایک کو مزادیں اس لیے کروہ مجرم ہیں۔

یہ لوگ اس لیے کافر ہوئے کہ انہوں نے ایک کلام کیا۔ مذاق کیا آیات کے بارے میں نامناسب باتیں کیں نہ اعتقد تھا نہ استھلal بنی علی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں: یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی آیات اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ گالی توبدرجہ اولیٰ کفر ہے۔ یہ آیت یہ بھی واضح کرتی ہے کہ جو شخص بھی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں گستاخی کرے گا چاہے مذاق میں ہو یا جان بوجھ کروہ کافر ہے۔ ابو بکر بن عربی (رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں: مذاق میں کفر کرنا بھی کفر ہے اس پر اجماع ہے مذاق عام طور پر بلا ارادہ ہی ہوتا ہے اعتقد انہیں ہوتا جیسے کہ آیت میں مذکور افراد کو انہوں نے مذاق کیا مگر اس کی حقیقت سے واقف نہ تھے دین کے ساتھ مذاق کفر ہے اس کا مرتكب کافر ہے۔ ابن قیم (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں: مذاق کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو کوئی بات کرتا ہے مگر اس بات کی حقیقت یا نتیجہ کا ارادہ نہیں کر رہا ہوتا۔ بلکہ صرف دل لگی کے طور پر بات کرتا ہے۔ اس کے برعکس عدم بآبات کرنے والا جو سب کچھ سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں مذاق و بے ہودہ بات کرنا جائز نہیں ہے اس بارے میں عمدًا اور مزاہًا بات دونوں یکساں ہیں جبکہ انسانوں کے بارے میں معاملہ ایسا نہیں۔ ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں: اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کفر یہ قول کی وجہ سے ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے یہ قول بغیر اعتقاد کے تھا۔ ﴿كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ﴾ ”ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔“ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ

زبانی بات کی وجہ سے کافر ہوئے مگر اس سے پہلے انہوں نے دل سے کفر کیا تھا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ زبان کے ساتھ دل کا کفر ایسا کافر ہوتا ہے کہ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ آیت میں جس گروہ کو معافی دینے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد مخاشر بن حمیر ہے اس کا گناہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں کی بات اس نے سنی تو یہ نہ سا اور ان پر اعتراض نہیں کیا وہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں وہ آیت سنتا ہوں جس سے میں مراد ہوں جس سے روئی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز جاتے ہیں۔ ”اے اللہ شہادت کی مجھے موت اپنے راستے میں اور اپنے دین کے لیے دے۔“، الہذا در حاضر کے چہمیہ کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔

۳) جو شخص کافروں سے دوستی کرتا ہے ان کے ساتھ تعاون و مدد کرتا ہے مسلمانوں اور اہل توحید کے مقابل پر حالانکہ یہ بھی جسم اور اعضاء کا عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الظَّالِمِينَ (المائدہ: ۵۱)

جس نے تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ ظالم قوم کو

ہدایت نہیں کرتا۔

دوسری جگہ فرماتا ہے:

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِلَيَّا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَنْقُوا مِنْهُمْ تُفْعَلَةً وَ يُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ

نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران: ۲۸)

مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں جس نے ایسا کیا اس کا اللہ کے ساتھ کچھ (تعلق) نہیں الیہ کہ تم ان سے خود کو بچاؤ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا تا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔

اس آیت کے لفظ : ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ کے بارے میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ بری ہے اور اس سے اللہ بری ہے اس کے ا عمل کی وجہ سے یہ دین سے نکل کر کفر میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولَيَاءَ
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (المائدہ: ۸۱)

اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے نبی پر اور اس پر نازل ہونے والی (شریعت) پر تو یہ ان (یہود و نصاریٰ کو) دوست نہ بناتے مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کی یہود و نصاریٰ سے دوستی ان کے ایمان کی ضد ہے اور اس کی نفی کرتی ہے ایک دل میں ایمان اور ان کی دوستی جمع نہیں ہو سکتے ۔ یہ بھی دلیل اس میں ہے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی وہ ایمان واجب نہیں لایا جو کہ اللہ، اس کے نبی اور نازل کردہ شریعت پر لانا چاہیے ۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے :

لَا تَسْخِدُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَىٰ أَوْ لَيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْ لَيَاءَ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدہ: ۵۱)

یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ۔ تم میں سے جس نے بھی ان سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے ۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان سے دوستی کرنے والا مومن نہیں ہوتا بلکہ وہ انہی میں سے ہوتا ہے ۔ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں : کنو اقض اسلام میں سے سب سے بڑا اقض مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف مدد و تعاون ہے ۔ دلیل قرآن کی آیت ہے : ﴿وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ☆ (المائدہ: ۵۱)﴾ ”تم میں سے جس نے ان کے ساتھ دوستی کی وہ انہی میں سے

ہے۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ”جو لوگ کہتے ہیں کہ کفار سے وہ والی دوستی کافر بناتی ہے جو دل سے کی جائے یہ لوگ ایمان میں جہنم کے عقیدے پر ہیں ان سے محظا طر رہنا چاہیے۔

۲) جو اللہ کے دین پر فیصلہ نہیں کرتا اس کا کفر جو اللہ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے یا اس کے بد لے طاغوت کے قوانین لا گو کرتا ہے حالانکہ یہ اعمال بھی جسمانی ہیں اعضاء سے کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کے آقوال پہلے گزر چکے ہیں۔

۳) ان لوگوں کا کفر جو عبادت کی کوئی قسم مخلوق کے لیے بجالاتے ہیں جیسے دعاء، فریاد، نذر، ذبح وغیرہ۔ یہ شر کیہے اعمال ہیں جو اعضائے بدن کو جھکاتے ہیں اور ان کی وجہ سے آدمی کا فر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح دل کی تصدیق باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ وَّ الَّلَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَ مَوْلَايَ وَّ إِنِّي أَنْتَ مَوْلَايَ وَّ لَا يَحْكُمُ عَلَيَّ إِلَّا أَنْتَ وَّ لَا يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ
لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ رَبِّنَا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ (الزمزم: ۳)

یاد رکھو اللہ کے لیے خالص دین ہے جو لوگ اس اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مرتبے میں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں کرتا۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سب سے بڑا نقض اسلام اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
يُشَآءُ (النساء: ۴۸)

اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کرتا ہے۔

شرک میں سے ذنکِ لغیر اللہ ہے جیسے جنات یا مزارات کے لیے ذنک کرنا، اللہ اور اپنے درمیان وسیلے بنانا بھی شرک ہے، ان وسیلوں کو پکارنا ان سے شفاقت طلب کرنا بالاجماع کفر ہے، اسی طرح عملی نواقض میں سے اللہ کے دین سے اعراض کرنا بھی ہے کہ نہ دین کو سمجھا جاتا ہے نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِأَيْتٍ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ

منْتَقِمُونَ (السجدۃ: ۲۲)

کون ہے اس سے بڑا خالم جس کو رب کی آیات سے نصیحت کی گئی پھر وہ ان سے پھر گیا ہم مجرمین سے انتقام لیں گے۔

پھر شیخ فرماتے ہیں: ان تمام نواقض اسلام امور کے لیے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ان کا ارتکاب مذاق میں کیا گیا ہے یا جان بوجھ کریا ڈر کی وجہ سے سوائے مکرہ (محور کے گئے) کے یہ تمام نواقض بہت ہی پر خطر بھی ہیں اور ان میں واقع ہونے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ایسے جسمانی اعمال ہیں جو کافر کر دینے والے ہیں مثلاً جادو، نماز کا عدم اترک کرنا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے مگر اکثر اہل علم جن کا مذہب کتاب و سنت کے مطابق ہے ان کے نزدیک کفر ہے۔ اگرچہ اس کے وحوب کا اقرار کرتا ہو۔ تمام مذکورہ تفصیلات سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کفر جس طرح قلبی عمل ہے اسی طرح یہ بدنبی عمل بھی ہے۔ اور بھی بدنبی و قلبی دونوں ہوتا ہے۔ کبھی دونوں میں سے ایک ہوتا ہے اسی سے شیخ کے یہ قول کا بطلان واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے کہ کفر صرف قلبی ہوتا ہے بدنبی نہیں ہوتا۔ اس بدترین شبہ کا رد ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر ختم کرتے ہیں: اگر فرض کر لیا جائے کہ کچھ لوگوں نے نبی ﷺ سے کہا کہ ہم اس پر دل سے ایمان لاتے ہیں جو آپ ہمارے پاس لائے ہیں اس میں شک نہیں کرتے اور ہم زبان سے شہادتیں کا

اقرار بھی کرتے ہیں مگر ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں آپ حکم کریں یا منع کریں۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے جو نہیں بولیں گے، شراب پینے کے، ذیحرم عورتوں سے نکاح کریں گے، ہم آپ کے صحابہ اور امتیوں میں سے جس پر قدرت پالیں انہیں قتل کریں گے، ان کا مال جھینیں گے، بلکہ ہم ﷺ کو بھی (نحوہ باللہ) قتل کریں گے، آپ ﷺ کے دشمنوں سے مل کر آپ ﷺ کے ساتھ قتال کریں گے۔ کیا ایسی صورت میں کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ نبی ﷺ کہیں گے کہ تم کامل ایمان والے ہو؟ تمہیں قیامت میں میری سفارش حاصل ہوگی؟ تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جبکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان سے رسول ﷺ کہیں گے کہ تم تو میری شریعت پر سب سے زیادہ کفر کرنے والے ہو۔ اگر یہ توبہ نہ کریں تو ان کی گرد نہیں مار دیں۔

سائل ابراہیم شقرہ: ہم اس بات کے اقرار نہیں ہیں۔

شیخ البانی: یہاں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ کفر کیا ہے۔ کفر کا الغوی و شرعی معنی کیا ہے؟

ابو بصیر: سائل شیخ سے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کفر قلبی ہوتا ہے بدنبی نہیں ہوتا۔

سائل ابراہیم شقرہ: لغت میں کفر کا معنی ہے انکار۔ جبکہ شریعت میں علماء نے اس کی اقسام بتائی ہیں بدنبی، اعتقادی، کفر اکبر، اصغر، کفر اکبر وہ ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے جبکہ کفر اصغر۔

ابو بصیر: اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی گئی فیچ میں کاٹ دی گئی۔

البانی: اللہ آپ کو خوش رکھے اب ہمارے لیے لیکھ دینا ضروری ہو گیا اب سوال جواب کی صورت میں ایک دوسرے کو سمجھانا ضروری ہے۔

ابو بصیر: شیخ اپنے لیے وہ بات کیوں ضروری نہیں سمجھتے جو اپنے مخالف کے لیے ضروری قرار

دیتے ہیں۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ شیخ کس چیز کی وضاحت کریں گے؟ تفصیل بیان کریں گے؟ مزید دلائل پیش کریں گے؟ لیکن چرخ دیں گے؟ جبکہ ان کا مخالف ان تمام باتوں سے محروم رہے گا اس کو صرف ہاں یا نہی کا اختیار ہو گا۔؟

شیخ البانی: آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہیں؟ کیا کفر عملی کی وجہ سے کسی کو کافر کہا جائے گا۔؟

ابوبصیر: اہل علم نے کفر کی دو ترمیں بیان کی ہیں ایک کفر عملی دوسرا کفر اعتقادی۔ مگر ان اطلاعات میں دور حاضر کے جمیہ نے بہت غلطی اور بد دینتی کی ہے اسی طرح ان کے حمایتی اہل ارجاء نے بھی یہی کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض علماء نے جو کفر کی تقسیم عملی و اعتقادی کی ہے اس سے مراد ان کا مطلق کفر نہیں ہے جیسا کہ اس دور کے جمیہ کہتے ہیں کہ کفر کو صرف کفر قلبی تک محدود منحصر کر دیا ہے اور بد فی کفر کو کفر نہیں مانتے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے اس تقسیم کو اپنانا پسند نہیں کیا اس کے بد لے میں ایک اور تقسیم کو اپنایا ہے جس میں کوئی التباس و پیچیدگی نہیں ہے وہ تقسیم ہے کفر اکبر، کفر اصغر کی، یا اسے کفر دون کفر کہیں، یا کفر نعمت کہیں، جن علماء نے اسے کفر عمل کہا ہے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ اس کے مرتكب کو کفر اکبر سے ہٹا دیں (یعنی اس کے کفر کو کفر اکبر نہ کہیں) اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر عمل ہوتا ہی نہیں۔ امام بخاری رض نے اپنی کتاب میں حدیث: ((یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان)) پر باب ((کفران العشیر و کفر دون کفر)) کے عنوان سے باب باندھا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ابن عباس رض اور اس کے ساتھی کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، فتن دون فتن کہتے تھے اور دیگر اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں وہ کفر دون کفر، ظلم دون ظلم اور فتن دون فتن کہتے تھے۔ (الفتاوی)

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر کہا ہے اور دیگر اہل علم نے کہ الکفر کفران، کفر اکبر و کفر اصغر، یا تو

ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شرعی نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اعتقاد اور تکذیب قلبی کے بغیر بھی کفر ہوتا ہے۔ صرف عنااد کی وجہ سے بھی کفر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابوطالب جیسے لوگوں کا کفر ہے اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: ﴿الْقِيَافَى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٌ﴾ (۲۴: ﴿هُر سَرْكَشٌ أَوْ عَنَادٌ كَهْنَمَ مِنْ دُالْ دُوٰ﴾، دوسری جگہ فرمان ہے: ﴿كَلَّا، إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَّسَعُ عَنِيدًا﴾ (الْمَدْرَثٌ: ۱۶) ﴿هُر گز نہیں یہ ہماری آئیوں سے عنااد (سرکشی) کرنے والا تھا۔﴾ بھی صرف تکبر کی وجہ سے کفر ہوتا ہے جیسے ابلیس کا کفر: ﴿إِلَّا آئِلِيُّسْ أَبَلِي وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ (الْبَقْرَةٌ: ۳۴) ﴿مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا،﴾ ان لوگوں کا کفر کہ جنہوں نے کمزور، غریب مسلمانوں کے ساتھ خود کو برابر قرار دیئے کوئی تو ہیں سمجھا تو کفر کیا اور اسلام و مسلمانوں سے دشمنی پر اتر آئے۔ یہ لوگ انبیاء سے مطالبہ کرتے تھے کہ کمزور و غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم ایمان لا سکیں گے:

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِيٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّا عَلَى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَا آنَا بِطَارِدٍ
الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء: ۱۱۱-۱۱۴)

انہوں نے (نوح علیہ السلام) سے کہا کیا ہم پر ایمان لا سکیں جبکہ تمہارے تبعین رذیل لوگ ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا معلوم یہ لوگ کیا (کام) کرتے ہیں۔ ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو، میں مومنین کو نہیں نکالوں گا۔

ایک صحیح حدیث میں آتا ہے: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کفر نفرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ نفرت کی وجہ سے اسلام و مسلمانوں سے دشمنی اور جنگ پر آمادہ

ہو۔

جیسا کہ فرمان ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَأُلُهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَرِهُوْمَا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد: ٨-٩)

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہوا اور ان کے اعمال (اللہ) نے بر باد کر دے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے خوش نہیں ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، أُولَئِكَ الَّذِينَ
جِئْتُمُهُمْ بِأَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نُصْرٍ إِنَّمَا يُنَصَّرُ الْمُنْصَرُونَ (آل عمران: ٢١-٢٢)

جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انہیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق اور ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر دو۔ یہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں بر باد ہو گئے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں۔

جبکہ اعمال صرف کفر سے ہی بر باد ہوتے ہیں، اب ن تیمیہ اللہ: اصارم میں فرماتے ہیں: مسلمانوں کو ضرر دینے سے (ضرر دینے والے کا) عقیدہ بدل جاتا ہے یہ وہ کام کرتا ہے جو اپنے عقیدے کو صحیح سمجھتا ہے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں اپنے اس خیال اور دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں تغیراعقاد سے زیادہ خرابی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ مسلمانوں کو ضرر دے رہا ہے دوسرا یہ کہا پنے عقیدے کو پھر بھی صحیح سمجھ رہا ہے اس سے وہ کام صادر ہوتا ہے جو ایک دین سے دوسرے دین میں منتقل ہونے والا نہیں چاہتا جبکہ اس کی خرابی ایک دین سے

دوسرے دین میں منتقل ہونے والی خرابی سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ دین سے منتقل ہونا کفر ہے اس لیے کہ اس سے وہی سرزد ہوا جو کفر تھا جبکہ دوسرا جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ کفر نہیں ہے جب تک اسے حلال سمجھ کرنہ کیا جائے یہ صرف معصیت ہے جبکہ یہ سب سے بڑا کفر ہے۔

میں کہتا ہوں: یہی تودہ کام ہے جو موجودہ دور کے جھمیہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جو طاغوتی حکمران اسلام کے داعیوں۔ انصاف کا حکم کرنے والے مسلمانوں کے قتل اور سزاوں کا حکم دے رہے ہیں اور یہ جھمیہ پھر بھی ان طواغیت کے لیے تاویل پرتاویل کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں حسن نطن سے کام لے رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں انہیں یہ کہہ کر مسلمان قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا حلال سمجھ کر نہیں کیا۔ اعتقاد کے بغیر کیا ہے۔ کبھی کفر استہزاء کی وجہ سے بھی ہوتا ہے انکار کی دو قسمیں ہیں، انکار باطن، ظاہر میں نہ ہوا اور یہ نفاق و کفر ہے۔ دوسرا ہے ظاہری انکار ہو باطن و اعتقاد میں نہ ہو یہ بھی کفر ہے۔ جیسے یہود وغیرہ مشرکین نے نبی ﷺ کی نبوۃ کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل میں پکا اعتقاد تھا کہ نبی ﷺ سچے ہیں اور جو کچھ اپنے رب کے ہاں لائے ہیں وہ حق ہے۔ کبھی کفر اعراض کرنے منہ موڑنے سے بھی ہوتا ہے۔ کہ نبی ﷺ کی ہدایت سے منہ موڑا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِأَيْتٍ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ﴾ الکھف: ۵۷ ﴿کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جسے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے منہ موڑ لیا اور بھول گیا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا (اعمال میں سے) بھیجا ہے۔ دوسری آیت ہے: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرُزْرَا خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا﴾ طہ: ۱۰۱، ۱۰۰ ﴿”جس نے اس (دین) سے منہ موڑا وہ قیامت میں (گناہ کا) بوجھ اٹھائے گا اس میں ہمیشہ رہے گا اور قیامت کا بوجھ ان کے لیے بہت برا ہے۔“ یہ سب اقسام اپنی جگہ پر کفر ہیں اور اپنے مرتكب کو

کافر بنادیتے ہیں چاہے ارتکاب کے ساتھ دلی اعتقاد ہو یا نہ ہو۔

سامی نام کا سائل: جناب اگر یہ ملت سے خارج کرنے والا کفر ہے کفر اکبر ہے اس لیے کہ عملی کفر میں بھی کفر اکبر و کفر اصغر ہوتا ہے۔

ابو بصیر: کیست میں سوال کرنے والے کا نام سامی آیا ہے اس لیے ہم نے صرف سائل کے بجائے اس کا نام لیا ہے۔ شیخ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے قطع کردی اسے بات مکمل کرنے نہیں دیا۔

شیخ البانی: میرے بھائی میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہمارے لیے پچھر دینا ضروری ہے اب اس بات کو سمجھنا اور اس پر سے پردہ ہٹانا لازمی ہو گیا ہے۔

ابو بصیر: کفر و ایمان کے مسئلے میں ناممکن ہے کہ ایک بات ہو اور اس کا پوشیدہ مقصد ہو لیکن جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس قید کا التزام شیخ کے مخالف کی طرف سے ہے۔

سوال: ہم کفر اعتقادی و کفر عملی پر متفق ہیں (کہ یہ دونوں فتنمیں کفر کی ہیں) میں نے سوال کیا تھا کہ کیا عملی کفر ملت سے خارج کرتا ہے؟ جواب: اس کے جواب میں آپ یا تو ہاں کہیں گے یا نہیں۔ پھر اگر تفصیل کی ضرورت ہوئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

سامی: یہاں تفصیل ضروری ہے۔

ابو بصیر: اس سوال کے جواب میں ہاں یا نہیں دونوں ہی جواب خطرناک ہیں اس لیے کہ کفر کی بہت سی اقسام کو دونظلوں پر کیسے متحمل رکھا جاسکتا ہے؟ اس سے پیچیدہ صورت میں دونوں جواب غلط ہوں گے تو شیخ کس طرح فریق مخالف کو ہاں یا نہیں پر مجبور کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں کچھ بارکی ہے۔ شیخ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کون سامی کفر مراد لے رہے ہیں؟ کفر و ایمان سے متعلق شیخ کے عقیدے کے بارے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں تو ہم یہ سمجھتے

ہیں کہ اس سوال کے جواب میں شیخ کو یہ کہا جاتا کہ کفر عملی ارتدا ہے۔ اگر وہ اسی طرح پیچیدہ طریقہ میں چاہتے ہیں تو۔ اس لیے کہ شیخ بھی اس گناہ کو کفر نہیں کہتے جس کے مرتكب کو کافرنہ کہا جاتا ہو۔ اور جس کو شارع نے کفر کہا ہو جیسے قتل، نسب میں عیب نکالنا، میت پر نوحہ کرنا، عورت سے غیر فطری عمل کرنا وغیرہ جسے شارع نے کفر کہا ہے اور جن کے بارے میں سلف نے کہا ہے ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے۔ کسی نے اس کو کفر اصغر اور کسی نے کفر العمۃ کہا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس پر دیگر شرعی قرآن موجود ہیں جو مرتكب سے کفر اکبر کو پھیرنے والے ہیں یہ مسئلہ ہم نے اپنی کتاب ”قواعد التکفیر“ میں بیان کر دیا ہے۔ یہاں شیخ عملی کفر سے مذکورہ معاصی مراد نہیں لے رہے اس لیے کہ ان کے مرتكب کو کوئی بھی کفر اکبر کا مرتكب قرآنیں دیتا۔ بلکہ بغیر اعتقاد کے کفر عملی سے مراد ہے ظاہر کفر کو کسی بھی نوع اور درجے کا ہوا گرچہ اللہ و رسول ﷺ کی شان میں گستاخی ہی ہو۔ لہذا شیخ کے سوال کا مناسب جواب یہی ہے کہ ”ہاں“ یہ جواب شیخ کے مقصد کے منظر ہے جو آگے وضاحت آرہا ہے اور شیخ کے ایمان و کفر کے بارے میں عقیدے کے مطابق بھی ہے۔

سامی: تفصیل سے جواب دیں۔

البانی: کیا اعتقادی کفر مرتد کر دینے والا کفر ہے؟

سامی: جی ہاں۔

شیخ البانی: اچھا تو تفصیل کی ضرورت کیوں نہیں؟

سامی: اس لیے کہ اس پر اتفاق ہو چکا ہے جبکہ کفر عملی میں اختلاف ہے مرجحہ اور اہل سنت کے درمیان۔

شیخ البانی: تم جس کفر اعتقادی کو مرتد کرنے والا کفر کہتے ہو کیا عملی کفر کا اس سے ربط و تعلق ہے یا نہیں؟

سامی: تعلق و ربط ہے۔

ابوبصیر: ان مشکل جوابات نے سامی کے ذہن کو الجھاد یا اور نہ ان کو مطلق ہاں نہیں کہنا چاہیے تھا اس لیے کہ کفر عملی میں سے ایک کفر اکبر ہے جس کا ربط و تعلق و تصدیق کے ساتھ ہے اور ایک کفر عملی وہ ہے جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے جس کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں شیخ ناصر نے اس نوجوان کو سوال درسوال کر کے الجھن میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ ایسے جواب دینے پر مجبور ہوا۔

البانی: اب تم کفر اعتقادی کی طرف آ گئے۔ (جزاک اللہ)

ابوبصیر: واضح ہو گیا کہ شیخ صرف کفر صرف قلبی اعتقادی کفر کو ہی کہتے ہیں۔ ان سے جس عملی کفر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس سے مراد ہر وہ کفر ہے جو کسی بھی درجہ میں ہو کسی بھی نوع کا ہوا اعتقاد و احکام سے جس کا تعلق نہ ہو۔ یہ سب کچھ ان کے تصورات کے بگاڑ اور کفر اور ایمان کے بارے میں اس عقیدے کی وجہ سے ہے جو ہم اور اس کے قبیلين کا ہے۔

شیخ البانی: تمہارے سامنے کفر اعتقادی و کفر عملی کافر قبض جب تک واضح نہ ہو گا اس اختلاف کا نتیجہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کفر عملی اس کفر یہ عمل کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان سے سرزد ہو مگر یہ جو کفار کا عمل مسلمان سے سرزد ہوا ہے یہ کفار سے سرزد ہونے والے عمل سے ایک طرح کی مشابہت رکھتا ہو یعنی عمل کے لحاظ سے، لیکن ایک اور لحاظ سے یہ اس کے مشابہ نہ ہو یعنی کافر کے عمل کے مشابہ نہ ہوا اعتقاد کے لحاظ سے، یہ جو مسلمان ہے اگر اس سے کافروں والا عمل سرزد ہوا ہے اور یہ کفر اعتقادی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے جیسا کہ کافر کا کافر ہوتا ہے تو یہ کفر ارتدا دکا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں مگر جب اس بات کی کوئی دلیل نہ ہو کہ کفر یہ عمل کرنے والا اعتقاد ابھی کفر کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ اعتقادی کفر نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ اعتقادی کفر عملی کفر سے مختلف ہے اس لیے کہ اول الذکر قلبی کفر ہے۔ جبکہ عملی کفر قلبی کفر نہیں ہے۔

ابو بصیر: یہ دین میں نیا اور عجیب خیال پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں شیخ کے پاس سلف میں سے تمہم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے کفر کو استحلال اور تندیب قلبی میں منحصر کیا ہے۔

۲) کفار انبیاء کے ساتھ جنگ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ان سے دشمنی رکھتے ہیں یہ سب کچھ وہ فعلی و اعتقادی دونوں لحاظ سے کرتے ہیں اگر ایک مسلمان ان کاموں میں کافروں کی مشاہدہ کرے یعنی اعتقاد کے بغیر ان سے جنگ کرے۔ دشمنی رکھے۔ انہیں گالیاں دے تو یہ تمہارے نزدیک کافرنہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے کافروں کی مشاہدہ عملی کی ہے اعتقادی نہیں کی؟ کافربتوں اور قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں ان کے قرب کے لیے نذر و ذبح کرتے ہیں دیگر ظاہری عبادات بھی ان کے لیے بجالاتے ہیں۔ گلے میں صلیب ڈالتے ہیں۔ تین خداوں کو مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کفریہ کام کرتے ہیں اور یہ سب کام عملاً و اعتقاداً کرتے ہیں اگر ایک مسلمان یہ تمام کام عملاً کرے عقیدتاً نہ ہوں تو وہ تمہارے نزدیک اس لیے کافرنہیں ہوگا کہ اس نے کفار کی صرف عملی مشاہدہ کی ہے عقیدے میں نہیں؟ اگر آپ کا جواب لفی میں ہے یعنی کہ ایسا شخص کافرنہیں ہے اس لیے کہ وہ کافروں والے عمل بغیر اعتقاد کے کر رہا ہے (آپ کی سابقہ باتوں سے یہی معلوم ہوا ہے) تو پھر آپ ان لوگوں کو برانہ کہیں جو آپ کو ایمان و تکفیر کے مسائل میں خالص چمیہ کہتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان مسائل میں آپ نے تمہم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ایمان و کفر اور وعد وعید کے مسائل میں بھی۔ اس لیے اس کے ذریعے سے تمہم کے مذہب کی تائید و حمایت کرتے ہیں ایسا علم جہنم کے پاس نہیں تھا الہدا وہ بھی اپنے مذہب کی اتنی تائید و مدد نہیں کرسکا۔ اور اگر آپ کا جواب ہے کہ ایسا مسلمان ان افعال کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے اگرچہ اعتقاد کے بغیر ہی ہوں تو پھر آپ لوگوں نے اپنے تمام سابقہ اقوال کو جو کہ کفر کو صرف اعتقاد قلبی میں منحصر کرتے ہیں کو ساقط کر دیا ہے بے اثر کر دیا۔ اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ آپ نے کفر عملی و اعتقادی کا فرق شارع اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا بلکہ آپ نے جہنم اور اس

کے تبعین غالی مرجدہ کے فہم کے مطابق اس کو سمجھا اور اس کی تفسیر و تشریح کی ہے۔

③ کفر اعتقادی و کفر عملی میں وہی فرق ہے جو کفر اکبر و کفر اصغر یا کفر اکبر صرخ اور کفر الغمہ یا کفرد وون کفر میں ہے اس لیے کہ پہلی قسم کا کفر اپنے مرتب کو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور اس پر مرتد و کافر کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ ①

چاہے اس کے باطن میں کفر ہو ظاہر میں نہ ہو یا باطن میں نہ ہو یا باطن و ظاہر دونوں میں ہو اس کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینا ان کی مدد کرنا۔ دین سے استہزا کرنا۔ جادو کرنا۔ الحکم بغیر ما نزل اللہ چاہے تبدیل کر کے دوسرا حکم لائے یا اعراض اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہوا سی طرح کے دیگر امور جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے جن کے مرتب کو کافر قرار دیا جاتا ہے چاہے اس کے باطن میں ہو یا نہ ہو۔ دوسرا کفر اصغر ہے جس کا مرتب ملت سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل کو حلال نہ سمجھے اس کی مثال ہے ہر وہ عمل جس کے لیے شارع نے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے اور کوئی شرعی قرینہ اس کے کفر سے پھر نے پر دلالت کرنے والا ہے اگر یہ قرینہ اور دلیل نہ ہوتی تو اس پر کفر کا حکم لگ سکتا تھا ② اس کی مثال ہے خود کشی کرنے والے کی کہ کچھ نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے ہمیشہ کا جہنمی ہے جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے: جس نے اپنے آپ کو لو ہے سے قتل کیا تو وہ جہنم میں لوہا اپنے پیٹ

① اس سے وہ آدی مستثنی ہے جس کا کفر ظاہر نہ ہو باطن ہو جسے منافق کہتے ہیں اس دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ ہوتا ہے اگرچہ وہ آخرت میں کافر ہو جہنم کے آخری درجہ میں ہو۔

② اس میں استھان کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس طرح کا عمل خالص کافر نہیں ہوتا بلکہ یہ معصیت کا کام ہوتا ہے جسے کوئی بھی شخص مشینیت کے تحت کر لیتا ہے اسی کے بارے میں اہل علم کا یہ قول ہے کہ ہم کسی کو اس وقت تک کافر نہیں کہتے جب تک اس معصیت کو حلال سمجھ کر نہ کر لے، اس سے مراد ان کی وہ گناہ ہے جو کفر سے کم تر ہو جبکہ خوارج ہر گناہ کے مرتب کو کافر کہتے ہیں لیکن دور حاضر کے جہیے نے اس عبارت سے بہت برا مطلب لیا ہے اور اسے اس گناہ پر بھی مجبول کر لیا ہے جو شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک اکبر کے مرتب کو بھی اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اسے حلال نہ سمجھے۔

میں گھونپتا رہے گا ہمیشہ اس میں رہے گا جس نے زہر پی کر خود کشی کی تو وہ اسے جہنم میں پیتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس حدیث سے توظیاً ہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خود کشی کرنے والا کافر ہے اس لیے کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کافر کے لیے ہے یا مشرک کے لیے موحد گناہ گار کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے نصوص ایسے بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خود کشی کرنے والا کافر نہیں اللہ کی رحمت اور مغفرت اسے ملے گی اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کفار اکابر نہیں ہے الہذا ہم اس کے کفر کو کفر دون کفر کہیں گے، یا کفر اصغر، کفر نعمت کہیں گے جس کا مرتكب ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ صحیح حدیث ہے: نبی ﷺ جب مدینہ آئے تو آپ کے پاس طفیل بن عمر و بحرت کر کے آیا اس کے ساتھ اس کی قوم کا ایک آدمی بھی تھا۔ یہ مدینے میں رہے طفیل کا وہ ساتھی یہاں ہوا تو بیماری سے تنگ آ کر اس نے اپنی کلامی کی رگیں کاٹ دیں اور وہ مر گیا۔ خواب میں طفیل بن عمر نے اس کو اچھی حالت میں دیکھا مگر اس کا ایک ہاتھ ڈھکا ہوا تھا۔ طفیل نے پوچھا راب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے رب نے معاف کر دیا ہے اس بنا پر کہ میں نے اس کے نبی ﷺ کی طرف بحرت کی تھی۔ طفیل نے پوچھا کہ ہاتھ کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز تم نے خود خراب کی ہے اسے ہم صحیح نہیں کریں گے یہ واقعہ طفیل نے نبی ﷺ کو بتایا۔ رسول ﷺ نے فرمایا: اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی معاف کر دے

۔ (مسلم)

نبی کے ساتھ بحرت کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو بخش دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہوا حالانکہ اس نے خود کشی کی تھی۔ کفر پر جو مر جاتا ہے اس کی نیکیاں کلتی ہی بڑی کیوں نہ ہوں اللہ اسے نہیں بخشتا اور نہ ہی اس کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کی جائیں گے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ النساء: ٤٨ ”اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے

علاوه بخش دیتا ہے جسے چاہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آتُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ ﴿التوبہ: ۱۱۳﴾ ”نبی اور مونوں کے لیے لاٹق و مناسب نہیں کہ وہ مشکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔“ اگر یہ کہا جائے کہ خود کشی حرام ہونے سے پہلے اس آدمی نے اپنے ساتھ ایسا کر لیا تھا اس کو دلیل نہیں پہنچی تھی اور حرمت سے لامع رہا اس وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا؟

جواب اس حدیث کی عبارت سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہو رہا اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے ہاتھ کو سزا نہ ملتی اور جب اس سے کہا گیا کہ جسم نے خود بگڑا ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس حرمت سے واقف تھا اور شرعی حکم اس تک پہنچ گیا تھا اس لیے کہ عذاب کا برقرار رہنا اگرچہ جزوی تھا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو حکم کی دلیل پہنچ گئی تھی جیسا کہ فرمان رب تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا كَنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ﴿الاسراء: ۱۵﴾ ”ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک رسول نہ پہنچ دیں۔“

سہال اس کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی کیا توجیہ کریں گے یہ عذاب تو کافروں کے لیے ہوتا ہے؟

جواب اس سے مراد سختی اور طویل عرصہ کا دردناک عذاب ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس گناہ پر دیگر گناہوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جنہیں شارع نے کفر کہا ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ ہو جوان گناہوں کو کفر سے پھیر دے تو پھر ان کو کفر کہنے سے مراد کفر اصغر ہو گا یا کفر عملی کھلا گا جو ملتہ سے خارج نہیں کرتا۔ اور اگر ایسا کوئی قرینہ و دلیل نہ ہو تو پھر تکفیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو گا اور اسے کفر ظاہر پر محمول کیا جائے گا جو ملتہ سے خارج

کر دینے والا ہوتا ہے۔ اس ضابطہ کو مدنظر کر کفر اکبر اور کفر اصغر عملی میں تمیز کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اللہ پر اور اس کی شریعت پر بلا دلیل بات ہوگی (شریعت میں اضافہ شمار ہوگا) اس طرح تاویل کے لیے ایسا دروازہ کھل جائے گا جس سے بلا حساب و بلا اعتراض زنا دقة کی تاویلات گزرنکیں گی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفر اصغر عملی اس وقت کسی گناہ کو کہیں گے جب شرعی دلیل ہوگی جو یہ ثابت کرے گی کہ یہ کفر اصغر ہے۔ چاہے اس گناہ کا منع باطن ہو جیسے ریاء ”شُرُكَ الْأَصْغَرِ“ یا ظاہری اعضاء کا عمل ہوا اس کے علاوہ جو بھی بات ہوگی وہ اللہ پر بلا علم بہتان شمار ہوگی۔

۳) کفر کو اعتقد تک مخصر رکھنا دراصل عمل کو مطلقاً تکفیر میں تاثیر سے باطل کرنا ہے۔ اس سے پھر اپنیں کی تکفیر سے بھی انکار کرنا ہوگا اور دیگر ان سرکش کافروں کے کفر سے بھی کرنا ہوگا جنہیں قرآن نے کافر کہا ہے۔ ارجاء میں بہت آگے تک جانے والوں میں سے اکثر کوہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کی تکفیر سے بھی اجتناب کرتے ہیں جو جہنم کی شرائط پر بھی کافر قرار پاتا ہے۔ مثال کے لیے *السلفی الاذری کتاب* ”احکام التقریر فی مسائل التکفیر“ ملاحظہ کریں جس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس اس بات پر جنت قائم ہوئی کہ فلاں مسلمان نے قطعی نصوص سے ثابت شدہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھا تو قبولی بات اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص سے صادر ہونے والے اس عمل یا قول یا اس جیسے قول عمل پر اس شخص معین پر تکفیر کا قطعی حکم نہ لگایا جائے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو دل سے حلال مانے والا جو شریعت کے قطعی نصوص سے حرام ثابت ہو چکا ہو یہ تو جہنم کے اصولوں کے مطابق بھی کافر ہے مگر یہ لوگ اسے کافرنہیں کہتے اور اس کے لیے ان کی تکفیر معین کی رائے بھی نہیں ہے ایسی صورت میں تو ان کو جہنم کی طرف منسوب قرار دینا جہنم پر ظلم ہے اس لیے کہ یہ تو اخراج، ظلم اور جہنمیہ کو بنیاد فراہم کرنے میں اس سے بھی کئی گناہ آگے ہیں۔

۵ جب ایک کافر اور ایک مسلم دونوں صریح کفر عملی کا ارتکاب کر لیں تو ہم شیش اور اس کے تبعین مرجد و جمیع سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ ان میں سے اول الذکر نے دل سے اعتقاد کے ساتھ کفر کیا الہذا اس کی تکفیر کی جائے اور ثانی الذکر نے دلی اعتقاد کے ساتھ کفر نہیں کیا اس لیے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؟ جبکہ یہ ظاہر کے اعتبار کا راستہ تو آپ لوگ خود ہی بند کر چکے ہیں اس کے ظاہر کو باطن کے کفر کے لیے دلیل قرار نہیں دیتے؟ اگر آپ کہنے ہیں کہ ہم نے یہ راستہ بند نہیں کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ظاہر صریح کفر کر چکا ہے اسے تم مسلمان کہتے ہو اس کے ظاہری کفر کو باطنی کفر پر دلیل کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے پاس صرف یہ جواب رہ جائے گا اور وہ یہ کہ آپ اس کا دل چیز کر دیکھ لیں اس کے باطن کا حال معلوم کر لیں حالانکہ باطل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ یہ کام آپ کی طاقت و استطاعت سے باہر ہے الہذا ہمارا خیال ہے کہ آپ ان طواغیت کی تکفیر سے بھی اجتناب کریں گے جن میں ایمان کی منافی کفر کی تمام شرائط جمع ہو چکی ہیں اس لیے کہ باطن معلوم نہیں کر سکتے اور نہ آئندہ کرسکو گے (اور آخر ان کی تکفیر سے رک جاؤ گے) اس سلسلے میں ایک بیانی وزیر اپنی کتاب ”ایشار الحق علی الخلق“ میں ان لوگوں پر رد کرتے ہیں جو کفر یہ قول یا عمل کے مرتكب کی تکفیر کے لیے اعتقاد کی شرط لگاتے ہیں انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے کہ جو ظاہری قول و عمل کو باطن پر دلیل نہیں مانتا وہ کسی کو اس وقت تک کافرنہیں کہہ سکے گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نص نہ آجائے جس میں اس شخص کا نام لے کر اسے کافر کہا گیا ہو اور یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوال و اعمال کی بنیاد عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کا قتل بھی مگر اعتقاد چونکہ پوشیدہ چیز ہے الہذا اس طرح تو کسی کا کفر صرف اس صورت میں ثابت ہو گا جب اس کے بارے میں صریح اور واضح نص نہ آجائے۔

الباني: ایک مثال سن لیں صحیح متفق علیہ حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فتنہ اور اس سے قاتل

کرنا کفر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو اس لڑائی کی بنابرہم اسے کافر قرار دیں گے؟

ابو بصیر: اس حدیث میں احتمالات ہیں جو تفصیل کے مقاضی ہیں خاص کر جب اسے وہ شخص پیش کر رہا ہو جس پر جنہیہ و مر جنہے ہونے کا الزام ہے بلکہ ایمان کے معاملے میں جنہیہ کا پیر و کار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کی وجہ سے گالی دیتا ہے یادِ دین کی وجہ سے اس سے لڑتا ہے تو وہ کافر ہے ایسے میں حدیث کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا اس میں کوئی تاویل نہیں ہوگی۔ ابن حزم رضی اللہ عنہ (المملک: 327/3) میں لکھتے ہیں: کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہی ہے اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں سے ان کے دین کی وجہ سے لڑتا ہے وہ کافر ہے۔ شیخ ابن باز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسلام کے ساتھ یا اس کے کسی رکن یا عمل کے ساتھ استہزاء کرنا کفراً کبر ہے دین والوں کے ساتھ نمازیوں کے ساتھ دین اور نماز کی پابندی کی بنابرہ استہزاء کرنا دین کے ساتھ استہزاء شمار ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا تعلق رکھنا جائز نہیں بلکہ ان کی مذمت و تردید کرنا واجب ہے ان سے محتاط رہنا ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح دینی مسائل کا تمسخر اڑانا بھی کفر شمار ہوگا۔ (استہزاء بالدین و اهله، ڈاکٹر محمد سعید القحطانی)

سامی: اس کو کافرنہیں کہا جائے گا اس لیے کہ یہ کفر اصغر ہے۔

ابو بصیر: سامی کی بات یہاں قطع کر دی گئی حالانکہ گزشتہ ساری تفصیل یہاں بیان کی جانی چاہیے تھی۔

البانی: بہتر بات وہ ہوتی جو کم ہو مگر مدل ہو۔

ابو بصیر: شیخ اس بات سے کس طرح پریشان ہو گئے کہ حدیث میں گناہ کو کفر اصغر کہا گیا ہے اب اس نام کی وجہ سے کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں رہی اس معنی کے علاوہ اسے کوئی دوسرا معنی نہیں دیا جاسکتا اس کے برعکس عملی کفر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کفر عملی ہوتا ہے چاہے اصغر ہو یا اکبر

اس کا مرتكب ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ شیخ بھی یہی چاہتے ہیں شیخ کے خیال میں مسلمان سے
قال کفر نہیں ہے اس لیے کہ یہ عملی کفر ہے اور شارع نے اسے بذاتہ کفر نہیں کہا اور دیگر دلائل کی
وجہ سے اسے کفر اکابر سے پھیر دیا اس بنیاد پر وہ حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ عملی کفر
جو استحال و اعتقاد کے بغیر ہو وہ مرتكب کو کافر خارج عن الملة نہیں بناتا مگر نص کسی بھی لحاظ سے
اس مفہوم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بذرین بد دینتی کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کفر عملی کے بجائے کفر اصغر کی اصطلاح استعمال کی جائے جس سے مراد معاصی ہوں جو غالباً کفر
نہیں ہوتے۔ اور وہ کفر عملی اصغر بن جاتا ہے تا کہ کفر عملی اکبر اور اس کے درمیان تمیز ہو سکے۔

البانی: یہ کفر ہے۔ ابھی آپ نے اسے کفر اصغر کہہ دیا جبکہ میں نے اس کو کفر عملی کہا ہے اب
میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہا؟

ابو بصیر: فرق تو واضح ہے وہ یہ کہ آپ تکفیر سے مانع اس بات کو قرار دیتے ہیں کہ عملی بدنی ظاہر
کفر ہے اور یہ بھی کہ شارع نے ان گناہوں کو بذاتہ کفر قرار نہیں دیا ہے۔

البانی: اب ہم کہتے ہیں کہ عملی کفر ہے اس لیے کہ یہ کفار کا عمل ہے۔

ابو بصیر: کس طرح انہوں نے کفر سے پھیرنے والی چیز کا اعتبار کر لیا اسے معتبر مان لیا یعنی یہ
کہ مسلمان سے قال کفار کے عمل کے مشابہ ہے مگر شارع نے اس کو دیگر نصوص کے ذریعے کفر
سے پھیر دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

وَإِنَّ طَائِفَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَثُ

إِحْدًا هُمَا عَلَى الْآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْئِي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

(الحجرات: ۹)

اگر مومنوں میں سے دو گروہ باہم قال کریں تو ان میں صلح کر دو ان میں سے ایک
گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف

آجائے۔

اس آیت میں قاتل کرنے والے دونوں گروہوں کو مومن کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے دکھادیا گیا ہے کہ میرے بعد میری امت کو کیا حالات پیش آئیں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اس بات نے مجھے بڑا کھنی کیا کہ سابقہ امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ آخرت میں مجھے شفاعت کرنے کا اختیار دے اللہ نے ایسا کر دیا۔ ((ابن ابی عاصم صححہ الشیخ فی التحریج)) ایک دوسرے قوتل کرنے کے باوجود نبی ﷺ کی ان کے لیے سفارش اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نافرمان مسلمان ہیں اگر یہ اپنے اس فعل کی وجہ سے کافر ہوتے تو ان کے لیے نبی ﷺ کی سفارش نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں جو مرتبہ کبیرہ سے کفر کو پھیر دیتے ہیں انہی دلائل کی بنابر ہم نے قاتل اور مقاتل مسلمان سے کفر کا حکم ہٹا دیا ہے اور اسے ہم نے کفر دون کفر کہ دیا ہے۔ یا کفر عملی اصغر کہا ہے۔ ہم سے پہلے کی قویں ہم سے اس بارے میں سبقت لے گئیں تھیں مگر انہیں ان افعال کی وجہ سے کافر نہیں کہا گیا یا یہ کہ باہم قاتل کرنا کفار کی خصلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں سے خشوع خصوص کے ساتھ نماز پڑھی پھر اپنی امت کے لیے تین دعائیں کیں تو دونوں ہو گئیں ایک نہیں ہوئی میں نے دعا کی کہ میری امت پر غیروں میں سے دشمن مسلط مت کرنا تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کی تھی میری امت کو غرق کر کے ہلاک مت کرنا، یہ بھی قبول ہو گئی، تیسرا دعا کی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑیں تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ (ابن ماجہ) اب یہ امت اس میں سے اپنا حصہ حاصل کرے گی (یعنی باہم لڑے گی) یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ کفر عملی اصغر کو اس بات میں مقید کرنا کہ وہ کفار کے افعال کے مشابہ ہو یہ غلط تلقین ہے شیخ سے پہلے کسی معتبر عالم نے یہ قید نہیں لگائی اس لیے کہ کفار کے تمام افعال کی مشابہت کفر اصغر نہیں ہے جو ملة سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا۔

البانی: جیسا کہ مشاہدے سے ثابت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو اس بارے میں آپ اور آپ کی تاویل کے خلاف ہماری معاون ہے۔ کہ (آپ کے بقول) یہ کفر اصغر ہے یہ بات ہماری معاون ہے کہ یہ کفر عملی ہے۔

ابو بصیر: یہ تاویل اس بھائی کی نہیں ہے بلکہ اس پر شرعی نصوص دلالت کرتے ہیں اور سلف نے ان کا اطلاق ان گناہوں پر کیا ہے جو کفر دون کفر ہیں۔ مگر اس اصطلاح سے شیخ کے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے کام نہیں آرہی اس لیے کہ انہوں نے امت کی کی ہوئی تفسیر کے خلاف عملی تفسیر کی ہے

البانی: وہ حدیث یہ ہے: ﷺ نے جمعۃ الوداع میں جریر بن عبد اللہ الجبلی کو مخاطب کر کے فرمایا: لوگوں کو میری طرف متوجہ کرو۔ پھر فرمایا: (لوگو) میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نہیں مارو۔ گردنیں مارنا بلا شک و شبہ عمل ہے یہ رسول ﷺ کے پہلے والے فرمان کی تفسیر ہے۔

ابو بصیر: یہ حدیث کئی وجہ کی متحمل ہے شیخ کی یہ بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ حدیث میں جس کفر کا ذکر ہے اس سے مراد مطلقاً کفر اصغر عملی ہے بلکہ حدیث کا ظاہر اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ (الفصل: 237/3) میں لکھتے ہیں: حدیث اپنے ظاہر پر ہی ہے۔ اس میں منع کیا گیا ہے اس بات سے آپ ﷺ کے بعد مرتد ہو جائیں اور اس کی وجہ سے لڑتے رہیں۔ انہوں نے حدیث میں مذکور کفر کوارڈ اور کفر اکبر پر محمول کیا۔

میں کہتا ہوں: حدیث میں معمولی سی دلالت بھی اس بات پر نہیں ہے کہ کفر عملی کی تعریف اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ کفار کے فعل کے مشابہ ہے۔ شیخ کے کلام میں تکلف اور کلام کو غیر محل پر محمول کرنا بہت زیادہ اور واضح ہے۔ تب یہ کفر عملی ہے ”مسلمان کو گالی دینا“ فتنہ ہے اس سے قابل کرنا کفر

ہے، اس کا مرتكب ملت سے خارج نہیں ہوتا۔

ابو بصیر: یہ مطلقانہیں ہے۔ تفصیل گزر چکی ہے۔

البانی: مگر جب تک اس (قتل مسلم) کے ساتھ استحلال شامل نہ ہوا وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ (قتل ہونے والا) مسلمان ہے۔ ایسی صورت میں یہ عملی کفر اعتقادی کفر بن جائے گا۔

ابو بصیر: جب اعتقاد رکھے اور حلال سمجھے تو وہ پکا کافر ہے اگر اعتقاد کے ساتھ قتال مسلم کو ملائے۔ ہم نے مسلمان سے فتال کرنے والے کی تکفیر سے جو منع کیا ہے تو وہ گز شستہ تفصیلات کے ساتھ ہے اور دوسرے والے کو یعنی استحلال اور اعتقاد والے کی تکفیر شرعی نصوص کی وجہ سے کی ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عملی کفر سے اعتقادی کفر کی طرف منتقل ہوا ہے۔

البانی: تم اس اجماع سے دلیل لیتے ہو جو تم نے سلف اور معاصرین سے نقل کیا ہے۔ لازمی امر ہے کہ تم نے انہی کی تفسیر آیت ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ... كَافِرُونَ﴾ تک پڑھی ہو گئی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

ابو بصیر: حاکم بغیر ما نزل اللہ یا اللہ کی شریعت کے بد لے کوئی اور قانون لانے والے حکمران طاغوت کے بارے میں علماء کے اقوال گزر چکے ہیں اور ان کے کفر پر اجماع بھی ذکر ہو چکا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ ابن عباس رض غیرہ نے کہا ہے تو یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے:

① جب آیت مطلق ہو تو مناسب یہ ہے کہ پہلے اسے کفر اکبر پر محمول کیا جائے ایسا نہیں جیسا کہ ارجاء کے شیوخ کر رہے ہیں کہ صرف آیت سن لی اور اس میں مذکور کفر کو کفر اصغر قرار دے دیا یا کفر دون کفر کہہ دیا۔ سہارا بن عباس رض غیرہ کے قول سے لے لیا۔ اس بات کا لحاظ ہی نبی کیا کہ آیت کسی پر محمول ہو سکتی ہے۔

۲) اگر آیت یہود کے بارے میں بھی ہے تو یہ دیگران لوگوں پر محول ہو جاتی ہے جوان کی طرح اخلاق، صفات اور افعال کے مرتكب ہوں اور حکم میں اپنے طریقے ایجاد کرتے ہوں اعتبار عموم لفظ کا کیا جاتا ہے خاص سبب کا نہیں۔ خاص کر ”من“ جو اس آیت میں مذکور ہے یہ عموم کو ثابت کرتا ہے جس کا معنی یہ ہو گا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ابن کثیر رض نے براء بن عازب، حذیفہ بن یمان، ابن عباس رض، ابن ابی رجاء العطاری، عکرمہ، عبد اللہ بن عباد اللہ اور حسن بصری وغیرہم رض سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل کے کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے حسن رض کہتے ہیں مگر ہم پر بھی واجب ہے۔ سفیان ثوری رض منصور سے وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نبی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی اور اس امت کے لیے بھی اللہ نے اسے پسند کیا۔ حذیفہ بن یمان رض کہتے ہیں: بنی اسرائیل تمہارے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے ہر قسم کی میٹھی اور ان کے لیے ہر قسم کڑوی ہے۔ تم ان کی پیروی کرو گے قدم بقدم۔ (ابن کثیر، طبری) یہود کے بارے میں آیت جس سبب سے نازل ہوئی تھی اسے ہم مناسب جگہ بیان کریں گے۔ (ان شاء اللہ) اگر فرض کر لیں کہ آیت اسی سبب سے نازل ہوئی تھی تو طواغیت الحکم اپنے اپنے مختلف کفروں کی وجہ سے ان یہود سے بھی زیادہ سخت جرم کے مرتكب ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ (ایک ہی سبب کی وجہ سے) یہود کو تو کافر کہا جائے مگر ان سے بڑھ کر گناہ گاروں اور سرکشوں کو کافرنہ کہا جائے؟ اگر واقعی آپ ان طواغیت کی حقیقت سے بے خبر ہیں تو ہم آپ کے سامنے ان کی کچھ صفات اور خصلتوں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ حق کی طرف آجائیں اور یہی ہماری آرزو اور خواہش ہے کہ آپ ان صفات کی بنابری کے بارے میں غور کریں اور ان طواغیت پر مسلمان کا حکم لگانے سے پہلے تحقیق کر لیں اور آپ اپنے مخالفین میں مشہور کر دیں کہ یہ خوارج اور غلوکرنے والے ہیں ان لوگوں کی صفات و خصلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی شریعتیں اور قوانین بناتے ہیں جو شریعت

اللہ کے مخالف ہیں بلکہ اسے ڈھادینے والے ہیں۔ ان قوانین کو یہ بہترین قرار دیتے ہیں اور انہیں امت پر لا گونا فذ کرتے ہیں۔ اپنے دستور و آئین کو ہر دوسرے قانون پر فوقيت دیتے ہیں اور انہیں عدالتوں میں راجح کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خود کو اپنی اسمبلی کو تشریع کا حق دار سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر قانون سازی کرنے کا پناخا صہ سمجھتے ہیں۔

جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَمْ لَهُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْمِ بِهِ اللَّهُ (الشوری: ۲۱)

کیا ان کے ایسے شریک ہیں جو ان کے لیے دین میں سے ایسے قوانین بناتے ہیں
جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟

دوسری جگہ ہے:

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (الکھف: ۲۶)

وہ (اللہ) اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

فرماتا ہے:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيمَانَهُ (یوسف: ۴۰)

حکم صرف اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ کہ حکم اور شریعت سازی میں اللہ اکیلا ہے جبکہ ان لوگوں نے اپنے جیسے (انسانوں میں سے) اللہ کے حکم میں شریک بنارکے ہیں بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون سازی صرف ہماری خصوصیت ہے یہ لوگ اللہ کی مخصوص ترین صفت میں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔

② یہ لوگ طاغوت کی عدالتوں مکملوں اور عالمی اداروں (اقوام متحده، سلامتی کونسل، عالمی

عدالت وغیرہ) کے پاس فیصلے لیجاتے ہیں۔ اللہ و رسول ﷺ کے بجائے ان کے پاس اپنے مقدمات لیجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی قوم کے لیے کافر مغرب کا قانون لاتے ہیں اور شریعت ربانی کی جگہ اس کو اپنے ممالک میں رائج کیا ہے تاکہ ملک و قوم کے فیصلے اس کے مطابق ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

الْمُتَرَاهِلُونَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَيْ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًاً بَعْدًا (النساء: ٦٠)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ یا خیال ہے کہ وہ آپ ﷺ پر نازل ہونے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لائے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت کے پاس یجاں کیں حالانکہ انہیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔

دوسری جگہ فرمان ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے حکم نہ مان لیں اپنے متنازعہ امور میں اور پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔

طواوغیت الحکم اللہ کی شریعت کی طرف فیصلہ لے جانے سے اپنے دلوں میں صرف تنگی نہیں پانتے بلکہ یہ مسلح گروہوں کی شورش کے بھی محتاج ہیں تاکہ اپنے نفاق کی وجہ سے اللہ کے کسی ایک حکم کی

طرف بھی نہ جانا پڑے۔ یا ایک قدم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہیں ایسا کرنا پڑ بھی جائے تو یہ بادل ناخواستہ ہی کرتے ہیں۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب (التبیان: ص 270) میں لکھتے ہیں: اللہ نے اپنی مقدس ذات کی قسم کا حکم کرتا تھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس وقت تک ایمان آہی نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ لوگ اپنے تمام متنازعہ امور میں اس کے رسول ﷺ کو حکم نہ مان لیں چاہے اصولی مسئلے ہوں، فروعی ہوں، شریعت کے احکام ہوں، آخرت کے معاملات ہوں یا دیگر کچھ مسائل ہوں۔ اور پھر صرف حکم ماننے سے بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دلوں سے تنگی یا ناپسندیدگی دور نہ ہو (جب تک نبی ﷺ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کر لیں) اور اس کو کھلے دل سے تسلیم نہ کر لیں۔ جب تک مکمل خوشی، رضا مندی اور قبولیت، عدم معارضت نہ ہو۔ طواغیت الحکم میں یہ سب صفات کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (النساء: ٥٩)

اگر تم کسی مسئلے میں تنازع کر بیٹھو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علام الموقعین میں لکھتے ہیں: اللہ اور رسول ﷺ کی طرف مسائل کے لیجانے کو ایمان کے واجبات اور اس کے لوازم میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ لوٹا نہیں رہا تو ایمان بھی نہیں رہے گا کہ باہم لازم و ملزم چیزوں میں سے ایک کی نفع سے دوسرا کی نفع ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ طواغیت اللہ کے حکم سے اعراض کر کے عناد و تکبر کی بنابر اللہ کے حکم کی تو ہیں کرتے ہوئے اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑ کر دیگر قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی جا کر کہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرو تو یہ لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اس کو مختلف قسم کی سخت

ترین سزا میں دیتے ہیں جو شخص ایسا ہو تو اس پر بغیر کسی شک و شبے کے کفر کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ (المائدہ: ٤٤)

جو اللہ کے نازل کردہ (قوانين) کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگوں کا فر ہے۔

محمد بن عبد الوہاب رض فرماتے ہیں: جس نے شرک کو اچھا سمجھا لوگوں کے لیے یا اس کے مبارح ہونے پر شبہ قائم کیا جس نے مزارات کے تحفظ کے لیے تواریخائی (جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے) اور ان پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کیا ہم ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں جس نے اللہ و رسول ﷺ کے دین کا اقرار کیا مگر پھر اس سے دشمنی کی اور لوگوں کو اس سے روکا۔

میں کہتا ہوں: وہ شخص بھی ان میں شامل ہے جو کفر و شرک کے قوانین کے دفاع کے لیے لڑتا ہے۔ ان کو برا سمجھنے والوں سے لڑتا ہے وہ بھی ان لوگوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر کافر ہے جو مزارات کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی کافر ہے جو ان شرکیہ قوانین کو راجح کرتا ہے انہیں بہتر سمجھتا ہے انہیں امت پر لا گو کرتا ہے۔ یہ شخص کافر و مرتد ہے۔ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ ان طواغیت کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اس میں عیوب و نقائص نکالتے ہیں۔ ان کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن تقاریر میں واضح طور پر دیکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے کہ یہ قوم اس قسم کے کفر میں مبتلا ہو چکی ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے بلکہ اکثر مسلمان کھلانے والے ممالک میں اب سرعام اللہ کو صریح طور پر گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو وہ جمہوری آزادی کا نام دیتے ہیں۔ ان تمام خطوں میں معمولی مفادات کی وجہ سے یہ طواغیت ان گالی دینے والوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے اس کے بر عکس اگر ان طاغوتوں میں سے کسی ایک کے خلاف ایک لفظ بولا جائے تو اس کے لیے سخت ترین سزا میں مقرر ہیں اور

ان پر فوری عمل در آمد ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ ان طواغیت میں یہ بھی خرابی ہے کہ یہ حقوق و فرائض کی تقسیم وطنیت کی بنابر کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک یہودی، کمیونٹ اور ایک مسلمان کے حقوق و فرائض میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ یہ ایک ملک کے باشدے ہیں ان کا وطن و ملک ایک ہے۔

البجزة الدائمة للجوث کے (فتاویٰ: 541/1) میں لکھا ہے: جو شخص یہود، نصاری یا دیگر کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق نہیں کرتا اور ان کو ایک ہی حکم کے تحت شمار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ان طواغیت کی ایک صفت یہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصاری سے بہت جلد و قتی کرتے ہیں اور موحدین کے خلاف ان کفار کی مدد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی سرکشی و گمراہی یہ بھی ہے کہ یہ دین کی دعوت دینے والوں کو ملک بدر کرتے ہیں۔ ان سے لڑتے ہیں۔ انہیں قید میں ڈالتے ہیں اور دین کی وجہ سے ان کو سزا میں دیتے ہیں۔ یہ بات تو شیخ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے حالانکہ شیخ کا ان طواغیت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اور جو مصالحانہ روایہ ہے اس کے باوجود شیخ ان لوگوں کی تکالیف اور سزاویں سے محفوظ نہیں رہے وہاں انہیں فقہی مسائل تک میں فتویٰ دینے سے روک لیا گیا۔ ان طواغیت سے چاہے انہیں کچھ بھی سمجھا جائے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید ناممکن ہے۔ اس کے برعکس کافر، مجرمین، مفسدین اپنے مختلف مذاہب و اقسام کے ساتھ ان ممالک میں کامل طور پر آزاد ہیں وہ اپنے کفر یہ نظریات و گمراہ کن عقائد ملک و قوم میں آزادی سے پھیلارہے ہیں انہیں تنظیمیں، جماعتیں بنانے اور رسائل شائع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ انہیں سرعام اپنی مجالس و پروگرام منعقد کرانے کی اجازت ہے ان کے علاوہ بھی ایسے امور ہیں جو ان کو اپنی گمراہیاں اور کفریات پھیلانے میں مدد و معاون ہیں۔ ان بالتوں اور خرایبوں کے علاوہ بھی کافروں کی کچھ خصوصیات میں ہیں یہاں تک کہ کوئی بھی منافی ایمان ایسا کام نہیں ہوگا جو ان طواغیت کے دلوں میں جاگزیں نہ ہو اور یہ اس میں ملوث نہ ہوں۔ ہم نے شیخ

کے سامنے طواغیت کے کفر یہ اعمال و صفات کی جو تفصیل پیش کر دی ہے کیا اس کے بعد پھر بھی ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ باقی رہا ہے؟ یہ جو ہم نے ان کے صریح کفر کے ثبوت دیئے ہیں یہ تو بہت میں سے صرف نمونہ ہے جن میں یہ خصلتیں ہوں کیا ان کی تکفیر میں کوئی رکاوٹ ہے۔؟

ہم تو شفقطی اللہ کی بات سے آگے نہیں جاتے جو انہوں نے اپنی کتاب (اصواء البيان: 84/4) میں لکھی ہے کہ: ان لوگوں کے شرک و کفر میں شک نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس کی بصیرت ختم ہو چکی ہو۔ اور وہ وجہ کے نور سے انداھا ہو گیا ہو۔ شیخ ہم آپ سے وضاحت کے ساتھ یہ درخواست کریں گے اور خیر خواہی کا مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں۔ آپ نے ان لوگوں کا بہت دفاع کر لیا آپ ان کے دفاع کی وجہ سے ہمارے اور مسلمانوں کے خلاف ان طواغیت کی مدد کر رہے ہیں اللہ کی قسم آپ کی طرف سے ان کا دفاع ہمارے لیے ان کے حملوں، مزاویں و مخالفتوں کی نسبت زیادہ سخت ہے۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخير ہو۔

شیخ صاحب ہم آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں جس میں وہ شخص بتلا ہوا تھا جسے اللہ نے آیات و ر علوم سے نواز تھا مگر پھر اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ﴿وَأُنْتُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي أَتَيْنَا فَإِنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَوَّيْنِ﴾ [اعراف: ۱۷۵] ”ان کے سامنے اس شخص کا واقعہ یا خبر بیان کر دیں جسے ہم نے اپنی آیات دی تھیں مگر وہ ان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے مل گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔“ ہم ایک حدیث بھی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں جسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ سفیان بلاں، مسلمان اور دیگر افراد کے پاس سے گزراتو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تلواریں ابھی اللہ کے اس دشمن کی گردن تک پہنچیں یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ سفیان اسلام سے قبل اسلام کا بہت سخت دشمن تھا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا کیا تم قریش کے

بزرگ اور سردار کے بارے میں ایسا کہتے ہو۔ پھر ابو جابر بن عیان نے آکر نبی ﷺ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر تم نے ان لوگوں (بلال، سلمان وغیرہ ﷺ) کو ناراض کیا تو تم اپنے رب کو ناراض کر لو گے۔ شیخ صاحب آپ مجھی اپنے (مسلمان) بھائیوں کو ناراض کر رہے ہیں اپنے موحد بھائیوں پر سفیان ثعلبی کی وجہ سے نہیں بلکہ ان طواغیت کی وجہ سے خارجی ہونے کے بہتان لگا رہے ہیں کہ جن (طواغیت) میں تمام نواقض ایمان جمع ہیں اور یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان موحدین نے طواغیت کی تکفیر کے مسئلہ میں آپ کی مخالفت کی ہے؟۔ ①

البانی: مشہور و معروف مفسرین کے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ آیت: ﴿اُولئک هم الکافرون﴾ کی تفسیر میں کہتے ہیں: اس لیے کہ یہ لوگ رسول ﷺ کے حکم پر دل سے ایمان نہیں لاتے انہوں نے دراصل کفر رسول ﷺ کے ساتھ کیا۔

ابو بصیر: یہ بات ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے نہ لفظاً تصحیح ہے نہ معناً اس کی تفصیل یوں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تفسیر (4/592) میں کہتے ہیں: اللہ فرماتا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل کیا ہے اور اس کو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا ہے جس نے اس حکم کو چھپایا اور اس کے علاوہ کسی اور حکم پر فیصلہ کیا جیسا کہ یہود نے شادی شدہ زانیوں کے بارے میں کیا تھا کہ رجم کا حکم چھپا کر منہ کا لکرنے کا حکم جاری کیا تھا اور جس طرح انہوں نے دیت میں کیا تھا کہ معززین کے قتل کے بدالے میں قتل اور عام غریب و کمزور لوگوں کے قتل کے بدالے میں دیت حالانکہ توراۃ میں اللہ نے سب کو برابر قرار دیا تھا۔ ﴿فَأُولئك هم الکافرون﴾ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا بلکہ اسے تبدیل کر دیا اور حق کو چھپا کر انہیں کچھ اور بتایا۔ یہ سب کچھ انہوں نے رشوت کی بنابر کیا تھا۔

① کتاب الصلاۃ میں شیخ لکھتے ہیں کہ: (ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے بعد) یہ کفر نہیں ہے جس کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں کفر دون کفر یہ تو ایک غلوکرنے والے تکفیری جماعت اور ان جیسوں کا بیان ہے۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنای قول ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو طواغیت زمانہ تھے اور ان میں کفر اکبر کے تمام خصائص جمع ہو گئے تھے

غور کریں کہ ان میں ابن جریر رض نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ دل کا معاملہ تھا یا یہ کہ ان کے دل میں محمد ﷺ کے ساتھ کفر تھا بلکہ انہوں نے وہ حکم بدل دیا تھا جو تورات میں اللہ نے ان پر نازل کیا تھا اس میں اپنی طرف سے معززین کے لیے رشوت لے کر ترمیم کی تھی اس میں اعتقاد یا استھان نہیں تھا جب نبی ﷺ نے ان کے عالم سے پوچھا اور انہیں اللہ کی قسم دی کر تھی بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہی حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا ہماری کتاب میں (شادی شدہ زانی کی) حد رجم ہے مگر ہمارے معززین و اشراف میں زنا زیادہ ہو گیا ہے جب ہم کسی معزز کو پکڑ لیتے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جب (زنا کرتا ہوا) کوئی غریب کپڑا جاتا تو ہم اس پر حد قائم کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم نے رجم کے کے بجائے کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے پر اجماع کر لیا۔ ان لوگوں نے ولی طور پر اللہ کے حکم کو ناپسند نہیں کیا تھا نہ اس کا انکار کیا تھا بلکہ اس میں تغیر و تبدلی پر انہیں شرعاً کی خوشنودی نے آمادہ کیا اور پھر یہ تغیر و ترمیم قانون کا درج حاصل گیا۔ اس فعل اور تغیر کی وجہ سے وہ اللہ کے اس حکم کے مستحق قرار پائے کہ ﴿فَإِنَّكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ یہ لوگ کافر ہیں۔ موجودہ دور کے طواغیت الحکم اس تغیر و تبدل میں مبتلا ہو چکے ہیں بلکہ یہ تو یہود سے بھی زیادہ شدید عمل میں ملوث ہیں کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر مغرب و مشرق کے طاغوتوں کا حکم اپنالیا ہے اور کچھ اپنی طرف سے بھی شریعت کے تبادل قوانین بنارکھے ہیں۔ اور ان کو قوم پر لا گو کر رکھا ہے۔ ان کی تعلیم ان کی جامعات میں بھی دی جا رہی ہے۔ ان کی عدالتوں میں یہ قوانین رانج ہیں۔ اس سے بڑھ کر کفر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دین سے خروج اور کس کو کہتے ہیں؟ ابن جریر رض نے اس آیت کی تفسیر میں احادیث اور اقوال ذکر کرنے کے بعد (597/4) لکھا ہے: میرے نزدیک ان اقوال میں زیادہ صحیح یہ قول ہے کہ یہ آیات کفار اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے کہ سیاق و سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس سے مراد ہیں۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اللہ نے اس قوم سے متعلق عام خبر

دی ہے جو اللہ کے دینے ہوئے حکم سے انکار کرتے تھے تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوئے اسی طرح ہر وہ شخص ہے جو انکار کی وجہ سے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا کافر ہے ابن جریر رض کی بات مکمل ہوئی۔ ابن جریر اور شیخ البانی کی باتوں میں موازنہ کریں (کہ ابن جریر نے کیا کہا ہے شخچنے کیا بیان کیا؟) کبھی انکار صرف ظاہری ہوتا ہے باطنی و قلبی نہیں ہوتا جیسے یہود نے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا تھا جس کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے۔ اب جو شخص ان جیسا کام کرے گا وہ انہی کی طرح کافر ہے۔ جسمیہ اور روحیہ کو لفظ ”جود“ یعنی انکار کے لفظ سے خوش نہیں ہونا چاہیے جو طبری کے کلام میں آیا ہے۔ اس سے مراد قبی انکار لے کر (خوش نہیں ہونا چاہیے) اس لیے کہ ابن جریر رض خاص قسم کا انکار مراد نہیں لیتے بلکہ اس کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ اس طرح اللہ کے حکم کو چھوڑنا۔ جس طرح یہود نے چھوڑا تھا۔ یہود کے طریقے کا ذکر پہلے طبری رحمہ اللہ کرچکے ہیں۔ لفظ ”جود“ سے مراد صرف قلبی انکار نہیں ہوتا بلکہ کبھی صرف ظاہری انکار کے لیے بھی آتا ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَ جَاهِدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقِنْتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ عُلُوًّا﴾ السم: ۱۴ ”انہوں نے انکار کر دیا ان (آیات) کا حال انکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا (یہ انکار) ظلم و تکبیر کی وجہ سے تھا۔“ انہوں نے آیات کا ظلم و تکبیر کی وجہ سے ظاہری انکار کر دیا تھا حال انکہ ان کے دلوں میں علم و یقین موجود تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں مگر اس کے باوجود انہیں کافر کہا گیا، فساد کرنے والوں کا انجام دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انکار کا منبع کبھی کبھی باطن ہوتا ہے کبھی ظاہر و اعضاء، اس کا سبب کبھی عناد و تکبیر اور فساد فی الارض کا ارادہ ہوتا ہے جبکہ دل میں اعتقاد اور تصدیق باقی ہوتے ہیں تو جو دو انکار مکمل نہیں ہوتا۔

قارئین کو اس بارے میں الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اعتقاد و تصدیق اس ایمان میں جو نفع بخش ہو میں فرق کیا ہے؟ کفر دل کے ایمان کی نفع کرتا ہے ضروری نہیں کہ اس سے اعتقاد اور تصدیق کی بھی نفع ہو اس کی مثال ہے ابوطالب کہ اس کے ظاہری کفر نے اس کے دل سے مطلقاً

ایمان ہی ختم کر دیا ہے جو اسے قیامت میں فائدہ پہنچا سکتا تھا مگر اس کے کفر نے اس کے اس اعتقاد فی نہیں کی جو نبی ﷺ کی صداقت سے متعلق اس کے دل میں موجود تھا اس کے جوا شعار اس سے منقول ہیں اس کا ترجمہ ہے:

”(اے محمد) تو نے مجھے دعوت دی میں جانتا ہوں کہ تو میرا خیر خواہ ہے تو سچا اور دیانتدار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام دنیا کے ادیان سے بہتر ہے۔“

جہاں تک یہود کا تعلق ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ کفر کیا انہیں جھٹلا یا اپنے دلوں میں کفر کو رکھا تو یہ بات اگر کوئی کہتا ہے تو یہ آیت مدلول کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ﴾ [آل عمران: 89] جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی جو قصداۃ کرتی ہے اس کی جوان کے پاس ہے حالانکہ وہ اس کی آمد سے قبل کافروں پر فتح حاصل کرنے کی باتیں یاد کیے میں کرتے تھے مگر جب ان کے پاس وہ آیا جسے یہ پہنچانے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر لیا۔ کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہود نبی ﷺ کے ذریعے مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے کہتے تھے اے اللہ جس نبی کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں تو اسے بھیج تاکہ وہ مشرکوں کو سزاۓ دے اور انہیں ختم کر دے۔ مگر جب اللہ نے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا اور یہود نے دیکھا کہ یہ تو دوسری قوم میں آگیا ہے تو عرب سے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قادہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مردی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب جب یہود کے پاس سے گزرتے تھے تو عرب انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ یہود چونکہ تورات میں محمد ﷺ کے بارے میں پڑھ چکے تھے تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ محمد ﷺ کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر عرب سے لڑیں۔ مگر جب محمد رسول اللہ ﷺ آئے تو یہود نے ماننے سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ عطا کہتے ہیں کہ جب نبی ﷺ مبعوث ہوئے اور یہود

نے دیکھا کہ وہ ان میں نہیں ہیں تو انکار کر دیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد ﷺ حق پر ہیں (طبری)۔ آیت کی تفسیریں جو سلف نے کی ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہود دل کی گہرائیوں سے یہ اقرار کرتے تھے معرفت تھے کہ محمد ﷺ سول برحق ہیں مگر جب وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے تو انہوں نے کفر کیا۔ یہ دلی انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے:

الَّذِينَ أَنْيَنُهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَ إِنَّ فَرِيَقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران: ١٤٦)

جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں
مگر ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔

ابن کثیر رضی اللہ عنہ (200/1) فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ علماء بنی اسرائیل نبی ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے صحیح ہونے سے باخبر تھے جس طرح کہ وہ لوگ اپنی اولاد سے باخبر ہوتے ہیں پھر اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ لوگ یہ سب کچھ جانے اور اس علمی پیشگوئی کے باوجود لوگوں سے نبی ﷺ کی وہ صفات چھپاتے تھے جو ان کی کتب میں تھیں۔ اسی طرح اللہ کا یہ فرمان ہے: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِالْأَيْتِ اللَّهِ يَجْعَدُهُنَّ☆الانعام: ٣٣﴾ ”یوگ آپ (ﷺ) کو نہیں بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔“ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل کتاب کے کفار وغیرہ نبی ﷺ کی نبوت کا اقرار دل کی گہرائیوں سے کرتے تھے اور دلی طور پر جانتے تھے کہ آپ ﷺ جو کچھ رب کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے لیکن حسد، تکبر اور عناد نے انہیں نبی ﷺ کی اتباع سے روک لیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک یہودی نبی ﷺ کے پاس آیا کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تم کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اس نے

کہا میں غور سے سنوں گا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا جب یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی تو اس دوران لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک اندر یہرے میں پل صراط سے پہلے۔ یہودی نے کہا پل صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: غریب مہاجرین، یہودی نے کہا جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تھہ دیا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مچھلی کی لکیجی، اس نے کہا: اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا۔ اس نے کہا: آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا: میں آپ سے وہ سوال کرنے آیا تھا جو روئے زمین پر پنجمبر یا ایک دوآدمیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول ﷺ نے فرمایا: اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا: میں سن لوں گا۔ اس نے کہا میں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی کا مادہ منویہ سفید اور عورت کا زرد ہوتا ہے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو مرد کا مادہ غالب آئے تو لڑکا اور اگر عورت کا غالب آئے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا: آپ ﷺ سچ کہتے ہیں آپ نبی ہیں پھر وہ یہودی چلا گیا۔ (مسلم)

اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ وہ یہودی نبی ﷺ کی صداقت کا آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار کرتا تھا مگر اتباع و اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے صرف اقرار و قصدیت نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ابن قیم یہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کفر کہتے ہیں رسول ﷺ کی لائی ہوئی شریعت میں رسول کو جھوٹا ماننے کو یا رسول کی صداقت معلوم ہونے کے بعد اتباع نہ کرنے کو جیسا کہ فرعون اور یہودیاں کی طرح دیگر ہوں۔ (درء تعارض العقل والنقل: 1/242)

ابن قیم رحمۃ اللہ (مفہام السعادۃ: 1/93-94) میں لکھتے ہیں: ہر قل نے یقین کر لیا تھا کہ محمد ﷺ نے اللہ کے رسول ہیں اس میں اس نے شک نہیں یا لیکن اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اس نے گمراہی اور کفر کو ترجیح دی۔ جب یہود نے تسع آیات کے بارے میں پوچھا اور آپ ﷺ نے

بتادیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا دا و د علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں ہمیشہ نبوت رہے ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی ابتداء کی تو یہودیمیں قتل کر دیں گے۔ ان لوگوں نے نبی ﷺ نبوت کو تسلیم کر لیا تھا اس کی گواہی بھی دی تھی مگر اس گواہی کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں بنے انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی اس لیے کہ صرف اقرار کرنا کسی کی رسالت کی خبر دینا کوئی فائدہ نہیں کرتا جب تک اطاعت و اتباع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ﷺ نبی ہیں لیکن میں ان کی ابتداء نہیں کروں گا ان کا دین نہیں اپناوں گا تو یہ شخص سب سے بڑا کافر ہے اس بات پر صحابہ کرام ﷺ تابعین اور ائمہ سنت ﷺ میں اتفاق ہے کہ ایمان کے لیے صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے اور نہ ہی دلی علم کافی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کا عمل بھی ضروری ہے یعنی اللہ کے سامنے جھکاؤ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اس کے دین کو اپنانا رسول کی ابتداء کرنا یہ قول ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کے علم اور اقرار کا نام ہے اس کے بطلان کی تفصیل گزر چکی ہے۔

یہ دو قسمیں ہیں یعنی کفر جو دوعنا دا اور کفر اعراض، اکثر متکلمین اس کا انکار کرتے ہیں اور صرف کفر جو دوعنا د کو ہی ثابت کرتے ہیں وہ ہے کفر جہل، دوسرے اور تیسرا کو وہ پہلے والے کفر کے لیے دلالت بناتے ہیں اسے بذاتہ کفر نہیں سمجھتے ان کے نزد دیک کفر صرف جہل کو کہتے ہیں جو قرآن، سنت اور انبیاء کی سیرت اور ان کا اپنی قوموں سے جو برتاب تھا اس پر غور کرے ان کی دعوت اور ان کے اور قوموں کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس پر غور کریں تو وہ اہل کلام کی بات کی غلطی کو واضح طور محسوس کر لے گا اور یہ بھی جان لے گا کہ ان اقوام کا کفر علم و یقین کے ساتھ ملا تھا وہ انبیاء کی صداقت کو جانتے تھے ان کی دعوت کے صحیح ہونے سے واقف تھے ان کی لائی ہوئی شریعت کے صحیح ہونے سے بھی باخبر تھے۔ جب اخنس نے ابو جہل سے رسول ﷺ کے بارے میں پوچھا تو

ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی جھوٹ نہیں بولا میں جانتا ہوں وہ نبی ہے لیکن ہم کب تک عبد مناف کے تبعین رہیں گے؟ اس کے باوجود بھی اگر عصر حاضر کے جہمیہ اور غلوکرنے والے مرجحہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کفر دراصل نبی ﷺ کے حکم کی دلی طور پر تنذیب کرنے کی وجہ سے تھا (حالانکہ جن لوگوں نے نبی ﷺ کے ساتھ کفر کیا آپ کے حکم کا انکار کیا آپ ﷺ رب کی طرف سے جو دین لائے تھے اس کا انکار و کفر کیا وہ آپ ﷺ کے حکم کے انکار کی وجہ سے کفر تھا) اگر دلی کفر نہ ہو تو مکفیر جائز نہیں۔ تو ان جہمیہ و مرجدہ کی یہ بات صحیح نہیں ہے ہر لحاظ سے باطل ہے۔ آیت اول تک حرم الکافرون کا سبب یہ نہیں ہے جیسا کہ شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر تفسیر و تعلیل میں دل کو ضرور شامل رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ کے پاس سے ایک یہودی کو گزارا گیا جس کا منہ کالا کیا گیا تھا آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ہاں زانی کی یہ سزا ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ ﷺ نے ان کے عالم کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری کتاب میں زانی کی یہی سزا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا ہماری کتاب میں سزا درجم ہے مگر زنا ہمارے اشرافیہ میں زیادہ ہے اب ہم جب کسی معزز آدمی کو زنا کے کیس میں پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جب کوئی غریب کمزور آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس پر حد نافذ کر دیتے ہیں ہم نے کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے پر اجماع کر لیا ہے اور درجم کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا اے اللہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس (حکم درجم) کو زندہ کیا جکہ انہوں نے تو اسے ختم کر دیا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے حکم دیا اور اس شخص کو سنگسار کر دیا گیا۔ ①

① غور کریں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تک کر دیا تھا ان کے دلوں میں جو دنکار اور تنذیب نہیں تھی جیسا کہ شیخ کا خیال ہے بلکہ انہوں نے معزز اور کمزور آدمی کی سزا میں توازن رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ ان کی کتاب میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف تدبی و ترمیم کرنے کی وجہ سے کافر قرار پائے

اللَّهُ نَّهَىٰ آيَتِ نَازِلَ كَرْدِي:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ (المائدہ: ۴۱، ۴۴)

اے رسول آپ ان لوگوں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہوں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں
جو اللہ کے نازل کردہ (دین) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔

یہ یہود کے بارے میں ہے اور:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (المائدہ: ۷)

جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔

یہ عام کافروں کے بارے میں ہے حالانکہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے نبی ﷺ کے پاس فیصلہ لانے سے متعلق ہے۔ جب آیت ان کے مطلب اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے اسے لے لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں یہی بات قرآن کی آیت کی تفسیر میں مذکور ہے۔ آیت ہے:

يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيمُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا (المائدہ: ۶)

اگر تمہیں دیا جائے تو لے لو اگر نہ ملے تو اجتناب کرو۔

اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر (60/3) لکھتے ہیں: یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ آئے محمد (ﷺ) کے پاس (زنکا) یہ فیصلہ لیجاتے ہیں اگر انہوں نے منہ کا لا کرنے اور کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے اور اسے اپنے اور اللہ کے درمیان جتنا بنالیں گے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اگر محمد (ﷺ) نے رجم کا فیصلہ کر لیا تو اس کی اتباع مت کرو۔ اس میں دل کا کہیں ذکر نہیں ہے نہ یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم سے انکار دلی طور پر کیا تھا بلکہ ابن کثیر (رض) نے ان کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل کی گہرائی

سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ محمد ﷺ نبی ہیں اور ان کا حکم و فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو وہ کس طرح ان کے فیصلے کو اپنے اور اللہ کے درمیان ججتے بناتے کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے جبکہ وہ اس کی نبوت کو اگر تسلیم نہیں کرتے تھے؟ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی آنے والی بات (2/60) کی تائید کرتی ہے جو ان کی فاسد آراء کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس موجودہ کتاب کو ترک کیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کو اپنانے کا حکم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مگر پھر اس کے حکم سے نکل کر دوسرا کے حکم کی طرف چلے گئے جس کے بطلان کا اور لازم نہ پکڑنے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ غور کریں وہ اس فیصلے کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے جو ان کی کتاب میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلے کر لیتے اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کے فیصلے سے انحراف کیا تو یہ فساد و باطل عمل ہے۔ مگر یہ عقیدہ پھر بھی ان کے کام نہ آیا اور ان کے کفر و تکفیر کی راہ میں مانع نہیں بن سکا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ترک کیا اس سے اعراض کیا اگرچہ اعتقاد کے بغیر یہ عمل کیا تھا۔

البانی: اسی لیے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے کہ اس آیت کو فاجر مسلمانوں پر منطبق کرنا جائز نہیں ہے جو دین کو اپنانے ہوئے ہوں اور اللہ کے نازل کردہ پر ایمان رکھتے ہوں لیکن اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کبھی کبھی اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ یا اس کے نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوں تو اس آیت کو ایسے مسلمانوں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ مشرکین کی طرح نہیں ہیں اس لیے کہ یہ اللہ پر اور اس کے نازل کردہ دین پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس ایمان کے ساتھ عمل شامل نہیں ہے۔ جبکہ کفار نے اللہ کے نازل کردہ دین کی دل و جسم دونوں سے مخالفت کی ہے۔

ابو بصیر: یہ باطل کلام ہے کئی وجوہات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے:

۱) اس لفظ اور معنی کے ساتھ نہ تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے نہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بلکہ

یہ دونوں پر بہتان ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پہلے گزر چکا ہے اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات پیش خدمت ہے۔ انہوں نے آیت میں مذکور کفر پر صرف آثار نقل کیے ہیں انہی پر اتفاق کیا ہے۔ خود اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کہتے ہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سنداً عالمہ و مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے دونوں نے ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے رشوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ الحجت میں سے ہے انہوں نے حکم کے بارے میں پوچھا تو ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ کفر ہے پھر آیت پڑھی: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكُفَّارُونَ﴾ المائدة: ٤٤ سدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: وہ کہتے تھے کہ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ﴾ آیت کا مطلب ہے کہ جس نے جان بوجھ کر اللہ کے نازل کردہ دین کو چھوڑ دیا یا جان بوجھ کر اس دین سے ہٹ گیا وہ کافر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جس نے اللہ کے نازل کردہ دین کا انکار کیا وہ کافر ہوا جس نے اقرار کیا وہ فاسق ظالم ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور پھر اس رائے کو پسند کیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے یا جس نے کتاب اللہ کے حکم سے انکار کر دیا ہو۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ.....﴾ آیت کا تو انہوں نے کہا یہ اس کے ساتھ کافر ہے۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اس کی طرح نہیں ہے جو اللہ، ملائکہ، کتب و رسولوں پر کفر ہوتا ہو، ثوری، ابن جرتن، عطاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، فتن دون فتن ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ایسا کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کرتا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے یہ کفر نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر: 2/63-64)

﴿تَبَصَّرُهُ﴾

① اب کہاں ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں قلب یا قالب کی بات اور کہاں ہے اس میں جائز و ناجائز کا لفظ جو شیخ نے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں

خود ایک لفظ تک نہیں کہا۔

۲ جس نے ابن کثیر رض کی رائے تاتاریوں کے یاسق اور اس پر فیصلہ کرنے والوں کے بارے میں پڑھی ہے اور جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے کفر یہود کے بارے میں اور ابن کثیر رض نے آیات کے متعلق جو رائے دی ہے مثلاً:

فَلَا وَرِبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا (النساء: ۶۵)

تیرے رب کی قسم یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں حکم نہ بنالیں اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے سے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اسے مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔

جو بھی اس کو دیکھے گا وہ محسوس کر لے گا کہ ابن کثیر رض کی رائے شیخ صاحب کی پیش کردہ رائے کے بالکل الٹ و بر عکس ہے جو شیخ نے ابن کثیر رض کی طرف منسوب کی ہے۔ اور وہ سمجھ جائے گا کہ ابن کثیر رض اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو ظاہری و باطنی یادوں میں سے ایک طرح کا کفر کرتا ہو۔ اسی طرح جو شخص دل سے اور ظاہری طور پر اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہو۔ یا جو شخص خود سے ظاہری اتباع مطلقاً نفی کرتا ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ایک عالم کے تمام اقوال لے کر دیکھیں اگر تعارض ہو تو ان میں مطابقت دی جائے پھر اس کا قول اور مسئلے کا حکم واضح کیا جانا چاہیے علی دیانتداری اور انصاف کا تقاضا یہی ہے نہ یہ کہ اپنے مطلب کی بات لی جائے باقی چھوڑ دی جائیں۔

۳ ابن کثیر رض نے ایسے اقوال ذکر کیے ہیں جنہوں نے شیخ کو مشکل میں ڈال دیا ہے اور اس کے مذہب کو بھی۔ یعنی ابن مسعود رض و سدی رض کا قول کہ جس نے اللہ کا حکم جان بوجہ کریا بے پرواہی سے ترک کر دیا اور وہ عمل کر رہا ہو تو وہ کافروں میں سے ہے۔ ابن کثیر رض نے

اس پر یہ اطلاق کرنے سے خاموشی اختیار کی ہے کوئی تبصرہ یا تفصیل بیان نہیں کی۔

۴ سلف کے اقوال میں کافر بنانے والے جس انکار (بجود) کا ذکر ہے اسے ہر قسم کے انکار پر محمول کرنا چاہیے چاہے باطن و ظاهر دونوں ہو یا باطن میں ہو ظاہر میں نہ ہو جیسے منافقین کا انکار ہوتا ہے یا ظاہر میں ہو باطن میں نہ ہو جیسے یہود نے اللہ کے حکم رجم اور محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کیا تھا حالانکہ دلی طور پر وہ رجم اور محمد ﷺ کی نبوت کے اقراری تھے جو شخص ان میں سے کوئی بھی قسم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

۵ سلف نے جس قسم کے حکم کا ذکر کیا ہے جو ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے جس کو کفر دون کفر کہا ہے۔ ظلم دون ظلم اس پر کفر عملی کا اطلاق نہیں کیا اس لیے کہ یہ اطلاق کئی وجودہ کی محتمل ہے ممکن ہے اس کا غلط مطلب نکلا جائے اور اس کو کسی اور معنی پر محمول کیا جائے۔

۶ جو حکم کفر اصغر کا مرٹکب ہوتا ہے یا کفر دون کفر جو ملت سے خارج نہیں کرتا جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر وہ حقیقت میں اللہ کے حکم کو واجب سمجھتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے پھر گیا ہے اور وہ اس بات کا بھی معرفت ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہے تو اس کا یہ عمل کفر اصغر ہے۔ (بدائع الثغیر: 12/2)

غور کریں کیا موجودہ دور کے طوایغیت الحکم اس طرح کے ہیں کہ ان کا اتنا دفاع کیا جا رہا ہے؟ یہاں تک ان کے لیے کفر دون کفر یا کفر اصغر کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے؟ پھر یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح ایک ہی معین واقعہ میں الحکم بغیر ما نزل اللہ کی تعریف بیان کی اس لیے کہ اس کے خیال میں یا اس کے علاوہ کسی اور عالم کے خیال میں اس طرح کا کوئی حاکم نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کو مکمل طور پر مٹاتا ہے اس کی جگہ دوسرا قانون لاتا ہے جو اس نے خود بنایا ہو یا کسی دوسرے طاغوت نے بنایا ہواں قانون کی تعریف کرتا ہے اس کو امت کے لیے لازم قرار دیا ہے اس کی مخالفت کرنے والوں یا اس کو ترک کرنے والوں سے لڑتا ہے اور پھر بھی اس کے لیے لفظ کفردون

کفر یا کفر اصغر استعمال کیا جائے جیسا کہ دو رحاضر کے جمیہ اور مرجنہ کرتے ہیں۔

⑦ اصول یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی تینوں آیات کو کفر اکبر، ظلم اکبر اور فرقہ اکبر پر محمول کیا جائے اس لیے کہ یہ اہل کتاب کے بارے میں ہیں اور جو بھی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں ہے۔

⑧ جب آیات کو مسلمانوں پر محمول کیا جائے گا تو ان کی حالت پر غور کیا جائے گا کہ اگر وہ اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے اس سے اعراض کرنے والے ہوں یا اللہ کے حکم کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ لڑنے والے ہوں یا ایسے قوانین بناتے ہوں جو اللہ کی شریعت سے معارض ہیں یا امت کے لیے اللہ کی شریعت کے علاوہ دیگر قوانین کو لازم سمجھتے ہوں یا ان قوانین کے دفاع کے لیے اس کے مخالفین سے لڑتے ہوں ان سے دشمنی کرتے ہوں۔ یا اللہ کی شریعت کے بدله طاغوت کا قانون لاتے ہوں۔ اللہ کی شریعت کے علاوہ وہ ہر قانون طاغوت ہے ایسے لوگوں پر آیت محمول ہو گی تو کفر اکبر، ظلم اکبر اور فرقہ اکبر مراد ہو گا۔ اگرچہ وہ زبان سے اقرار نہ کریں کہ وہ اللہ کے حکم کے منکر ہیں اس لیے کہ زبان حال قال سے زیادہ قوی دلیل ہے۔ یہی حال اُنکے کفر پر شاہد ہے۔

جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

بِالْكُفْرِ (التوبۃ: ۱۷)

بشر کیں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجدیں آباد کریں حالانکہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔

اگرچہ زبان سے نہ بھی کہیں کبھی کبھی انسان کا عمل اور اس کا ظاہر اس پر بڑی دلیل بتاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی حالت یہ ہو کہ عمومی زندگی میں اللہ کی شریعت پر فیصلے کرتے ہوں اور ان کے افعال

واقوال سے ثابت ہوتا ہو کہ وہ اللہ کے حکم اور رضامندی کو ترجیح دیتے ہیں اور شریعت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر پھر چند مسائل میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتے انکار، اعراض، عناد یا ناپسندیدگی واستہزا اور شریعت کے ساتھ نہیں کرتے صرف کمزوری یا خواہش سے مغلوب ہو کر نہ چاہتے ہوئے ایسا کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں پر علماء کی اصطلاح کفر دون کفر کا استعمال ہوتا ہے جو کہ ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا۔

⑨ ابن عباس رض وغیرہ اہل علم جب کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں کفار سے مراد یہود ہیں اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں تو پھر کفر دون کفر جو کہ ملت سے خارج نہیں کرتا کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ ان کے قول کی حقیقت کو صحیح کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے تمام حالات اور اس قول کے اسباب سے واقفیت حاصل کی جائے۔ یہ بات انہوں نے امویوں کے دور میں کی تھی جن سے بعض موقع پر اللہ کی شریعت کی مخالفت سرزد ہوتی تھی جو حاکم کفر اکبر کا مرتكب نہیں ہوتا اس کی صفت پہلے بیان ہوئی ہے۔ نبی ﷺ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت تبدیل کرنے والا بنو امیہ کا آدمی ہوگا۔ سنت تبدیل کرنے سے مراد خلافت کا نظام ہوگا کہ یہ وراشی بن جائے گا اس کے باوجود کوئی شخص بھی معاویہ رض کے اسلام میں یا اس کی اولاد کے اسلام میں شک نہیں کر سکتا نہ ہی انہیں کوئی کافر کہہ سکتا ہے۔ ابن عباس رض وغیرہ علماء سے ان (بنوامیہ) کے بارے میں پوچھا جاتا تھا مگر انہوں نے کبھی ان پر ﴿اولئک هم الکافرون﴾ کی آیت منطبق نہیں کی بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو تم مراد لیتے ہو بلکہ یہ کفر دون کفر ہے یہ ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے الہذا ابن عباس رض کا قول کفر دون کفر موجودہ طواعیت پر محول کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان میں اسلام کے تمام منافی امور اور کفر و نفاق کی تمام صفات جمع ہو چکی ہیں

ان پر کفر دون کفر کا اطلاق جسمیہ اور مرجحہ کر رہے ہیں شیخ محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "واقعہنا المعاصر" میں لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما بے چارے نے جو کچھ کہا وہ اس وقت کہا تھا جب ان سے امویوں کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ وہ بغیر ما انزل اللہ فیصلے کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس نے امویوں کو مطلقًا کافر قرار دیا ہو وہ لوگوں کی عمومی زندگی میں شریعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے مگر اپنی حکومت سے متعلق بعض امور میں صرف شریعت پر فیصلے نہیں کرتے تھے کبھی تاویل کر کے کبھی خواہش کی بنا پر مگر انہوں نے اللہ کی شریعت کے معارض قوانین نہیں بنائے تھے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے بارے میں کفر دون کفر کہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بات اس شخص کے بارے میں کریں جو سرے سے شریعت اسلامی کو مانتا ہی نہ ہو اور اس کے بدالے میں خود ساختہ قوانین لاتا ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کہتے ہیں اس آیت کو اس مسلمان گناہ گار پر لا گونہ نہیں کرنا چاہیے..... یہ بات مطلقًا کہنا صحیح نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ قیود رکھی چاہیں جن کا ذکر تفصیل سے کفر اصغر اور کفر اکبر کے مرتكب حاکم کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

۱۰ ایسا ایمان جس کے ساتھ مطلقًا عمل نہ ہو اس کا حاصل مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک اپنے دعوائے ایمان میں جھوٹا ہے۔ اہل سنت کی یہی رائے ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان، اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

فَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)

ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کروم سے اللہ محبت کرے گا۔

اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (1/366) لکھتے ہیں: یہ اس شخص کا فیصلہ کرتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے محبت رسول کا محمدی طریقے پر نہیں چلتا تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے جب تک کہ وہ

شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین محمد ﷺ کی اس کے تمام اتوال و اعمال میں اتباع نہ کرے۔

ابو سحاق الفرازی رحمۃ اللہ علیہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں: ایمان قول کے بغیر قول عمل کے بغیر قول، اور ایمان سنت کے مطابق نیت کے بغیر صحیح نہیں۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: 296/7)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع ہے کہ ایمان قول، عمل اور نیت کا نام ہے یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ (الفتاویٰ: 7/209)

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تو حید کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان، دل اور عمل سے ہو اگر ان تینوں میں سے ایک بھی کم ہو تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا اگر تو حید کو جان لیا اور عمل نہیں کیا تو کافر ہے ابليس کی طرح۔ اگر تو حید پر ظنا ہر عمل کر لیا مگر اس کو سمجھ نہیں سکا اور دل سے اس کا اعتقاد نہیں رکھا تو وہ منافق ہے یہ خالص کافر سے زیادہ بدتر ہے اس لیے کہ: ﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ النساء: ٤٥﴾ ”منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

”ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ 7/142) میں لکھتے ہیں۔ اللہ کافر مان ہے: ﴿يَقُولُونَ أَمْنًا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْمَ بَعْدِ ذلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ النور: ٧٤﴾ ”وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول ﷺ پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ جو عمل سے پھر گیا اس سے ایمان کی نفی کی، قرآن و سنت میں اس شخص کی ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ جو شخص دلی طور پر تو حید سے واقف ہو مگر مخالفت و دشمنی کی بنابر ہو تو یہ کبھی مومن نہیں کہلا سکتا جبکہ جہنمیہ کے نزدیک اگر دل میں علم ہو تو وہ کامل مومن ہے۔ اب قیم کا کلام مفتاح السعادة کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سنت کا اس پر اجماع ہے کہ ایمان میں صرف زبان کا اقرار

کافی نہیں ہوتا نہ ہی دل کی معرفت اس کے ساتھ بلکہ اس کے ساتھ دل کا عمل یعنی اللہ رسول کی محبت اور دین کے سامنے جھکا ڈاٹا گاعت کا الترام رسول کی متابعت ضروری ہے۔ یہ قول ان لوگوں کے خلاف ہے جو ایمان صرف دل کی معرفت اور زبان کے اقرار کو کہتے ہیں جیسا کہ دور حاضر کے چہمیہ ہیں۔

۳ یہ بات کہ کافروں نے اللہ کے نازل کردہ کا انکار دل و جسم سے کیا تھا اس لیے کافر ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ دل کے بجائے صرف جسمانی طور پر انکار کرتے تو کافرنہ ہوتے یہ قول باطل ہے شیخ سے قبل کسی نے ایسا نہیں کہا سوائے جنم اور اس کے پیروکاروں کے یا غلوکرنے والے مرجحہ کے پہلے دلائل اور انہم کے اقوال اس قول کے بطلان پر گزر چکے ہیں عقائد و مذاہدوں کے لیے وہی کافی ہیں۔

الباني: اسی وجہ سے علماء مسلمین اس آیت کی تفسیر میں جس سے بہت سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں جو مطلقاً تکفیر کے قائل ہیں اسی میں سے آپ کا قول ہے کہ کفر عملی کبھی کبھی ملت سے خارج کرنیوالا ہوتا ہے۔

ابوبصیر: یہ اس بھائی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ان اہلسنت کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان قول عمل اور نیت کا نام ہے اس لحاظ سے کفر ان کے نزد یک اعتقاد اور عمل کا نام ہے ان کے خلاف صرف جنم اور اس کے تبعین اور مرجحہ ہیں جنہوں نے ایمان صرف تصدیق اور اعتقاد قلبی تک محدود رکھا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ کفر کو تکذیب و انکار قلبی تک محصور رکھیں ان کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 272/18) میں لکھتے ہیں: اللہ اس شخص کے ایمان کی نفی کرتا ہے جس سے اس کے لوازمات کی نفی ہو گئی ہو اتفاقاً لازم سے اتفاقاً ملزم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُهُمْ﴾

اُولیاءَ ☆ المائدة: ٨١) ”اگر یہ لوگ اللہ پر نبی پر اور اس پر نازل ہونے والے دین پر ایمان لاتے تو یہ کافروں کو کبھی دوست نہ بناتے۔“ دوسری جگہ ہے: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْآتُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾☆ المجادلة: ٢٢) ”آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھیں۔“ ظاہر و باطن باہم لازم و ملزم ہیں ظاہر تھی صحیح ہوتا ہے جب باطن صحیح ہو تو ظاہر لازماً صحیح ہوتا ہے (7/221) میں فرماتے ہیں: قرآن یہ وضاحت کرتا ہے کہ دل کا ایمان اس بات کو مستلزم ہے کہ ظاہری عمل اس کے مطابق ہو۔

وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، أَفَيْ قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور: ٤٧-٥١)

اور یہ (منافق) کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر اس کے بعد کچھ لوگ ان میں سے پھر جاتے ہیں یہ مؤمن نہیں ہیں۔ اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان (رسول) فیصلہ کرے تو فوراً ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے لگتا ہے۔ اور اگر انکا حق (کسی پر) ہوتا ہے تو رسول کے پاس گردن جھکا کے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دل میں (امہی تک کفر کی) بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا اس بیت سے ڈرتے ہیں کہ

اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریگا بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ سوا اس کے نہیں کہ مسلمانوں کی گفتگو جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں (رسول) فیصلہ کردے یہ ہوتی ہے کہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونیوالے ہیں۔

آیت میں ایمان کی نفی کردی اس سے جو رسول کی اطاعت سے پھر گیا۔ اور یہ بتایا کہ مومنوں کو جب اللہ اور رسول کے فیصلے کی طرف بلا یا جاتا ہے تو وہ سنتے ہیں اور مانتے ہیں یہ بیان کیا کہ یہ ایمان کے لوازمات ہیں۔

منہاج السنۃ (251/5-252) میں لکھتے ہیں : رسول کی تکنیب کفر ہے اس سے نفرت عداوت اور گالی دینا اس کے صدق کا علم اگرچہ باطن میں ہو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین و تعلیم اور ائمہ علم کے نزدیک کفر ہے۔ سوائے جہنم اور اس کی موافقت کرنے والوں کے جیسے صالحی، اشعری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں کفر ہے مگر باطن میں کفر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ جہل نہ ہو۔

اسکی روح اپنے فتاویٰ (586/2) میں لکھتے ہیں : تکفیر شرعی حکم ہے اس کا سبب ربویت یا وحدانیت یا رسالت کا انکار ہے یا قول فعل جو شارع کا حکم ہے کہ وہ کفر ہے اگرچہ وہ انکار نہ ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول (الدرر الراء: 1/242) گزر چکا ہے۔ قرآن و سنت میں اس شخص کے ایمان کی نفی کی گئی ہے جو عمل نہیں کرتا جیسا کہ منافقین کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ (الفتاویٰ: 7/556) میں لکھتے ہیں : ان کا عمل کو خارج کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ انہوں نے دل کا نکال دیا ہے یہ قطعاً باطل ہے جس نے رسول کی تقدیق کی اور جسمانی و دلی طور پر اس سے نفرت کی دشمنی کی وہ قطعی کافر ہے اگر دل کے اعمال کو انہوں نے ایمان میں داخل کیا ہے تو بھی غلطی کی ہے اس لیے کہ بد نی حرکت کے بغیر ایمان صرف دل کے ساتھ ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے : کفر عمل کی دو ترمیں ہیں ایک وہ جو ایمان کی ضد ہے دوسرا وہ جو

ایمان کی ضد نہیں ہے۔ پہلی کی مثال بت کو سجدہ کرنا، قرآن کی توہین کرنا، نبی کو قتل کرنا یا اس کی شان میں گستاخی کرنا، یہ ایمان کی ضد و منافی ہے۔

محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : اسلام کے منافی بڑے امور دس ہیں ان میں سے ایک سحر (جادو) ہے ان میں سے ایک ہے جادو کرنا یا کروانا جس نے کیا یا اس پر راضی ہوا وہ کافر ہے دلیل میں اللہ کا یقین ہے : ﴿وَمَا يُعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ لَا إِنَّمَا تَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ﴾ البقرہ ۱۰۲ ”وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم آزمائش ہیں تم کفر مت کرو۔“ شیخ رضی اللہ عنہ اپنے رسالہ الشعیہ میں اتفاق سے نقل کرتے ہیں : جادو کا سیکھنا سکھانا اور کرنا حرام ہے اس کے سیکھنے اور کرنے پر کافر ہو جاتا ہے چاہے اس کی حرمت کا عقیدہ رکھے یا جواز کا۔ یہ کلام قابل غور ہے۔ ان کے علاوہ بھی اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کفر قول، عمل اور اعتقاد سے ہوتا ہے۔

البانی: ناممکن ہے کہ کفر عملی ملت سے خارج کر دینے والا ہو سائے اس کے کافر کے دل میں عملاً منعقد ہو۔

ابوبصیر: کون سا عملی کفر ہے جو دل کے انعقاد کے بغیر کفر نہیں ہوتا کہ وہ صرف دل میں ہونے کی وجہ سے کفر ہے اور ظاہر کی وجہ سے کفر نہیں ہے یہ قول اہل سنت کی ان آراء کے برخلاف ہے جن کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ یہ قول جہنم و مر جہد کی رائے کے موافق ہے۔ ان کے بارے میں ابن قیم رضی اللہ عنہ کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ: یہ لوگ انکار و عناد اور اعراض کو فر کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کفر پر دلیل ہے فی ذاتہ کفر نہیں ان کے نزد یہ کفر صرف جہل ہے۔ جس نے قرآن و سنت میں اور ان بیانات کا اپنی اقوام کے ساتھ تعلق یا دعوت میں غور کیا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ اہل کلام کی یہ بات غلط ہے۔

ابن حزم رضی اللہ عنہ الحکیمی میں کہتے ہیں : اللہ کو گالی جو ہے اس کے کفر ہونے میں زمین پر کوئی شخص

اختلاف کرنے والا نہیں ہے سوائے جہمیہ کے اور اشاعرہ کے اور یہ دونوں گروہ قابل اعتبار نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو گالی دینا اور کفر کا اظہار کرنا کفر نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ کفر کے اعتقاد پر صرف دلیل ہے۔ اللہ کو گالی دینے سے یہ تینی کافرنہیں ہوتا۔ ان کا یہ اصول اجماع اہل اسلام سے خارج ہے اور بر اصول ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے اگرچہ بظاہر کفر کرے تھیہ کے طور پر بت کی عبادت کرے یا حکایتاً کرے۔ ان دونوں اقوال یعنی شیخ کے قول اور جہمیہ اولین کے قول پر غور کریں موازنہ کر لیں ان کے اقوال میں کتنی مشابہت ہے اسی طرح ان کے دلوں میں بھی ہے۔ ان کے معاصرین سابقہ جہمیہ اور غالی مرجدہ کی اتباع کرتے ہیں۔

البانی: کفر عملی اور کفر اعتقادی میں فرق کرنا ضروری ہے ہمارے پاس شریعت میں ایسی واضح دلیل نہیں ہے کہ جو صراحت سے دلالت کرے کہ جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے مگر کسی حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔

ابو بصیر: جی ہاں! آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی ان جہمیہ کی طرح جو ہم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جبکہ اہل سنت کے پاس دلائل بہت ہیں کچھ عمل ایسے بھی ہیں جو بذاتہ کفر ہیں اگرچہ اعتقاد کے بغیر کیے جائیں پہلے اقوال و دلائل گزر چکے ہیں۔ شیخ صاحب یہ بات مجھے بڑی لگتی ہے جب آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ ایسی باتیں اور تقریریں کرتے ہیں جو اہل سنت کے نزد یک کفر کے زمرے میں آتی ہیں۔ امام شافعی رض نے کہا تھا: اگر میں کوئی بات کہوں اور لوگ کہیں تم نے غلطی کی تو یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی میری بات کو کہے کہ تم نے کفر کیا ہے۔ (منہاج السنۃ: 251/5)

آپ نے جو کہا ہے اس بارے میں اہل سنت کے اقوال پیش خدمت ہیں:

امام احمد بن حنبل، حمیدی رض سے کہتے ہیں: مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے

نماز، زکاۃ، روزہ، حج کا اقرار کیا مگر ان میں سے کوئی عمل بھی نہ کیا اور مر گیا۔ قبلہ کی طرف پیٹھے کر کے نماز پڑھتا تھا مرتے دم تک وہ مومن ہے جب تک انکار نہ کرے۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جب ان چیزوں کا اقرار کرتا تھا تو ان کے ترک کرنے کے باوجود بھی وہ مومن ہی تھا۔ میں کہتا ہوں: یہ صریح کفر ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ اور علماء اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ﴿وَمَا أُمِرْتُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ﴾^۵ ”انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کر کے ۔ حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ ابن حنبل رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے۔ جس نے یہ بات کی اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہ رسول کے لائے ہوئے دین سے مرتد ہو گیا۔ (الفتاویٰ ابن تیمیہ 209/7)

ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے (فتاویٰ 188/7) میں لکھا ہے: ان (جهیہ) کے نزدیک کفر صرف ایک چیز ہے یعنی جہل اور ایمان ایک چیز ہے یعنی علم یادل کی مکنذیب تصدیق، اس کے باوجود کہ سب سے بدترین قول ہے جو ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے مگر اس کو بہت سے اہل کلام مر جھ نے اپنایا ہے۔ وکیع بن جراح، احمد بن حنبل اور ابو عبید وغیرہ رضی اللہ عنہم سلف نے اس قول کے قائلین کو کافر کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی نص کی رو سے الیس کافر ہے۔ اس کا کفر اس کے تکبر آدم علیہ السلام کو بوجہ نہ کرے کی وجہ سے تھا اس لیے نہیں کہ اس نے خبر کو جھٹلا یا تھا۔ کہتے ہیں: (533/7) اس سے چہم اور اس کے تبعین کی غلطی ظاہر ہوتی ہے کہ ایمان بغیر ظاہری ایمان کے آخرت میں فائدہ مند ہوگا۔ جبکہ یہ ناممکن ہے اس لیے کہ مکمل ایمان دل میں اسی وقت آسکتا ہے جب حسب قدر ظاہر بھی ہو۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک آدمی کو کسی سے محبت ہوا اس سے مل بھی سکتا ہو اور پھر اس کے ظاہری حرکت اس کے لیے نہ کرے۔ فتاویٰ میں مضمون ہواں بات پر کہ اللہ نے اس پر نماز، روزہ، حج، زکاۃ فرض ہو کر ایمان اس کے دل میں مضبوط ہواں بات پر کہ اللہ نے اس پر نماز، روزہ، حج، زکاۃ فرض کر دیئے ہیں مگر ساری زندگی وہ ایک سجدہ اللہ کو نہیں کرتا رمضان کے روزے نہیں رکھتا زکاۃ

نہیں دیتا، حج نہیں کرتا یہ ناممکن ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب دل میں نفاق اور زندگیت ہو۔ ایمان صحیح کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے سجدہ سے رک جانے والوں کو کافر کہا ہے۔

يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَائِشَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرَهُقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ

(القلم: ٤٢-٤٣)

جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلا یا جائے گا تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہوں گی ڈلت نے ان کو ڈھانپا ہو گا جبکہ انہیں سجدے کے لیے بلا یا جاتا تھا اور یہ صحیح سالم ہوتے تھے۔

(نواقض الایمان القولیہ والعملیہ ڈاکٹر عبد العزیز محمد عبداللطیف ص: 26)

شیخ صاحب خالی الذہن ہو کر سوچیں کہ آپ نے کس کی موافقت کی ہے اور کس کی مخالفت کی ہے؟ پھر ائمہ سنت کا حکم دیکھیں جوانہوں نے آپ کے جیسے قول کے بارے میں دیا ہے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی حق کی طرف رہنمائی کرے اور آپ صحیح راستے کی طرف آجائیں یہی ہماری خواہش اور تمباکہ ہے اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب میں آپ کو اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ حق کی راہ پر چلتے رہیں اس سے رک نہ جائیں اگرچہ میں اپنی ذاتی حیثیت اور لوگوں میں اپنے مقام سے واقف ہوں کہ آپ کے مقابلے پر میری کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ میں تو آپ کے مقابلے میں ایک گمنام شخص ہوں میں آپ پر اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اپنے اقوال اور تقاریر سے سنت کے بڑے بڑے علماء کی مخالفت کی ہے جو ہدایت کے امام تھے ہمارے اسلاف تھے اگر آپ اپنا موازنہ مجھ سے کریں تو میری کوئی حیثیت نہیں مگر آپ ان اسلاف سے اپنا موازنہ

کریں گے تو آپ خود کو ان کے مقابلے پر چھوٹا محسوس کریں گے اس طرح آپ صحیح بات کی طرف پلٹ آئیں گے۔

الباني: مثال کے طور پر سودھانے والے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کافر مرتد ہے؟ تم کہو گے نہیں۔

ابو بصیر: معاصی اور گناہوں کو جو کہ کفر دون کفر ہیں کو دلیل کے طور پر کفر عملی اکبر کے لیے جو کہ ملت سے خارج کرنے والا ہواں میں اختلاف ہے۔ دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان گناہوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے جو بذاتہ کافر بنادینے والے ہیں مثلاً مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا۔ دین سے اعراض کرنا اور ظاہری عمل کی کلیت انگی کرنا، یا طاغوت کی طرف تحاکم کا ارادہ کرنا، یا اللہ کی شریعت کے الٹ و مخالف قوانین بنانا، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنا، دین کا حکم کھلا مذاق اڑانا، غیر اللہ کی عبادت کرنا جیسے رکوع، تہود، دعا، نذر وغیرہ ظاہری اعمال جن کا مرتكب کافر ہوتا ہے ان کی اعمال کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ بحث کرتے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو پھیر کر کفر دون کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ کو ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی جس کی بنا پر آپ ان اعمال کے مرتكب کو کفر دون کفر کا مرتكب قرار دے سکیں تو آپ نے ان گناہوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جو بذاتہ کفر نہیں ہیں جیسے۔ قتل، سود، زنا وغیرہ جو گناہ کبیرہ تو ہیں مگر اس درجہ کو نہیں پہنچتے کہ ان کا مرتكب ملت سے خارج ہو جائے اب آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ کفر عملی ہے مگر اس کی وجہ سے بندہ ملت سے خارج نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہ یہ کفر عملی ہے بلکہ اس لیے کہ شارع نے مرتكب کبائر سے کفر ہٹادیا ہے اور یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ آپ کے قول و مذهب (ایمان کے بارے میں) کا بطلان ہے اور آپ عاجز آگئے ہیں اس بات کو ثابت کرنے سے کہ جن گناہوں کا ذکر ابھی ہوا ہے ان کے مرتكب سے کفر کا حکم ہٹا سکیں لہذا آپ مجبور ہو گئے اس قسم کی تبلیس و تحلیل اور تدليس کی طرف مگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ سود خور کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں سودھانے والوں میں فرق کرنا ہو گا ایک وہ آدمی ہے جو مال زیادہ

کرنے کی محبت اور اپنی کمزوری کی بنا پر سود لیتا ہے جبکہ وہ اس بات کا معرفت ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے اور اس کی سزا ملے گی عذاب ملے گا۔ دوسرا سودخوروہ ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو امت کے لیے لازم سمجھتا ہے ان کا دفاع کرتا ہے۔ اور سود کو زمانے کی ضرورت قرار دیتا ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر کے طاغوتی حکمران ہیں۔ ان دونوں قسموں میں سے پہلے قسم کے سودخور کے کفر میں توقف کریں گے جبکہ دوسری قسم کا سودخور کافر مرتد ہے اس کے کفر میں صرف وہ شخص شک کر سکتا ہے جو ایمان کے معاملے میں جہنم کے عقیدے پر ہو۔

سامی: بجی ہاں۔

البانی: میں تمہاری طرح بات نہیں کر رہا بلکہ میں کہتا ہوں کہ یقیناً بلاشک و شبہ سود کو دل سے حلال سمجھنے والا جیسا کہ عمل سے حلال سمجھتا ہے کافر مرتد ہے۔ جتنی ہے۔

ابوالصیر: یقیناً بلاشک شبہ والا جواب سامی کو بھی معلوم ہے اور ہر مسلمان کو معلوم ہے مگر سوال اس کا نہیں کہ سود کو حلال سمجھنے والے کا کیا حکم ہے بلکہ سوال یہ تھا کہ سود کھانے والے کا کیا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے طرح کے جوابات سے تو سامی کو منع کیا گیا تھا اس کو کہا گیا تھا کہ ہاں یا نہیں میں جواب دیا کرو اسکا دل کا مقام ہے۔ جو شخص گناہوں اور نافرمانیوں کو حلال سمجھتا ہے اپنے ظاہر سے، زبان سے، انہیں اچھا سمجھتا ہے انہیں رواج دیتا ہے۔ ان کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ شخص دل سے بھی انہیں حلال سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کمزوری کی بنا پر کسی گناہ کا ارتکاب کر لے اور اس کے بعد نہ امت و شرمندگی کا اظہار کرے اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے گناہ کو حلال سمجھا ہے یعنی ظاہر میں، یہ استھان کی اصطلاح ہمارے اسلاف میں موجود نہیں تھی یہ دور حاضر کے چہمیہ کی ایجاد ہے تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ ظاہری طور پر گناہوں اور نافرمانیوں کی حد جہاں تک بھی پہنچ جائے اسے کتنا ہی اچھا سمجھے کتنا ہی مطمئن ہو برائی پر یا ان کی طرف دعوت دیتا ہو اسے کافر نہ کہا جائے جب تک کہ اس گناہ کو دلی طور پر حلال نہ

سمجھے۔ اس لحاظ سے پھر وہ حکمران جو حکم بغیر ما نزل اللہ کو حلال سمجھتے ہیں اپنے تمام اعضاء سے اس کا انہما بھی کرتے ہیں۔ ان قوانین کو رواج دیتے ہیں انہیں اچھا سمجھتے ہیں انہیں امت پر لاگو کرتے ہوں ان کی وجہ سے وہ اللہ کے قوانین سے ملکیتاً اعراض کرتے ہیں مگر یہ سب کچھ ان کے نزدیک استھان ظاہر کہلاتا ہے جس کی بنا پر کسی کو کافرنیمیں کہا جا سکتا یا استھان قلمی پر جو کہ تفیر کے لیے بنیاد ہے پر یہ دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جب اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ یہ استھان ظاہر ہے یہ باطن ہے یہ احتمال ہے۔ اس کی وجوہات ہیں تو یہ تسلیم نہیں کی جاتیں خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جب انکا استعمال ہو جن پر جہنمیہ یا ارجاء کا الزام ہے ایمان کے مسئلے میں۔

البانی: جہاں تک ان بالتوں کا تعلق ہے کہ (لوگ کہتے ہیں) اللہ نہیں بخش دے گا۔ اللہ توفیق دے گا وغیرہ تو یہ صرف الفاظ ہیں جن سے نہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو یقین ہے کہ میں اللہ و رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں مگر خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے۔ جناب ان دو افراد میں اب کوئی فرق نہیں جو سود کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا بغیر ما نزل اللہ حکم کر کے نافرمانی کا مرتكب ہو رہا ہے۔

ابوبصیر: شیخ نے جن الفاظ کو بطور دلیل لیا ہے یہ الفاظ گناہ کی اصلاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی تکفیر میں مانع ہے۔ اس لیے کہ یہ الفاظ تکفیر کے لیے شرعی مانع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ (النحل: ۱۰۷)

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اللہ نے اس آیت میں صراحت کی ہے کہ یہ عذاب اعتقاد و جہل کی بنا پر نہیں تھا نہ ہی دین سے نفرت اور کفر سے محبت کی وجہ سے تھا بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ دنیاوی لذات کو دین پر ترجیح دی۔ (مجموعہ التوحید: 89)

(شیخ نے سود اور تحکیم کو ایک قرار دے کر) کس طرح کو معاصی پر قیاس کیا ہے اور معصیت کو کفر پر اور کس طرح ربا کا ظاہری استھان تحکیم بغیر ما انزل اللہ کے ظاہر عملی استھان پر محمول کیا ہے؟ شیخ کے خیال میں سود کھانے کی معصیت الحکم بغیر ما انزل اللہ کی معصیت کی طرح ہے جس نے سود کو اپنے عمل سے حلال جانا وہ کافرنہیں کہلاتا اسی طرح جس نے حکم بغیر ما انزل اللہ کو اپنے عمل سے حلال جانا وہ کافرنہیں ہوگا۔ دیکھو کس طرح کی تلبیس، تدليس اور تحلیل ہے۔ قیاس باطل اور عبارات کو غیر محل پر محمول کرنا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ”استھان الربا العملی“ کے لفظ کو کس طرح بد دینیتی کے ساتھ استعمال کیا ہے اس سے طواغیت الکفر و طواغیت الحکم کی پارسائی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی الحکم بغیر ما انزل اللہ کے مرتكب ہوئے تو یہ بھی استھان الربا عملی کی طرح استھان ”الظاهر والعملی للحکم“ بغیر ما انزل اللہ ہے یہ اس لیے کہ کفر کا حکم ان پر نہیں لگ سکے۔ قارئین کرام ہم آپ کو اسی لیے ان لوگوں سے اور ان کی اصطلاحات جو ایمان و کفر سے متعلق ہیں ان سے چونکا نہیں کامشوہ دیتے ہیں۔ سود کھانا بھی معصیت ہے اور بغیر ما انزل اللہ حکم بھی معصیت ہے مگر ان دونوں میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ حکم بغیر ما انزل اللہ کفر ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اگر اس کو کفر سے نیچے کے درجہ میں لانا ہوگا تو وہ استثناء کے طور پر اور پچھے قیود و ضوابط کے تحت ہوگا جبکہ سود کھانا معصیت ہے مگر اس سے آدمی کافرنہیں ہو جاتا۔ اگر اس کو کفر پر محمول کرنا ہوگا تو کسی عارضی وجہ کی بنا پر ہوگا جیسا کہ استھان، دوسرا بات یہ ہے کہ سود خور اور زانی یا چور (کردار کی) کمزوری اور خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے ارتکاب کرتے ہیں اور یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اس بات کا معرف ہوتا ہے کہ میں سزا

وعذاب کا مستحق ہوں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے بغیر ما انزل اللہ حکم و فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کی طرح جو فیصلے کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان جھگڑے نمٹاتے ہیں تحقیق و تفییش کرتے ہیں اور حکم بغیر ما انزل اللہ پر اصرار کرتے ہیں اور یہ اصرار عناد اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر بنی ہوتا ہے اپنے حکم کو قانون قرار دیتا ہے ایسا قانون جو تمام امت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ لہذا سود خور اور یہ شخص برابر نہیں ہو سکتے نہ حاکم نہ حکم کے لحاظ سے اور نہ ہی سزا کے لحاظ سے۔

البانی: اب میں ایک مثال دے کر بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک شرعی قاضی ہو فیصلہ کرتا ہو شرع پر کی بات نہیں کر رہا بلکہ ہم ہمیشہ کتاب و سنت پر فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت پر فیصلے کرتا ہے لیکن ایک خاص فیصلہ جو اس کے پاس دو افراد لاتے ہیں اور وہ مظلوم کا حق ظالم کو دینے کا فیصلہ کر دیتا ہے کیا یہ فیصلہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہو گا؟۔

ابو بصیر: اس سوال کا جواب ہم اس طرح دیں گے۔

① موجودہ دور کے طوائف الحکم اس مذکورہ حاکم یا قاضی کی طرح نہیں ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے لہذا اس کو بطور مثال کے پیش کرنا اور دونوں کو یکساں قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

② یہ قاضی جس نے مظلوم کا حق ظالم کو دیدیا کیا یہ فیصلہ اس نے اپنے اجتہاد سے کیا اور اس میں غلطی یا کسی ایسی تاویل کی بنا پر جس کی گنجائش موجود تھی؟ یا کسی کمزوری یا خواہش کی بنا پر کیا ہے؟ یا عناد و اعراض کی وجہ سے یا تکبر و کراہیت کی وجہ سے۔ یا انکار و استہانت کی بنا پر؟ سوال میں اس قاضی کے فیصلے کی وجہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ان تمام وجوہات میں سے ہر وجہ دوسرے سے مختلف ہے اور اس کا حکم بھی مختلف ہے اگر ایک شخص بغیر ما انزل اللہ فیصلے کرتا ہے مگر کسی اجتہادی غلطی کی بنا پر تو اس کو فیصلے کا اجر ملے گا جیسا کہ متفق علیہ حدیث ہے: جب فیصلہ

کرنے والا اجتہاد کرے اور وہ صحیح ہو جائے تو اس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملے گا۔ ایسے ہی ایک حاکم اجر پاتا ہے۔ دوسرا گناہ گار ہوتا ہے اور کوئی کافر مرتد ہوتا ہے ایسے موقع پر فقہاء کا قول کفر دون کفر مجموع ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے فیصلے کی حیثیت اور سب کی بنابر ہوتا ہے۔

سامی: میں جواب کی صورت میں جواب دینے سے پہلے استفسار کی صورت میں جواب دینا چاہتا ہوں۔

البانی: اچھی بات ہے۔ جو آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اس کے ساتھ چلیں آئیں یہی مطلب شام میں لیا جاتا ہے۔

ابو بصیر: یہ مثال جو شام میں دی جاتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ حق پر نہیں چل رہا آپ اس کے ساتھ باطل پر چلیں غلط ہے۔ شیخ نے ایسی مثال کیوں دی جس کا ظاہر و باطن دونوں باطل و غلط ہیں؟

سامی: کیا اس قاضی نے اپنے اس فیصلے کو شریعت و قانون قرار دیا؟ ہم بھی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے چوری اور اس قاضی کے پاس آیا جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔

ابو بصیر: کیسٹ میں اسی طرح ہے فیصلہ نہیں کرتا حالانکہ صحیح اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ما انزل اللہ پر فیصلہ کرتا ہے تب بات صحیح ہوگی۔

(سامی کی بات جاری ہے) مگر اس کیس میں رشتہ داری یا اپنی خواہش سے مغلوب ہو کروہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹوں اور یہ بھی میرے لیے لاائق ہے کہ میں اس پر کوئی اور حد جاری کر دوں باوجود یہ کہ اس میں چوری کی تمام شرائط مکمل طور پر موجود ہیں اور حالات اگر کچھ اور ہوتے تو وہ اسی کیس میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسے قاضی کو ہم کافر نہیں کہتے۔ اس پر

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کفر دون کفر بولا جاسکتا ہے اور اگر اس قاضی نے چور کے لیے جیل کی سزا تو تجویز کی تو یہ کفر ہے کہ اس نے اپنے فیصلے کو قانون بنالیا اور اس طرح (قانون ساز بن کر) خود کو اللہ کا شریک ٹھہرالیا۔

ابو بصیر: کیست میں کچھ عربی الفاظ اور باتیں اور عبارات و کلمات ایسے مستعمل ہیں جو عام زبانوں میں بولے جاتے ہیں ان میں نحو کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہم نے ان کو بغیر کسی تبدیلی کے پیش کر دیا ہے۔

البانی: تم کس طرح میرا مواخذہ کرتے ہو؟ تم نے کچھ عبارات پڑھ رکھی ہیں ان کی تائید کرتے ہو اور میری بات کا ٹانچا ہتھے ہو مگر اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قاضی جس نے مظلوم کا حق ظالم کو دیدیا ہے کیا یہ اللہ کی اس شریعت کے مطابق فیصلہ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے؟ اگر تم کہو گے کہ نہیں تو ہم موضوع کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر تمہیں مناسب لگے کچھ کہنا تو کہہ دینا۔

ابو بصیر: شیخ کے ساتھ جو بھی بات کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاں یا نہیں میں جواب دے۔

البانی: یہ مسلمان اور قاضی جو عام طور پر بما انزل اللہ فیصلے کرتا ہے۔ ایک فیصلہ بغیر ما انزل اللہ کر لیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس قاضی کو شریعت کے خلاف ایک فیصلہ ہونے کی بنا پر کافر کہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے والا کوئی ہو گا؟

ابو بصیر: یہ بات مطلقاً کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس سبب کو بیان کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کیا ہے اور وہ کیس و مقدمہ کوں ساتھا جس میں بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کیا ہے کیا اس کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں؟ اس طرح کی اہم تفصیلات سامنے آنے کے بعد یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کو کافر کہیں یا نہیں؟۔

شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب رض فرماتے ہیں: حکم بغیر ما نزل اللہ سے متعلق آیت کے معنی کی تحقیق یہ ہے کہ اگر حکم بغیر ما نزل اللہ اصول میں ہے یعنی توحید اور شرک سے متعلق یا فروع میں ہے اور زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق نہیں تو یہ کفر حقیقی ہے اس کے ساتھ ایمان نہیں جیسا کہ عکرمه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی شخص (بغیر ما نزل اللہ فیصلہ کرنے والا) دل سے اعتراض اور زبان سے اقرار کرتا ہو مگر ظاہری صرف فروع میں اس کے الٹ عمل کرے تو یہ ایسا کفر نہیں ہے جو ملت سے خارج کرتا ہے۔ طاؤس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں: حکم بغیر ما نزل اللہ فروع میں نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ اقرار اور محبت ہو تو یہ ملت سے خارج نہیں کرتا۔

(کتاب توحید الاخلاق: 141)

غور کرنا چاہیے کہ حکم بغیر ما نزل اللہ اصول میں اور فروع میں فرق ہے۔ اصول سے مراد توحید اور فروع اس کے علاوہ ہیں۔ توحید میں یہ حکم بغیر ما نزل اللہ کفر ہے جبکہ دوسرے میں شرط ہے کہ اقرار بالسان اور انفیاد قلب، محبت اور اللہ کے حکم کو پسند کرتا ہو اور پھر مخالفت کرے تو یہ پہلے والے کفر کی طرف کفر نہیں ہے۔

البانی: میں کہنا چاہتا ہوں کہ (یہی قاضی) کسی اور مقدمہ میں کسی اور سبب سے کرتا ہے اس طرح چلتے جائیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر اعقادی ہے کفر ارتداد ہے یہ بات ہم کب تک دھرائیں گے پانچ مرتبہ۔ وس مرتبہ سو مرتبہ۔۔۔۔۔؟

ابو بصیر: کون سا سبب؟ اس کی تفصیلات ہوں تو اس کی حیثیت کے مطابق اس پر شرعی حکم لگائیں گے کہ شریعت کی مخالفت میں فیصلہ کس وجہ سے کن حالات میں کیا ہے؟ وہ کون سا سبب ہے جو شیخ نے بار بار بیان کیا ہے؟ شیخ نے تو حکم بغیر ما نزل اللہ کے لیے کسی سبب کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں سو مرتبہ کہوں؟ مطلب یہ ہے کہ معاملہ پوچھ کھلا ہوا ہے اگر مخالفت ہزار مرتبہ ہو یا اس کا حکم ہے جو ایک مرتبہ مخالفت میں واقع ہو گیا ہے۔ یہ تقریر باطل ہے ہم اس پر

درج ذیل تبصرہ کرتے ہیں۔

① اس کلام میں تناقض ہے اس لیے کہ جو قاضی عام طور پر اکثر اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے وہ سوا اور ہزار مرتبہ بغیر ما انزل اللہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ مخالف شریعت فیصلے یہ کیسے فرض کر لیا جائے۔

② جو شخص ایک مرتبہ معصیت کرتا ہے اس میں اور سو مرتبہ معصیت کرنے والے میں فرق ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کی طہارت اور شریعت کی پابندی قوت ایمان کے لحاظ سے بھی فرق ہے جب کسی آدمی کی معصیات زیادہ ہو جاتی ہیں (خصوصاً اگر وہ کفری نوعیت کی ہوں) اور کبائر و صغائر ہر قسم کی ہوں اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے معصیات اس کے دل پر چڑھ جائیں تو اس پر زنگ لگادیتے ہیں پھر وہ معروف و منکر کی پہچان بھول جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ دلوں پر فتنے ایسے آتے ہیں جیسے چٹائی بکھر کر تنکا تنکا ہو جاتی ہے۔ جو دل ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس پر ایک نکتہ بن جاتا ہے اور جو دل اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اس پر سفید نقطہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں ایک سفید جس کوئی فتنہ ضرر نہیں پہنچا گا جب تک زمین آسمان قائم ہیں اور دوسرا کالا سیاہ معروف منکر کی پہچان نہیں کر سکے گا صرف وہ جو اس کی خواہش اسے دیدے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے اگر وہ گناہ ترک کر کے استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر (ترک کرنے کے بعد) دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے: ﴿كَلَّا بَلْ سَكَّةٌ رَّأَنَ عَلَىٰ فُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾المطففين: ۱۴﴾ ”ان کے دلوں پر زنگ لگادیا ہے ان اعمال نے جو یہ کر رہے ہیں۔“ اگر اس کے گناہ کفر کے درجے کو پہنچ جائیں تو ایمان

چلا جاتا ہے البتہ ایک دروازہ کھلارہتا ہے کہ یہ اس زنگ کو ختم کرے اور خالص کفر سے غلطی کی وجہ سے کیے جانے والے کفر کے مرحلے پر آجائے۔ یہ مرحلہ خالص کفر کے درجے سے بہتر ہے۔ اب اگر یہ کفر یہ عمل بار بار کیا جائے سینکڑوں مرتبہ کیا جائے تو اس شخص میں اور اس میں فرق ہو گا جو یہ کفر یہ کام ایک مرتبہ کر چکا ہو۔ اگر دائرہ اسلام سے خارج کی صفت دونوں میں پائی جاتی ہے مگر تو بہ، جزا و سراء کے لحاظ سے ان میں فرق ہو گا۔

(۳) معاصر اور چھوٹ اور انہیں معمولی سمجھنا بعض دفعہ بہت بڑی مصیبت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں گناہ صغیرہ کو اہمیت نہ دینا اور کثیر تعداد میں ان کا ارتکاب کرنا اس مرتبہ کو گناہ کبیرہ میں بنتا کر سکتا ہے اور گناہوں کو اہمیت نہ دینے سے کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے جیسا کہ (ابن ماجہ: 2720) میں ہے کہ: ہمیشہ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ عید اس آدمی کے لیے نہیں جو ایک یا دو مرتبہ شراب پئے۔ اس لیے کہ کسی گناہ پر مداومت عام طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس گناہ کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور وہ اس کے ایسے تابع ہوتا ہے کہ کوئی اور اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر یہ شخص اس چیز کی بنیاد پر ہی دوستی و دشمنی کرتا ہے۔ اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ گناہ یا منشیات اس کی زندگی کا لازمہ بن جاتی ہیں۔ جب کسی آدمی کی مداومت اس حد تک پہنچ جائے تو پھر یہ حدیث اس پر محمول ہو گی اور اسے کافر خارج عن الملة قرار دے گی۔ اسی طرح زانی جب ایک مرتبہ زنا کرتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے گناہ کا شدید احساس ہوتا ہے اگر وہ دوبارہ سہ بارہ زنا کرے تو یہ احساس گناہ کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ احساس گناہ کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ احساس رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر شرمندہ ہونے کے بجائے یہ بار بار زنا کرنا اس کے سرو کا ذریعہ بن جاتا ہے اور سے اچھا سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کو گناہ سمجھنے کے بجائے شخصی آزادی اور ایسا حق سمجھنے لگتا ہے جس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اس طرح وہ صریح کفر میں بنتا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح

وہ شخص جو بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کرتا ہے ایک مرتبہ یاد و مرتبہ اور اللہ کے حکم کی بے تو قیری بھی کرتا ہو وغیر اللہ کے حکم کو اچھا سمجھتا ہوا س کی مخالفت کی جراءت کرتا ہو واللہ کے حکم کو مانے و تسلیم کرنے میں کمزور واقع ہوا ہو۔ تو یہ لوگ کسی بھی لحاظ سے برا نہیں اللہ کے حکم کی مخالفت زیادہ کرنے والا کفر کے زیادہ قریب ہے بنس بت دوسرا کے اگرچہ وہ اس میں مبتلا نہ بھی ہو۔

③ جو شخص ظاہر میں ما انزل اللہ پر فیصلہ نہیں کرتا اکثر اس پر غیر اللہ کا حکم غالب رہتا ہے تو وہ باطن میں اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوتا اس کے اندر اللہ کے حکم کی محبت نہیں ہوتی۔ ظاہر کا بگاڑ باطن کی خرابی کی دلیل ہے اگر باطن صحیح ہوتا تو ظاہر بھی صحیح ہوتا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ یاد رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ اگر ظاہر صحیح نہیں بھی تو باطن اللہ کے حکم پر ایمان رکھنے والا مطیع فرمابندرار ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 14/120) میں لکھتے ہیں: جو یہ کہتا ہے کہ وہ رسول ﷺ کی تصدیق کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے دل سے ان کی تعظیم کرتا ہے مگر زبان سے ایک مرتبہ بھی اسلام کا نام نہیں لیتا ہی بغیر خوف کے اسلام کے واجبات پر عمل کرتا ہے یہ شخص باطن میں مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر ہے جہنم اور اس کے ہم خیال کہتے ہیں کہ ایسا شخص باطن میں مومن ہے صرف دل کی معرفت و تصدیق ایسا ایمان ہے جو قیامت میں ثواب کا ذریعہ بنے گا اگرچہ ظاہری قول و عمل نہ بھی ہو مگر یہ شرعاً و عقلاءً باطل ہے۔ وکیج، احمد و غیرہا سلف نے اسے کافر کہا ہے۔ اب وہ شخص جو حکم بغیر ما انزل اللہ ہزار بار کرتا ہے اور اپنے ظاہر میں حکم بما انزل اللہ کی اتباع نہیں کرتا اپنی عمومی زندگی جبکہ دوسرا آدمی ایک دو مسلوں میں ایسا کرتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے تاویل و تحسین ظن کا دائرہ اس کے لیے وسعت رکھتا ہے۔

البانی: میں جب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا حکم اسے کفار مدداد میں لے جاتا ہے یہ صرف کفر یہ

عمل نہیں ہے تو اس وقت تب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ظاہر ہو اس کا یہ حکم اس قابل نہیں کہ کہا جائے کہ یہ کفر ارتاد ہے باوجود یہ کہ اللہ کے نازل کردہ میں سے ہے۔

ابو بصیر: غور کریں کہ کس طرح شیخ نے کفر کو صرف دل تک محدود رکھا اور کفر عملی ظاہر جتنا بھی صریح ہوا سے وہ ملت سے خارج کرنے والا کفر نہیں سمجھتے یہی جسم اور اس کے مرجع تبعین کا قول ہے جنہوں نے کفر کو دل اور اعتقاد تک محدود و منحصر رکھا ہے یہ قول ایک لحاظ سے شرعی قواعد کا رد ہے اس لیے کہ شرعی نصوص میں کفر و ایمان میں ظاہری اعمال کو معتبر مانا گیا ہے اور ظاہر و باطن کے تعلق کو اعتبار حاصل ہے۔ ہم شیخ کے اس کلام پر درج ذیل رائے دے سکتے ہیں۔

① موجودہ دور کے طاغوتی حکمران جن کا شیخ بہت زیاد دفاع کر رہے ہیں ان سے یہ قول سرزد ہو چکا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید کفر کا اظہار ہو چکا ہے مثلاً اللہ کی شریعت کو رجیعت والی شریعت کہنا۔ انسانوں کو پیچھے کی طرف لیجانے والی شریعت کہنا۔ زمانے کی ضروریات پوری نہ کر سکنے والی قرار کہنا اور نہ ہب کو قوموں کے لیے نشر قرار دینا اور یہ کہنا کہ ملکی سیاست میں اس کا کوئی خل نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں کی ظلم اندھیروں کی طرف دعوت دینے والے کہنا۔ کہ یہ لوگ دنیا کو واپس اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ایسے عہد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس میں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے۔ اس طرح کی صریح کفریہ باتیں کرتے ہیں جنہیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں جس کی بصارت و بصیرت دونوں پر پردے ڈال دیئے ہوں اور بہانہ بنایا ہو کہ مجھے تو موجودہ دور کے بارے میں معلومات ہی نہیں یہ لوگ تو ان جدید معلومات کو بدعاں کہتے ہیں۔ ① سوال یہ ہے کہ آپ ان کی تکفیر سے کس بنیاد پر رکے ہوئے ہیں اور ان کا دفاع

① محمد شرقہ اپنی کتاب ”ہی السلفیہ“ میں لکھتے ہیں: موجودہ دور کی نفہ جس کے گرد کچھ دائی منڈلاتے ہیں یہ صرف نفہ کی بقا یا جاتی ہیں اگر ہم اسے علمی قرار دیں اگر ان کی تعریف کرنی پڑے بلکہ یہ تو صرف وہ معلومات ہیں جس کو موجودہ دور سے

کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے اتنی بھی چوڑی تاویلیں کیوں کرتے ہیں وہ تو تکفیر کے لیے آپ کی شرطیں بھی پوری کر چکے بلکہ ان سے بھی کئی گناہ آگے جا چکے ہیں۔

② حکام کے کفر کو کفر ارتداد اور عقائد میں معین لفظ کے ساتھ مقید کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کا حکم واضح نہیں ہے یہ دراصل اللہ پر بہتان ہے اور علمی میں اللہ کے دین میں اضافہ ہے۔

شیخ محمد بن ابراہیم آں شیخ^{رحمۃ اللہ علیہ} کہتے ہیں: کسی حاکم کا بغیر ما نزل اللہ فیصلہ کرنا کفر اور عقائد ہے ملت سے خارج کر دینے والا ہے اور اس کی چند اقسام ہیں:

① یہ کہ بغیر ما نزل اللہ حاکم اللہ و رسول کے دین کے زیادہ حق دار ہونے سے انکار کر دے ① یہی معنی ہے ابن عباس^{رض} سے جسے ابن جریر^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بھی پسند کیا ہے کہ انکار سے مراد ہے اللہ نے جو حکم شرعی نازل کیا ہے اس کا انکار اس مسئلے میں اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ہاں جو ثابت شدہ اصول ہیں جن پر اتفاق ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے دین کے کسی اصول یا متفقہ فروعی مسئلے کا انکار کیا یا رسول^{صلی اللہ علیہ وسلم} جو کچھ لائے ہیں اور وہ قطعی ثابت ہواں میں سے کسی مسئلے کا انکار کیا تو یہ کافر ہے ملت سے خارج ہے۔

② بغیر ما نزل اللہ فیصلہ کرنے والا اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اللہ و رسول^{صلی اللہ علیہ وسلم} کا حکم حق ہے مگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی اور کا حکم ان کے حکم سے بہتر ہے زیادہ مکمل ہے لوگوں کی نئی نئی ضروریات کو پورا کر رہا ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی ہیں اور حالات جنہیں سامنے لارہے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ ②

→ کی شافت اپنانے والوں نے پسند کیا ہے۔ شیخ کا رسالہ ”فقہ الواقع“، بھی دیکھیں۔

① پہلے گز رچکا ہے کہ انکار ظاہر سے ہوتا ہے باطن سے نہیں ہوتا جیسا کہ کفار کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے: وَجَّهُدُوا بِهَا وَ اسْتَيْقِنْتُهَا انْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَ غُلُوًّا۔ (النمل: ٤٤) انہوں نے ظلم و مرضی کی وجہ سے انکار کر لیا تھا۔ اس کے کفر میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جب یہ عصر جو کہتے ہیں کہ وہ انکار کا فربناتا ہے وہ صرف دل سے ہوتا ہے تو یہ ان کی بات بالٹ ہے صحیح نہیں ہے۔ ② یہ جو کفر ہے غیر اللہ کے قوانین کو اللہ و رسول کے قوانین سے بہتر سمجھا جائے۔ اس میں دور حاضر سے

- ۳) ایک آدمی نہ تو غیر اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم سے بہتر جانتا ہے نہ برابر مگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول ﷺ کے حکم کے خلاف حکم جائز ہے تو یہ بھی پہلے والے کی طرح ہے (یعنی کافر ہے)
- ۴) سب سے زیادہ عام واضح اور بڑا کافر ہے وہ ہے شریعت اسلامی سے عناد رکھنا اور اللہ و رسول ﷺ کی نافرمانی و مخالفت اور ان کے احکام کو متسرجھنا اور شرعی عدالت کی ہر طرح مخالفت کرنا اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا جس طرح بھی ممکن ہواں کے لیے مختلف وسائل و ذرائع استعمال کرنا۔ جس طرح شرعی عدالتوں اور فیصلوں کے مراجع ہیں مثلاً قرآن و سنت اسی طرح ان (غیر شرعی) عدالتوں کے بھی مراجع ہیں جو مختلف قوانین سے مرتب ہیں مثلاً فرانسیسی، امریکی اور برطانوی قوانین یہ عدالتیں بہت سے اسلامی ممالک میں موجود ہیں ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں لوگ جو ق در جو ق ان کی طرف آتے ہیں۔ ان میں بیٹھے ہوئے نجح کتاب و سنت کے خلاف ان (غیر اسلامی) قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کو لوگوں پر لازم قرار دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کفر کیا ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ کی گواہی کے معارض کام اور کیا ہو گا۔
- ۵) جیسا کہ بہت سے قبل کے سردار اور پنجابیوں کے سرچخ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور عادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور ان کو اپنی روایات قرار دیتے ہیں یہ سلسلہ نسل درسل چلتا ہے اسی طریقے پر جگہ نمائے جاتے ہیں جاہلیت کے احکام پر کاربندر ہتے ہیں اللہ رسول ﷺ کے احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ (رسالہ تحکیم القوانین) میں کہتا ہوں: مختلف قسم کے کفری عقائد میں مبتلا دور حاضر کے طواغیت کی حقیقت پر جو بھی خور کرے گا تو وہ جان لیگا کہ ان میں وہ تمام چھ صفات مکفرہ موجود ہیں جنہیں شیخ جلال اللہ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے بلکہ یہ ان سے بھی ایک قسم کا کفر زیادہ کر رہے ہیں جو ملت سے خارج ہے کے طواغیت واضح طور پر مبتلا ہیں جو کسی سے مخفی نہیں کہ یہ لوگ جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں اور اسے تمام دیگر نظامہائے زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں (چاہے اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو) موجودہ دور کے قلمی ادارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہر خاص و عام اس سے واقف ہے۔

کر دینے والا ہے وہ ہے ان لوگوں کا شریعت کی تو ہیں کرنا اس کو کم تر سمجھنا اس کا نہاد ق اڑانا اپنے اسمبلی اجلاسوں میں شرعی احکام پر آوازیں کسنا، اور اس کے ساتھ استہزا ہے۔ ① ایک اور قسم بھی ہے وہ یہ کہ جو شخص ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرو تو یاں سے لڑتے ہیں ایک اور قسم ہے کہ یہ لوگ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ کام کفر ہے ملت سے خارج کرنے والا ہے اگرچہ اعتقاد و وجود کے بغیر ہی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد: ۸-۹)

جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال بر باد کر دیئے یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ (دین) سے نفرت کی تو ان کے اعمال باطل کر دیئے۔

ان کے اعمال کے بر باد ہونے کی وجہ شریعت سے ان کی نفرت بنی۔ فرمان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَنُ
سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
سَيْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ (محمد: ۲۵-۲۶)

جو لوگ مرتد ہو گئے اور ہدایت واضح ہونے کے بعد شیطان نے ان کے لیے مزین کیا اور انہیں امید دلائی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ سے نفرت کرنے والوں کو کہا کہ ہم بعض ① یہ جو کافر ہے غیر اللہ کے قولین کو اللہ و رسول کے قولین سے بہتر سمجھا جائے۔ اس میں دور حاضر کے طواغیت واضح طور پر بتلا ہیں جو کسی سے مخفی نہیں کہ یا لوگ جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں اور اسے تمام دیگر نظام ہمارے زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں (چاہے اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو) موجودہ دور کے تعلیمی ادارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہر خاص و عام اس سے واقف ہے۔

باتوں میں تمہارا کہا مانیں گے۔ یہ لوگ اس وجہ سے کافر و مرتد ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین سے نفرت کرنے والوں کو کہا کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مانیں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین سے نفرت کرنے والے بدرجہ اولیٰ کافر ہیں اور بڑے کافر ہیں۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسلام کے بڑے منافی امور دس ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول ﷺ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حکم سے نفرت کرے (اگرچہ اس پر عمل کرتا ہو) یہ بالاتفاق کفر ہے اس پر دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے: ﴿ذلِكَ بِإِنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ”یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ سے نفرت کی تو ان کے اعمال بر باد کر دیئے۔“ اگر ان حکام کو اللہ کے دین سے محبت ہوتی (جو کہ ایمان کی شرط ہے) تو یہ اس کی اتباع کرتے اس پر عمل کرتے تگر جب اتباع عمل نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں محبت کے بجائے دین سے نفرت موجود ہے: ﴿فُلُونَ كُنْتُمْ تُحْبُونَ اللَّهَ فَاتَّبَعْتُمْ يُحِبِّكُمُ اللَّهُۚ۝ آل عمران: ۳۱﴾ ان سے کہہ دو (اے محمد ﷺ) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“ کفر کی تمام صفات ان میں مکمل طور پر موجود ہیں ہر شخص ان صفات کو دیکھ سکتا ہے مگر اس کے باوجود موجودہ دور کے جسمیہ کو ان کا کفر نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ ان کے لیے مسلسل تاویلات کر رہے ہیں اس لیے کہ یہاں تک ان حکمرانوں میں جھانک کرنہیں دیکھ سکے ہیں کہ ان میں کفر ہے یا نہیں؟ ان تمام گزارشات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیخ کا یہ نظر یہ باطل ہے کہ حاکم کے کفر کے لیے کفر اعتقد و ارتدا ضروری ہے یعنی یہ کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کا حکم اس دور کے ساتھ مناسب نہیں یا اس میں صلاحیت نہیں اور یہ بات حاکم صراحت کے ساتھ کہے۔ اس کے علاوہ دیگر کافر بنادینے والے امور کی توجہ نہیں دی۔ اس شرط پر ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ شیخ آپ اس حاکم کے بارے میں کیا کہیں گے جو یہ بات تو صراحت سے کہہ دے جسے آپ حاکم کے لیے کفر سمجھتے ہیں مگر مذاق میں کہے یا اہل حق سے عناد کی بنا پر کہے اور دل میں

اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو؟۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو آپ نے کافر بنانے والے عمل کے بغیر کافر بنادیا اور ظاہر کو تکفیر کا سبب بنادیا جو کہ بغیر اعتماد کے ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ نے یہ کیسے معلوم کر لیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ اس لیے کہ ظاہری عمل کو تو آپ باطن پر دلیل نہیں مانتے؟۔

البانی: ہم وہ بات دوبارہ نہیں دھراتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جس نے ایک نظام اپنایا ہوا ہے اور اس کو لوگ کفر ارتدا دیتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نظام کے اپنانے کے عمل کو اس بات کی دلیل بنایا ہے کہ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام میں صلاحیت نہیں ہے۔

ابو بصیر: پھر غور فرمائیں کہ شیخ نے حاکم کے کفر کی علت اس بات کو بنایا ہے کہ وہ اس بات کی صراحت کرے کہ اسلام میں صلاحیت نہیں ہے (یا اس دور کے لیے اسلام مناسب نظام نہیں ہے) اگر حاکم سے یہ بات ثابت نہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے اور تاویل اس کو یہ گنجائش فراہم کرتی ہے کہ وہ کتنا ہی صریح کفر کا اظہار کر دے۔ علماء کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں حکم بغیر ما نزل اللہ کے کفر کی نوعیت کیا ہے؟ یہ کفر اکبر ہے اور یہ اقوال شیخ کی بات کے مخالف ہیں۔ ان اقوال کو دوبارہ لکھنا بے فائدہ ہے۔

البانی: میں کہتا ہوں اگر ان کا فیصلہ اور استنباط صحیح ہے تو پھر یہ صحیح فیصلہ ہے اور کفر اعتمادی کے مطابق ہے تب حکم کامدار اور کفر و کفر میں فرق اس طرح ہو گا کہ ہم دل کو دیکھیں گے اگر دل مومن ہے اور عمل کا فرتوایسی صورت میں دل میں موجود عمل کو عمل پر تغلب حاصل ہو گا۔

ابو بصیر: ہم دل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے: نبی ﷺ کے فرمایا: مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نق卜 لگاؤں اور ان کے پیٹ چیر کر دیکھوں اسی طرح بخاری میں عمر بن الخطابؓ کا قول ہے: نبی ﷺ کے زمانے میں لوگوں کا مowaخذہ وحی کے ذریعے

سے ہوتا تھا اور اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب ہم تم لوگوں کا مواخذہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر کریں گے اگر کسی نے اچھے اعمال کا مظاہرہ کیا تو ہم اسے امن دیں گے اپنے قریب کریں گے ہمیں اس کے باطن سے کوئی غرض نہیں ہے اس کے باطن کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اور جس نے برے اعمال کا مظاہرہ کیا ہم اسے امن نہیں دیں گے اس پر بھروسہ نہیں کریں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ وہ کہتا پھرے کہ میرا باطن اچھا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (اصارم: 340) میں لکھتے ہیں: ایمان اور نفاق کی وبنیاد دل میں ہوتی ہے اور جو قول عمل ظاہر ہوتا ہے یہ اس بنیاد کی شاخ ہے۔ اور اس بنیاد پر دلیل ہے۔ جب کسی شخص سے کسی قول عمل کا اظہار ہوتا ہو تو اسی پر حکم مرتب ہو گا۔ ایک اور لحاظ سے یہ کہیں تو دلوں کے راز جانا علام الغیوب کی خصوصی صفت ہے یہ آپ کی یا کسی اور انسان کی خصوصیت نہیں ہے ہر انسان کو اپنی حدود معلوم ہونی چاہئیں اور ان تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ یہ کیسے اعتبار کریں گے کہ دل مومن ہے اور ظاہری عمل کافر ہے جبکہ شرعی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ باطن کا ظاہر سے تعلق ہے اور کفر اور ایمان میں ایک دوسرے پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر دل مومن ہے قیع ہے اپنے خالق سے محبت کرنے والا ہے تو اس کے اثرات اعضاء پر ظاہر ہوں گے ان میں مخالفت ناممکن ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر دل میں معرفت و ارادہ ہو گا تو یہ جسم تک ضرور سراست کرے گا یہ ناممکن ہے کہ دل و جسم میں مخالفت ہوا سی لیے نبی ﷺ نے فرمایا ہے: جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے وہ دل ہے۔ جب دل صالح ہوا سی میں ایمان ہو علم ہو قلبی عمل ہو تو جسم قول ظاہر اور عمل مطلق کی وجہ سے صالح ہو گا جیسا کہ ائمہ حدیث نے کہا ہے قول اور عمل؟۔ قول باطن و ظاہر ہوتا ہے اور عمل باطن و ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر باطن کے تابع ہوتا ہے جب باطن صالح ہو گا ظاہر بھی صالح ہو گا جب باطن بگڑ جائے گا ظاہر بھی بگڑ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کہا ہے نماز میں فضول حرکات

کرنے والے کا دل اگر خشوع کر رہا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی کرتے۔ کہتے ہیں: جب دل میں اس کی تصدیق اور محبت ہو تو ضروری ہے کہ جسم اس کے مطابق حرکت کرے اقوال و اعمال ظاہرہ اس کے مطابق ہوں۔ بدن سے جو اقوال و اعمال کاظم ہوتا ہے وہ دل میں موجود جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہے اور اس میں اثر کرتا ہے ظاہر و باطن ایک دوسرے میں اثر کرتے ہیں لیکن دل بنیاد ہے اصل ہے اور بدن فرع ہے۔ فرع اصل سے شاخ جڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کلمہ ایمان کی مثال درخت سے دی ہے:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَ فَرْعُهَا فِي

السَّمَاءِ، تُؤْتَىٰ أُكْلَهَا كُلًّا حِينَ يَأْذِنُ رَبِّهَا (ابراهیم: ۲۵)

پاکیزہ کلمہ کی مثال عمدہ درخت کی سی ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسان کو چھوڑتی ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہو۔

کلمہ سے مراد کلمہ توحید ہے درخت مضبوط ہوتا جاتا ہے اس کی شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور جب شاخوں پر بارش گرتی ہے تو ان کی نمی کا اثر جڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ جب ظاہری اقوال و اعمال باطنی اقوال و اعمال کے ساتھ لازم و ملزم ہیں تو پھر یہ ظاہری اقوال و اعمال باطنی پر دلیل بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْمِنُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

وَ لَوْ كَانُوا آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ إِخْوَانَهِمْ أَوْ عَشِيرَتَهِمْ أُولَئِكَ كَتَبَ

فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ (المجادلة: ۲۲)

آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ اللہ رسول (علیہ السلام) کے دشمنوں سے محبت رکھے اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا دیگر رشتہ دار ہوں۔ ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا گیا ہے اور اپنی طرف سے

روح کے ذریعے ان کی تائید کی ہے (اللہ نے)۔

اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا بلکہ ایمان خود اس دوستی کے منافی و معارض ہے۔ (الفتاویٰ: 781/7)

جب یہ معلوم ہو گیا کہ شیخ ایمان کے مسئلے میں جہنم کا قول بول رہے ہیں اور اسے مضبوط کر رہے ہیں تو پھر اس بات پر تعجب نہیں رہا کہ وہ یہ کہیں کہ ظاہری طور پر شریعت کی واضح مخالفت ہی کیوں نہ ہو۔

الابنی: دل میں جو کچھ ہے اگر عمل اس کے مطابق ہو یعنی وہ شریعت کے حکم کا اقرار نہ کرے یا تو زبان قوال کے ساتھ یا زبان حال سے یعنی جب مانی الصمیر کو یا زبان قوال سے بیان کیا جاتا ہے یا زبان حال سے جب قلبی کفر کو زبان قوال سے بیان کرے تو پھر تو بات ہی ختم ہے مگر جب زبان حال سے تو اس میں پھر بحث کی گنجائش ہوتی ہے اب اس تفصیل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

ابوبصیر: معلوم ہوتا ہے شیخ کفر قلبی پر دلالت کے لیے زبان قوال کو شرط قرار دیتے ہیں تو اس بنیاد پر پھر کوئی بھی صریح جو کفر پر زبان قوال سے کی جائے وہ قلبی کفر پر معتبر دلیل نہیں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ اعتقاد کفر قلبی کی صراحت نہ ہو اس کے علاوہ اگر ہے تو پھر تاویل کامیدان و سعی ہے جتنا بھی صریح کفر کرے اگر کوئی شخص اللہ اور رسول ﷺ کو گالی دے تو یہ کفر نہیں ہو گا جب تک اس کا مرکن تکب واضح طور پر نہ کہہ دے کہ میں دل سے گالی دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کا رد پہلے لزور چکا ہے اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ شیخ اور ان کے تبعین جہنمیہ و مر جہن کے نزدیک زبان حال میں اختلاف و بحث کی گنجائش ہے اس لیے کہ شیخ کے نزدیک زبان حال اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ شیخ کی شرط مکمل کردے یعنی یہ کہ کفر قلبی پر واضح اور صریح دلالت کرے اسی لیے ان کے نزدیک زبان حال میں بحث اور اس میں تاویل اور اصل معنی سے انصراف کی بھی

گنجائش موجود ہے۔ جتنا بھی ظاہر کفر صریح پر دلالت کرتا ہو۔ ان کے نزدیک تفہیر کے لیے کفر کا صرف دل میں موجود ہونا ضروری ہے اس طرح تو کفر صریح دلالت نہیں کرتا تو ان کے نزدیک وہ کفر نہیں ہے شیخ نے جس تفصیل کی بات کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف جہنم اور مر جہن کے عقیدہ ایمان کو بنیاد و مضبوطی فراہم کرنا ہے جنہوں نے ایمان کو صرف دلی اعتقاد تک محدود و محصر رکھا ہے عمل کے بغیر تو ان پر لازم آتا ہے کہ یہ کفر کو بھی دلی تکنذیب تک محدود رکھیں۔ شیخ صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اور اپنے سامعین کے بارے میں اللہ کا خوف کریں۔ کہ ان کے سامعین بہت زیادہ ہیں اور وہ بلا سوچ سمجھے ان کی رائے کو پانتے ہیں جو بھی ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے صحیح ہو یا غلط یہ سامعین انہیں صحیح عقل و قلم پر کھٹے بھی نہیں۔

البانی: گزشتہ تمام بالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کفر عملی کبھی کفر اعتقادی ہوتا ہے اس کے لیے کفر اعتقادی کے ساتھ بشرط ضروری ہے۔ کفر عملی کو کفر اعتقادی کی طرح قرار دینا یعنی مرتد کہنا جبکہ دل مومن ہو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں۔

ابوبصیر: پہلے گزر چکا ہے کہ ایک کفر ایسا ہے جو اعتقاد کے بغیر ہوتا ہے اگرچہ اعتقاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ کفر بذاته شمار ہوتا ہے جیسے (دین کے ساتھ) استہزاء یا دین کا مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں بیٹھنا، گالی دینا دین کو یا اس میں عیب نکالنا، اعراض کرنا، تھاکم الی الاطاغوت۔ ترک نماز۔ بت کو سجدہ کرنا وغیرہ جن کی تفصیل اور دلائل پہلے گزر چکے ہیں۔ ایسا اعتقاد قلبی جو تکنذیب کے منافی ہو اور ایسا ایمان جو قیامت میں نفع دے ان دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح کفر ظاہر جو اعتقاد و قصد ایق پر اثر کرتا ہے اس میں اور اس ایمان پر اثر کرنا جو جنت میں لے جانے والا ہے میں فرق ہے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ظاہری واضح کفر جملت سے خارج کرنے والا ہے وہ مرتکب سے وہ ایمان ختم کر دیتا ہے جو آخرت میں نفع بخش ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَّطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ

الْخَسِيرُونَ ☆ الْزَمْر: ٦٥ ”اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے عمل باطل ہو جائیں گے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔“ اور فرمان ہے: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ☆ الْأَنْعَام: ٨٨﴾ ”اگر انہوں نے شرک کر لیا تو ان کے اعمال بر باد ہو جائیں گے۔“ یہ کفر ظاہر جو ملت سے خارج کرنے والا ہے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہو؟ یادوں سے تصدیق کی نفی کرتا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اسی بات پر اختلاف و بحث ہے پہلے یہ بات گزرچکی ہے کہ یہود وغیرہ مشرکین نے نبی ﷺ کی نبوت کا کفر کیا ظاہری طور پر باوجود یہ وہ باطن میں تصدیق کرتے تھے اور دل میں ان کی رسالت کا اقرار کرتے تھے اور اپنے رب کے پاس سے جو شریعت وہ لائے تھے اس کو حق مانتے تھے مگر ظاہری طور پر تسلیم کرنے میں جور کا وٹ تھی وہ حسد۔ غیرت اور تکبر تھا۔ اب کفر ظاہر کا ایمان پر اثر اور اعتقاد و تصدیق پر اثر دونوں باتوں کو باہم خلط کرنا تلیس و تحلیل ہے۔ حقائق کو مسخ کرنا ہے۔ مگر جو لوگ تو حیدی حقیقت سے واقف ہیں انہیں دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔

سامی: ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک کفر عملی ایسا ہے جو ملت سے خارج کرتا ہے چاہے وہ اعتقادی طور پر مومن ہو یا نہ ہو۔

ابوبصیر: اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ مومن ہو یا نہ ہو بلکہ صحیح بات اس طرح کہنی چاہیے تھی کہ چاہے یہ کفر اس کے دل میں ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہری کفر اور دلی ایمان کا اکھٹے ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ ظاہر و باطن میں تعلق ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

سامی: اس بارے میں ہمارے پاس سلف سے دلائل ہیں جن میں سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں لکھا ہے۔

الہبی: ہمیں دلائل بتائیں۔

ابو بصیر: شیخ نے بات پوری نہیں کرنے دی، کاٹ دی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان و توحید کے مسائل دلائل کے بغیر بیان کرتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ حق ہے تو ہمیں اس کو اپنانا چاہیے اور اگر نہیں تو رد کرنا چاہیے خاص کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے ان علماء میں شمار ہوتے ہیں جن کا امت مسلمہ پر بہت احسانات ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اہل فراود میں سے ہیں جن کی رائے کو شیخ بھی اہمیت و ترجیح دیتے ہیں پھر کس بات کی وجہ سے یہ لوگ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے استشهاد کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو دلیل کے طور پر لاتے ہیں جہاد، ایمان، توحید، امر بالمعروف نبی عن انکار وغیرہ میں اور ان کے علم کی ناقدری بھی کرتے ہیں؟ ان سے چشم پوشی کرتے ہیں؟ ان کی شان کم کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ موجودہ مسئلہ میں شیخ نے کیا ہے۔ شیخ ایک عجیب کام یہ کرتے ہیں کہ ایمان کے مسئلے میں الغزاوی، ابن رشد اور فخر الدین رازی سے استشهاد کرتے ہیں حالانکہ ان پر کلام ہے جیسا کہ شیخ نے کتاب ”السلفی الاثری احکام التقریر فی مسائل التکفیر“ میں کیا ہے یا اس لیے کرتے ہیں کہ ان اقوال میں اپنے مذہب کی تائید پاتے ہیں اس کے مقابلے پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سنت و توحید کے علمبرداروں سے چشم پوشی کرتے ہیں جن کا اس مسئلہ ایمان میں مضبوط و مشہور تسلیم شدہ موقف ہے سوائے چند مقامات کے کوہاں انہوں نے ان کی عبارتیں اور اقوال اپنے مقاصد کے لیے پیش کیے ہیں۔

سامی: (دلیل دیتے ہیں) ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ﴾ (التوبۃ: ۷۴) ”یہ اللہ کی فتویں کھاتے ہیں حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔“

ابو بصیر: شیخ نے سامی کی بات پوری نہیں ہونے دی۔

البانی: مجھے اپنی بات دہرانے کی اجازت دیں میں نے ابھی کہا تھا کہ کفر اعتقاد جس کا مرکز دل ہے اس پر دلالت یا توزیع کا قوال سے ہوتی ہے یا زبان حال سے۔ آپ نے آیت ﴿وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ﴾ (التوبۃ: ۷۴) سے دلیل لی ہے۔ حالانکہ یہ تو ہماری دلیل ہے۔

ابو بصیر: آیت شیخ کے خلاف دلیل ہے ان کی حمایت کی نہیں اس لیے کہ شیخ نے قید لگائی ہے کہ زبان کفر قلبی پر دلالت کرے زبان اس پر دلیل نہیں بن سکتی آیت میں معمولی سا بھی اشارہ دل یا دلی اعتقاد کی طرف نہیں ہے۔ نہ اللہ نے یہ فرمایا ہے انہوں نے دلی اعتقاد رکھا تھا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کفر یہ بات کی ہے اور اس کی بنابر ہی وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں آیت کے شان نزول کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے کلمہ کفر نبی ﷺ کو گالی دینے اور دین میں طعن کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قشیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: کلمہ کفر نبی ﷺ کو گالی دینا اور اسلام میں عیب نکالنا ہے اور ﴿كَفُرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِم﴾ سے مراد ہے کہ ان پر اسلام کا حکم لگ چکا تھا۔ (اس کے بعد وہ کافر ہوئے)۔ (قرطی: 8/206)

جبکہ شیخ نبی ﷺ کو گالی دینے کو کفر نہیں سمجھتے جب تک کہ زبان سے گالی دینے والا یہ کہہ دے کہ میرے دل میں کفر ہے اور میں دلی طور پر گالی دینا چاہتا تھا آیت میں یہ بات کہاں ہے کہ یہ شیخ کے لیے دلیل بن جائے۔ البتہ ان کے خلاف دلیل ضرور بن رہی ہے۔

سامی: اللہ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ ان (کلمہ کفر کہنے والوں) نے اس کام کو حلال جانا یا حلال نہیں جانا بلکہ مطلقاً ذکر کیا ہے۔

البانی: اللہ تمہیں ہدایت دے کہ تمہیں عربی زبان میں مہارت نہیں ہے کسی آدمی کے ایمان کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے گا اس کی باتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا؟

ابو بصیر: ایمان کے بجائے یہاں اسلام کا فقط استعمال کرنا صحیح ہے اس لیے کہ منافق بعض دفعہ ایسی بات کرتا ہے جو اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے مگر اس میں وہ ایمان داخل نہیں ہوتا جو قیامت میں اس کے لیے نفع بخش ہو آخرت میں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہو گا ایسے آدمی کو مومن نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہ کسی آدمی کو مومن قرار دینے سے اس کے لیے جنت لازم ہوتی ہے جبکہ کسی کو مسلمان کہنے سے ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ

نفاق کا احتمال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلِكِنْ قُولُوا آسْلَمْنَا﴾ الحجرات: ۱۴ ”اعرب نے کہا ہم مومن ہیں ان سے کہد و کتم مومن نہیں ہو بلکہ خود کو مسلمان کہو۔“

سامی: جی ہاں!

ابوبصیر: صحیح بات یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ (ہم اس کا کفر زبان سے نہیں بلکہ) اس کی نماز، اس کے قول اور عمل (سے پہچانیں گے) اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ یہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے اس سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ قول سے اس کا اظہار کرے جیسا کہ بخاری کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا، ہمارا ذیجہ کھایا یہ مسلمان ہے اس کے لیے اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ نماز اقرار بالسان کی جگہ کام کرتی ہے کفایت کرتی ہے، روزہ اور زکوٰۃ کے لیے ایسا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ (تفسیر قرطی

(2048/8)

البانی: بہت اچھی بات ہے (یہ بتاؤ) کسی پر کفر کا حکم تم کس بنان پر لگاؤ گے؟ اگر اس کے اقرار و قول پر ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں بلکہ تم سے آگے ہوں گا جو کفر دل میں ہو گا اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے ہم دور استئختیار کریں گے یا تو قول یعنی زبان قال یا زبان حال۔

ابوبصیر: جب کفر صریح اور واضح ہو تو اس میں زبان قال یا زبان حال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک کہ کفر پر صریح یہ دونوں صراحتاً دلالت نہ کرتے ہوں۔ اگر یہ دونوں اس قسم کی دلالت سے خالی ہوں تو پھر یہ کفر عملی شمار ہو گا جو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ جتنا بھی ظاہر و صریح کفر ہو انہوں نے جس شرط کو قید اور علت بنالیا ہے تکفیر کے لیے اس طرح یہ لوگ ایلیس کو کافرنہیں کہہ سکتے ہیں کسی اور کو کافر کہہ سکتے ہیں جب تک وہ زبان سے نہ کہ دیں کہ وہ کفر کا عقیدہ رکھتا ہے

یا وہ ولی طور پر اس کو حلال سمجھتا ہے۔

البانی: ان دونوں امور میں فرق کرو (جیسا میں کرتا ہوں) تم آیت سے استدلال کرتے ہو حالانکہ وہ میری دلیل ہے۔

ابو بصیر: پہلے گزر چکا ہے کہ آیت شیخ کے خلاف دلیل بن رہی ہے۔ اس لیے کہ اس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو شیخ نے تکفیر کے لیے لگائی ہے یعنی کفر قلبی پر زبان قال سے وضاحت کے ساتھ اقرار کرنا یہ بات نہ اس میں ہے نہ کسی اور آیت میں۔

سامی: یہ تو گہری نظر سے دیکھنا ہوا کہ اگر وہ مؤمن ہے یا مومن نہیں مگر اللہ کو صرف گالی دینے سے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔

ابو بصیر: اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ وہ معتقد تھا یا نہیں تھا؟

البانی: اچھا یہ بتاؤ کہ اسے قتل کیا جائے گا یا نہیں؟

سامی: جی ہاں قتل کیا جائے گا۔

البانی: کیا اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی؟

سامی: اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

البانی: راجح قول ان میں کون سا ہے؟

سامی: راجح قول یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔

ابو بصیر: یہ حقیقی فیصلہ نہیں ہے۔ تفصیل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شامِ رسول ﷺ کو کفر اور حد کے طور پر قتل کیا جائے گا اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی اسی طرح جو شخص بار بار اللہ کو گالیاں دیتا ہے یہاں تک کہ یہ اس کی عادت بن چکا ہو، گالیوں سے رکتا نہیں ہو اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ اس بارے میں دلائل

اور انہم کی آراء گزرچی ہیں۔

البانی: یہ بتاؤ کہ جو شخص مرتد ہونے کا اعلان کرے اس سے توبہ کروائی جائے گی یا نہیں؟؟

سامی: توبہ کروائی جائے گی۔

ابوبصیر: یہ تفصیل کا متقاضی ہے۔ اگر مرتد کا ارتدا دستخت ہے تو اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اس سے مراد ہے کہ مرتد ہونے کے ساتھ نبی ﷺ کو گالی بھی دیتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے لڑتا بھی ہے وغیرہ اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ توبہ کروائے بغیر اسے قتل کیا جائے گا جیسا کہ نبی ﷺ نے عکل کے ایک گروہ کے ساتھ کیا تھا اسی طرح ابن خطل کے ساتھ کیا کہ وہ کعبہ کے پردے سے چینٹا ہوا تھا اسے قتل کرنے کا حکم دیا حالانکہ وہ وہاں توبہ کر رہا تھا امان طلب کر رہا تھا یا اس لیے کہ اس نے کفر وارد اوسے بڑھ کر تکلیفیں دی تھیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 103/02) میں لکھتے ہیں: مرتد میں فرق ہے۔ صرف مرتد ہے تو وہ اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا اور ارتدا دمغلظہ ہو تو توبہ کروائے بغیر اسے قتل کیا جائے گا۔ یہی حکم زندیق کا ہے یعنی وہ منافق جو اپنے نفاق و کفر کا اظہار کر دے۔ جیسا کہ دور حاضر کے طاغوتی حکمران ہیں۔ کہ ایک طرف اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف صریح کفر کا مظاہرہ کرتے ہیں اس میں راجح مذہب یہ ہے کہ بغیر توبہ کروائے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ توبہ کسی اور چیز سے ہوتی ہے جبکہ زندیق کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اعتراف نہیں کرتا صریح کفر کا تاکہ اس سے توبہ نہ کروائی جائے یا تو بنه کرنی پڑے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بات کی دلیل کہ زندیق پر اگر قابو پالیا گیا تو اس کی توبہ اس کی جان نہیں بچاسکتی۔ یہ فرمان ہے:

فُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ

يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا (التوبہ: ۵۲)

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق

میں اس بات کے مفترض ہیں کہ اللہ (یا تو) اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوائے)۔

سلف نے کہا کہ اس آیت میں انسانوں کے ہاتھ سزا کا مطلب ہے ”قتل“، اگر دلوں میں جو کچھ ہے اس کا اظہار کر دیا تو جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دلوں میں جو کفر چھپا رکھا ہے تو مونوں کے ہاتھوں ان کے لیے صرف قتل ہی ہے اگر زندیقت کے اظہار کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی تو مون ان اس بات کا انتظار نہ کرتے کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے اس لیے کہ جب بھی مون ان کو سزا دینے کا ارادہ کرتے وہ اسلام ظاہر کرتے اس وجہ سے وہ مونوں کے ہاتھوں سزا سے فج گئے۔ (اعلام الموقعن: 2/144)

البانی: جو شخص دین سے مرتد ہونے کا اعلان کرتا ہے تو حدیث ہے کہ جو اپنادین بدل دے اسے قتل کر دو۔ ایسے مرتد سے توبہ کروائی جائے گی؟
سامی: جی ہاں توبہ کروائی جائے گی۔

البانی: بھائی صاحب فرق ہے اس آدمی میں کہ جو دین سے مرتد ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس آدمی میں جو کلمہ کفر کسی عذر کی بنای پر ادا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے علمی و جاہل کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا۔ شاید آپ بھی میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ یہ حدیث کہ جس نے دین بدل دیا سے قتل کرو۔ اس حدیث کا سبب صحابہ کرام تھے مجھے اس وقت کچھ شک سا ہورہا ہے کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا جب دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت یمن بھیجا تھا وہ دونوں یمن میں ہی تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نماز نہ بھیجا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ معاذ کے پاس مہمان بن کر گئے یا معاذ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنچھکڑ یوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تو انہیں بتایا گیا کہ اس نے دین بدلا ہے اسی وقت اس نے تلوار نکالی اور اس آدمی کو قتل

کر دیا۔ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ معاذ علیہ السلام نے یہ قتل کیا ابوموسیؑ نے دونوں صحابی ہیں انہوں نے فی الفور ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) پر عمل کر لیا۔ یہ ایسا ارتدا تھا جس میں اس کے پاس عذر نہیں تھا اس لیے تو بہ نہیں کروائی گئی۔ جبکہ وہ شخص جو کلمہ کفر ادا کرتا ہے کبھی اس کا کوئی نقطہ نظر ہوتا ہے جو علمی لحاظ سے غلط ہوتا ہے یا العلیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی اور سبب ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی مثلاً بری تربیت وغیرہ۔ بار بار میں نے اس کی صراحة کر دی ہے۔

ابو بصیر: یہ بات صحیح نہیں ہے اس پر ہم مندرجہ ذیل رد او رتبصرہ کرتے ہیں:

① مرتد سے توبہ کروائی جائے گی اس پر دلائل پہلے گزر چکے ہیں، ہم یہاں قاضی عیاض کی رائے سے اس مسئلہ میں دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ مرتد سے توبہ کروائی جائے گی۔ ابن القصار نے صحابہ علیہما السلام جمعیں کا اجماع عمر علیہ السلام کی اس بات پر نقل کیا ہے کہ توبہ کروائی جائے گی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا ہے۔ یہی رائے عثمان، علی، ابن مسعود علیہم السلام کی ہے۔ یہ قول ہے عطاء بن ابی رباح، نجاشی، ثوری، مالک، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق واصحاب الرائے کی جمیلۃ الشیخوں۔

② جس حدیث سے شیخ نے اشتہاد کیا ہے وہ ان کے خلاف دلیل ہے مگر ان کے حق میں نہیں یہ حدیث ابو داؤد کی روایت سے ہے جس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:

((وَكَانَ أَيْيَهُودِيُّ الَّذِي ارْتَدَ عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى يَهُودِيَّةِ دِينِ السُّوءِ وَقَدْ اسْتَتَبَ))

وہ آدمی یہودی تھا اور اسلام سے یہودیت جیسے بدترین دین کی طرف چلا گیا تھا اس سے توبہ کروائی گئی۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ اس طرح ہے ابوموسیؑ کے پاس ایک آدمی لا یا گیا جو مرتد ہو گیا تھا

اسلام سے، اسے بیس دن تک یا کم و بیش دعوت دی معاذ اللہ عزیز آئے انہوں نے مجھی اس کو (اسلام قبول کرنے کی) دعوت دی اس نے انکار کیا تو اس کی گردان اڑادی۔ (صحیح ابی داؤد: 3626)

عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ انہوں نے دو ماہ تک اسلام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حدیث اپنی اسناد کے لحاظ سے صحیح دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ مرتد سے توبہ کروائی جائے گی اور توبہ کروانے کے قائل ہیں۔ ابو موسیٰ اشعریؑ، معاذ بن جبلؓ اس کے خلاف رائے دینا جائز نہیں ہے۔ ہم شیخ سے البتہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا سر قلم کرنا اور اس پر فوراً حکم نافذ کرنا یا الفاظ کہاں ہیں؟

③ شیخ صاحب مرتد سے توبہ کروانے کی رائے کیوں نہیں رکھتے صرف اس لیے کہ توبہ سمجھتے ہیں جو ظاہر میں کفر صریح کا مرتكب ہو گردن سے وہ ارتدا دکا مرتكب نہ ہو یہ شیخ کا خیال ہے۔ شیخ کی باتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرتد سے توبہ کروانے کے قائل نہیں ہیں اس لیے کہ اس نے ارتدا دل سے کیا ہے کفر کا قصد دل سے کیا ہے اب توبہ کس بات کی کروائی جائے اس کی دلی کیفیت و حقیقت معلوم ہو گئی ہے البتہ اب تک جو شخص ارتدا میں واقع نہیں ہوا ہے یہ معلوم نہیں کہ اس نے دل سے کفر کیا ہے یا نہیں؟ شیخ کے نزدیک توبہ دل کی تحقیق و معلومات کے بعد کروائی جائے گی اور مرتد کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ سوچے سمجھے اپنے رو یہ پر نظر ثانی کرے اس لیے کہ جو شخص کفر میں واقع ہوتا ہے اس کے لیے توبہ کروانا اس لیے ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کفر اس نے دل سے کیا ہے یا جسمانی (ظاہری) طور پر کیا ہے؟ اب جہنم کے عقیدے کی مضبوطی (ایمان کے بارے میں) اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گی؟ شاید کہ یہ نکتے اور استنباطات تو جہنم کو بھی معلوم نہ ہوں گے۔

④ جو شخص کفر میں واقع ہوا مگر کسی شرعی طور پر مانع کی وجہ سے اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا تو اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی مگر اس پر شرعی جست قائم کی جائے گی تاکہ جس عذر کی وجہ سے وہ

کفر میں بیٹلا ہوا ہے و ختم ہو جائے جسے و ختم نہیں کر سکتا تھا۔ قیام ججت اور توہہ کروانے میں فرق واضح ہے۔ الہذا شیخ کے لیے مناسب وجا نہیں ہے کہ توہہ کروانا اس کے لیے قرار دے جو کفر میں واقع ہوا ہے لیکن کسی شرعی معتبر مانع کی وجہ سے اس کو کافرنہیں قرار دیا گیا ایسے آدمی سے توہہ نہیں کروائی جائے گی البتہ اس پر ججت قائم کی جائے گی۔

⑤ بری تربیت وغیرہ ایسے عذر کی طرف شیخ بار بار اشارہ کرتے ہیں یہ شرعی طور پر تکفیر کے مانع میں سے معتبر مانع نہیں ہیں نہ ہی کسی اہل علم نے ایسا کہا ہے۔ اس لیے کہ مانع کی کچھ خصوصیات ہیں جو شرعی نصوص سے ثابت ہیں ان کے علاوہ کوئی مانع معتبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو ایسا عجز لاحق ہو کہ وہ اس کے کفر کروکر نہ سکے جس میں واقع ہو رہا ہے۔ اور جو شخص بغیر عجز کے کفر میں واقع ہو رہا ہے یا وہ اس عجز کو دور کر سکتا ہو تو یہ مانع تکفیر میں سے کسی مانع معتبر کی وجہ سے مانع نہیں ہے۔ جب شیخ بری تربیت کو مانع سمجھتے ہیں تو اس لیے کہ ان کے اور دیگر دور حاضر کے جمییہ کے نزدیک کچھ قرآن معتبر ہیں اس بات پر کہ دلی اعتقاد میں کفر نہیں ہے ان کے نزدیک کفر کا مکمل مدارد لپر ہے۔ ہم شیخ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتاب و سنت سے اس بات پر کیا دلیل ہے کہ بری تربیت وغیرہ جن کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں اور اور وہ کے نزدیک یہ مانع ہیں؟

البانی: ان لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بری تربیت یا وقتی غصہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ فوراً کہتے ہیں۔ (استغفار اللہ) اللہ شیطان پر لعنت کرے..... (یعنی اس طرح کے برے اور کفر یہ عمل کرنے والوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کفر یہ ہے مگر ہمیں معلوم نہیں تھا ہماری تربیت ہی ایسی غلط ہوئی تھی اور فوراً استغفار اللہ کہتے ہیں۔ شیطان پر لعنت صحیح ہیں)۔

ابو بصیر: اگر ایک آدمی استغفار اللہ کہتا ہے یا شیطان پر لعنت بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ

وہ صریح کفر کا مرکب نہیں ہوا ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے پھر اگر بات اس کلمہ پر یا شیطان پر لعنت کرنے پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ منافق اور زندیق کے لیے آسان ترین طریقہ کہ کفر و نفاق کرنے کے بعد استغفار اللہ کہے اور ارتدا کی حد سے محفوظ رہ جائے اس پر لوگ کفر کا حکم بھی نہیں لگائیں گے؟ پھر یہ شخص اللہ اور رسول ﷺ کو گالی دیتا ہے پھر استغفار کرتا ہے شیطان پر لعنت کرتا ہے تو یہ کبھی اللہ اور رسول ﷺ کو دوبارہ گالی دینے سے اجتناب نہیں کرے گا مختلف اسباب کی وجہ سے ایسا کرے گا پھر اسے وقتی اشتعال قرار دے کر جان بچالے گا۔ حالانکہ ایسا وقتی اشتعال جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا اس میں بھی کسی کو جاہز نہیں دی جاسکتی کہ وہ اللہ کو یا پیغمبر جیسی مقدس ہستی کو گالیاں دے۔ اس طرح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے ڈرتا ہے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔

البانی: اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ تو اپنے دل کے خلاف بھی کام کر رہا ہے؟

ابو بصیر: اپنے دل کے خلاف کچھ کرنا یا کہنا اس بارے میں رکاوٹ و مانع نہیں ہے کہ اس کو کافرنہ کہا جائے۔ منافق بھی تو اپنے دل کے خلاف ہوتا ہے وہ ایک کفر اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے اور دوسری طرف اسلام کا اظہار کرتا ہے کیا دل کے ساتھ مخالف ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کافرنہ کہا جائے؟

البانی: جب اس پر اسلام کا حکم لگ چکا ہو جب وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے تو بہ کر لیتا ہے۔ جب رسول ﷺ کو گالی دیدیتا ہے اس سے توبہ کروائی جائے گی اگر توبہ کر لی تو صحیح ورنہ قتل کردیا جائے گا مگر جب وہ فوراً استغفار اللہ کہے رجوع کر لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفر کے قصد وارادے کی وجہ سے اس نے یہ گالی نہیں دی۔

ابو بصیر: (پہلی بات کا جواب یہ ہے) کہ اس سے توبہ کروائی جائے گی اس لیے کہ اس نے نہ کفر کیا ہے نہ مرتد ہوا ہے (شیخ کے نزدیک توبہ تو اس کے دل کی حالت معلوم کرنے کے لیے ہے

اور یہ وضاحت کرنے کے لیے ہے کہ یہ کفر اس کے دل سے ہوا ہے یا نہیں اس سے مراد آخری موقع دینا نہیں ہے کہ وہ رجوع کر لے اور گناہ سے رک جائے اور دین حق کی طرف نئے سرے سے لوٹ آئے۔ لہذا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دل سے کفر کیا ہے اس وقت پھر صرف ایک ہی راستہ بچے گا یعنی قتل (جہاں تک نبی ﷺ کو گالی دینے والی بات ہے تو) پہلے کتاب و سنت اور انہم کے اقوال سے دلائل گزرنچے ہیں کہ شاتم رسول ﷺ کا فر ہے۔ اسے حداور کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اس سے توبہ نہیں کروائی جائے گی۔ یہاں ہم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ جان سکیں کہ یہ جو شاتم رسول کو کافرنہیں کہتے تو اس مسئلے میں یہ جہنم کے قول کی موافقت کر رہے ہیں اسی کی بولی بول رہے ہیں امام صاحب نے (الفتاویٰ: 7/557) میں کہا ہے۔

”یہ لوگ جو جہنم اور صاحبی کے قول کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ اللہ و رسول ﷺ کو گالی دینا مشیث کا اقرار یا کوئی بھی کفر یا کلمہ کہنا باطن میں کفر نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گالی دینے والا باطن میں عارف باللہ ہو موحد مون ہو۔ جب ان لوگوں پر نص یا اجماع کے ذریعے جتنے قائم کر لی جاتی ہے کہ شخص ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے کافر ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ باطن کی تکذیب اس کے ساتھ لازم ہو جبکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان ہو۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس دو معلوم امر ہیں۔“

① ایک تو دین سے بدیہی طور پر معلوم ہے دوسرا غور کرنے سے ہم خود ہی معلوم کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے اللہ و رسول ﷺ کو بغیر کسی مجبوری کے گالی دی بلکہ بغیر کسی اکراه کے کلمہ کفر کہا اور اللہ و رسول ﷺ کا مذاق اڑایا تو وہ ظاہر و باطن اور کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اس جیسا آدمی بعض دفعہ باطنی طور پر مون ہوتا ہے اگرچہ ظاہر کافر ہو جس نے بھی یہ بات کی یہ واضح طور پر غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں کفار کے الفاظ ذکر کیے ہیں اور ان پر کفر کا حکم

لگایا ہے اور ان کے لیے وعید کا اعلان کیا ہے جیسا کہ فرمان ہے: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ﴾ ﴿الْمَائِدَةٌ: ٧٣﴾ ”ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے“، اور فرمایا: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ﴿الْمَائِدَةٌ: ٧٣﴾ ”وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے۔“

② جب دل رسول ﷺ کی صداقت کا معتقد ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں رسول سے محبت کرنے والا ان کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہی نامکن ہے کہ وہ رسول کو گالی دے یا آپ ﷺ کی شان میں گستاخی کرے۔ اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا سوائے اس صورت کے کہ وہ نبی ﷺ کو اہمیت نہ دیتا ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کو گالی دینا ایمان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔

استغفار اللہ کو قصد کفر کے عدم پر دلیل بنانے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب (ان کی رائے کے مطابق) کفر کا مدار باطن کے اعتبار پر چاہے کفر کتنا ہی ظاہر اور واضح نہ ہو تو پھر صریح گالی کے باوجود اعتماد ایمان کے سلامت رہنا کیسے فرض کیا جاسکتا ہے۔

البانی: ہم نے بار بار دلیل پیش کی ہے جس سے دلیل ملتی ہے کہ دل کی حالت جاننے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کافر زبان سے اقرار کرے جیسا کہ آیت میں ہے۔

ابو بصیر: آیت سے مراد یہ آیت ہے: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ﴾ ﴿التوبۃ: ٧٤﴾ ”یہ اللہ کی فتنیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔“ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ آیت شیخ کے خلاف دلیل ہے ان کی حمایت میں نہیں ہے اس لیے کہ آیت اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ ان لوگوں کا کفر ان کے کلمہ کفر کی وجہ سے تھا اس لینی میں کہ ان کا عقیدہ کفر یہ تھا۔

البانی: یا ہم زبان حال سے استدلال کر سکتے ہیں۔

ابو بصیر: زبان حال سے کفر اعتمادی قبیلی پر استدلال ہوتا ہے مگر جب زبان حال کفر اعتمادی پر

صریح دلالت نہ کرے (اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے) تو وہ کفر پر دلیل نہیں چاہے کتنی بھی صریح ہو۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک زبان حال میں اختلاف تقدیم اور بحث مباحثے کی گنجائش ہوتی ہے۔

الباني: زبان حال سے استدلال میں اختلاف کی گنجائش ہے کہ کیا یہ استنباط صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن جب زبان (قال) سے اعلان کر دے تو موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ (اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی)۔

ابو بصیر: پہلے گزر چکا ہے کہ زبان قال سے کفر کتنا ہی صریح کیوں نہ ہو دور حاضر کے جھمیے کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ اعتقاد قلبی پر واضح دلالت نہ کرے۔ یعنی یوں نہ کہہ کہ میں یہ کفر یہ کلمہ دل کے عقیدے سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ زبان قال سے کفر یا کفر پر دلالت معتبر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی ادله لیل ان کا قول یہ ہے کہ شاتر رسول ﷺ کافرنہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہہ کہ میں گالی دینے کا دل سے قدر رکھتا تھا۔

الباني: جب ہم کہتے ہیں کہ کفر اگر عملی کفر اعتقادی کے ساتھ مسلک نہ ہو تو بھی وہ ایسا کفر ہے کہ اس کا مرتكب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو اس بات کی کتاب و سنت سے کیا دلیل ہے؟ جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ججۃ تب قائم ہوتی ہے جب شرعی حکم سے واقفیت ہو، علم ہو، جب کسی بھی سبب سے شرعی حکم کا علم ہی نہیں تو یہ دوسرا موضوع ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اگر ایک آدمی زبانی طور پر یا جہالت کی وجہ سے کفر یہ امور میں بیٹلا ہو گیا یا لا علمی کی بنیا پر جیسا کہ ہم پہلے جلانے کی وصیت کرنے والے کا واقعہ لکھ چکے ہیں تو اس آدمی کے کفر اور محدث فی النار ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں سوائے ادھر ادھر کے اقوال و آراء کے کہ فلاں نے یوں کہا فلاں نے یہ کہا وہ کہا اور یہ آراء و اقوال باہم متناقض و معارض ہیں اللہ تعالیٰ کافرمان ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَّ عَتُّمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ

الرَّسُولِ ☆ النَّسَاءٌ: ٥٩ ﴿اَكْرَمْ كَسِيْ مَسَكَهِ مِنْ اخْلَافَ كَرْوَاتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَيْ طَرَفَ لَوَادُو﴾، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل یاد ہے؟

ابو بصیر: بے شمار دلائل ہیں قرآن و سنت کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قول عمل کی وجہ سے تکفیر کی جاسکتی ہے بہت سے دلائل پہلے گزر چکے ہیں جن سے قارئین کو اطمینان مل گیا ہو گیا ان دلائل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو شخص مطلقاً عمل نہیں کرتا اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ان دلائل کے دھرا نے میں اگر فائدہ ہوتا تو ہم اسے دوبارہ ذکر کر لیتے اور مزید دلائل بھی دیدیتے لیکن ان لوگوں کی تو بصارت و بصیرت دونوں پر جہنم کے شبہات کے پردے ہیں اور یہ پردے ان کے دلوں پر اس طرح چھا گئے ہیں کہ انہیں واضح اور روشن حق دیکھنے سے محروم کر دیا ہے حالانکہ حق تو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن پڑھنے اور ایمان و کفر سے متعلق جتنی آیات ہیں وعد اور وعید سے متعلق آیات پر گزرتے تو بھی یہ ان کی تفسیر جہنم بن صفوان کے گمراہ مذہب ہی سے کریں گے۔ اہل سنت اور سلف صالحین کے مذہب پر تو پھر بھی نہیں کریں گے۔

ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ (فتاویٰ: 143/7) میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْهُمْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (النور: ٤٨)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کی ہے پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔

عمل سے پھر جانے والوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے قرآن و سنت میں بہت سے مقامات پر عمل نہ کرنے والوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے جس طرح کہ منافق سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ یہ اس شخص کی رائے اور قول ہے جو کتاب و سنت کا عالم اور امت کے مشاہیر میں سے ہے مجتہد مطلق ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں متعدد مقامات پر عمل نہ کرنے والوں کے ایمان کی نفی

کی گئی ہے اور یہ شخص منافق کی طرح ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا۔ لیکن شیخ اور ان کے چہمیہ تبعین کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے آیت میں لفظ ”یتولی“ کو قلب کا پھیرنا قرار دیا ہے ظاہری عملی پھرنا مراد نہیں لیا جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ اگر ان کے سامنے قرآن کی آیات بار بار لائی جائیں جو ظاہری عمل کے کفر کو ثابت کرتی ہیں تو ان کی تفسیر و تاویل باطنی و اعتقادی کی ہی کریں گے۔ اس کے باوجود ہم دلیل کے متلاشیوں (جو سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کی دلیل نہیں ہے) کے لیے صریح اور واضح اور ظاہر دلیل لاتے ہیں جسے لوگ روزانہ سینکڑوں مرتبہ اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں وہ ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی۔ یہ کلمہ طیبہ جس سے ظاہر اور باطناً ایک اللہ کی عبادت ثابت ہوتی ہے اور ہر اس طاغوت کی نفعی ہوتی ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہوتی ہے جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَمَنْ يَكُفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ الْمُتُقَى لَا
إِنْفِصَامَ لَهَا (البقرہ: ۲۵۶)

جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے تحام لیا مضبوط کڑا جو بھی ٹوٹا نہیں ہے۔

وہ مضبوط کڑا جو ٹوٹا نہیں وہ تو حید ہے حدیث میں آتا ہے: ((بنی الاسلام علی خمس شہادۃ.....)) اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، روزے رکھنا رمضان کے، مسلم کی ایک روایت میں ”لَا إِلَهَ“ کی گواہی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے انکار کیا جائے۔ اس بنیاد پر اگر ایک آدمی زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اور اس کے معنی کا ظاہر اور باطناً التزام نہیں کرتا یعنی اللہ کی عبادت میں ایک سمجھنا اور اس کے علاوہ معبدوں کا انکار کرنا تو اس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا وہ اقرار نہیں کیا جو

آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر یہ کہہ کے میں اللہ کو عبادت میں باطنی قلبی طور پر ایک سمجھتا ہوں لیکن ظاہر میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں رکوع، سجدہ، روزہ، نذر، ذبح، دعا، فریاد، اطاعت، تحکم وغیرہ جو بھی امور ظاہر اور عملًا عبادت میں شامل ہیں۔ پھر (کہے کہ) میں باطن میں طاغوت کا انکار کرتا ہوں مگر دنیا کی خاطر اور دیگر کچھ مقاصد کے لیے اور ظاہر میں طاغوت کی طرف مائل ہوتا ہوں اور مسلمانوں کے خلاف اس سے دوسرا کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں اس کے دشمنوں اور مخالفین کے خلاف جسمانی و عملی طور پر طاغوت کی مدد کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے نزدیک یہ ایسا مسلمان ہے جو جنت میں جائے گا اور اس کو نبی ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے یعنی کہ ایسا شخص موحد مسلمان ہے تو پھر آپ نے اختلاف و جھگڑے کا قضیہ ہی ختم کر دیا اور ہم سمجھ گئے کہ آپ لوگ کون ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ ہم آپ سے کہیں گے کہ مبارک ہو جنم کوبت پرستوں کو، طواغیت کو انہیں آپ جیسے لوگ مل گئے۔ اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہے یعنی ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے بلکہ جس شرک اور کفر کا اظہار اس نے کیا ہے اس کی وجہ سے یہ کافر اور مرتد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے اسے کافر قرار دیدیا، الا یہ کہ آپ ظاہری عمل کو کفر کا سبب و عملت قرار دیں۔ معلوم ہوا کہ ”الا اللہ“ کی گواہی آپ کے اس دعویٰ کے بطلان کی واضح ترین دلیل ہے جس طرح کہ باطن کا شرک و کفر ہوتا ہے اسی طرح ظاہر کا کفر و شرک بھی ہوتا ہے۔ مگر آپ لوگوں کی بصیرت و بصارت چھوٹی ہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ توحید، دل، زبان اور عمل کا نام ہے اگر تینوں میں سے ایک بھی کم ہوا تو آدمی مسلمان نہیں رہتا اگر توحید کو پہچان لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ کافر، عنادر کھنے والا ہے بلیں کی طرح ہیں۔ (مجموعۃ التوحید: 83)

سید قطب رحمۃ اللہ علیہ (ظلال القرآن: 1106) میں لکھتے ہیں: درحقیقت موجودہ دور میں اسلامی

تحریکوں کو جن بڑی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کے اندر مسلمانوں کے گروہوں میں جو نظر آتا ہے اور ملکوں میں کہ ایک وقت تھا یہ دارالاسلام تھے ان میں اللہ کے دین کا غالب تھا شریعت کی حکمرانی تھی۔ پھر یہی زمین ہے یہی مسلم اقوام ہیں کہ اسلام ان سے رخصت ہوا صرف اس کا نام رہ گیا۔ اسلام کی بنیادوں کو اعتقاداً عملاً اجنبی بنا دیا گیا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان ملکوں اور قوموں نے اسلام کو دین کے طور پر اپنارکھا ہے تو اسلام تو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کا نام ہے اور یہ گواہی عقیدے میں نظر آتی ہے کہ اللہ ایک ہے خالق ہے اس دنیا میں تصرف کرنے والا ہے اللہ اکیلا ہی جس سے لوگ قوانین لیتے ہیں اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں۔ اگر کوئی شخص اس طریقے پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی نہیں دیتا تو اس نے گواہی دی ہی نہیں اور اب تک اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا چاہے اس کا نام ولقب کچھ بھی کیوں نہ ہو خاندان کوئی سابھی ہو؟ جس زمین پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی اس طرح متحقق و ثابت نہ ہو تو وہ زمین و علاقہ اللہ کے دین کو اپنانے والا نہیں ہے اور اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ آج دنیا میں لوگ ہیں قومیں ہیں ان کے نام مسلمانوں کے ہیں و مسلمان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں کچھ ممالک ہیں جو کسی دور میں دارالاسلام تھے لیکن اب وہ قومیں نہیں ہیں جو اس طریقے پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی دیتی ہوں۔ اور نہ وہ ممالک ہیں جو اس طریقے پر اللہ کے دین کو اپناتے ہوں۔ یہ سب سے بڑی اور سخت مشکلات ہیں جو ان ممالک میں آج مسلم تحریکوں کو درپیش ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو مشکل ہے وہ یہ کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے مطلب میں تلمیس، پیچیدگی اور الجھن پیدا کی گئی ہے اور دوسری طرف اسلام کے مفہوم و مطلب میں بھی ایسا کیا گیا ہے شرک کے مفہوم اور جاہلیت کے مفہوم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ایک اور مشکل جو ان تحریکوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ صالح مسلمان مشکلوں کے طریقوں کی وضاحت نہیں کرتے۔ ان کے ناموں اور صفات کے ساتھ التباس رکھتے ہیں یہ التباس و مشابہت اتنی ہے کہ فرق نہیں کیا جا سکتا اسلامی تحریکوں کے دشمن اس نقاب

وسرنگ سے واقف ہیں لہذا وہ مسلسل اس میں مزید توسعہ کر رہے ہیں اور یہ تلبیس و تخلیط بڑھا رہے ہیں یہاں تک کہ (ایک وقت آئے گا) حق کی بات کرنا یا انصاف کی بات کرنا قابل سزا جرم بن جائے گا..... مسلمانوں کی تکفیر کا سبب بن جائے گا اسلام اور کفر کے مسئلہ میں مر ج لوگوں کا رواج اور ان کی اصطلاحات بن جائیں گی اللہ اور اس کے رسول کا قول نہیں اسلام اس لچک یا اس خلط و ملاوٹ کے ساتھ نہیں پایا جاسکتا جس طرح کہ بعض فریب خورہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اسلام واضح چیز ہے اور کفر واضح ہے اسلام نام اس مذکورہ طریق پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کا جو اس طریقے پر گواہی ندے اور زندگی میں اس نجح پر قائم نہ رہے تو اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ کافر، ظالم، فاسق اور مجرم ہیں۔

سامی: (دلیل دیتے ہیں): ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ ﴾التحلیل: ۱۰۶﴾ ”جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے عکرہ کے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔“ مگر جس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف مجبور کو مستثنی کیا ہے۔ جو شخص مجبور نہیں ہے اگر غور کریں تو وہ حلال سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو وہ صراحتاً کفر کی وجہ سے کافر ہے۔

البانی: یہ آیت آپ کے خلاف دلیل ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ شرح صدر کی وجہ سے غور کریں تو وہ کفر جانتا ہے اور اس پر مطمئن ہے۔ آپ کو چاہیے کہ نصوص کو سمجھنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیں کیا آپ نے آیت میں موجود یہ نکتہ سمجھا ہے کہ ”شرح صدر“ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔

ابو بصیر: پوری آیت اس طرح ہے:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ
وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ (النحل: ١٠٦-١٠٧)

جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو (کفر پر زبردستی) مجبور کیا گیا ہوا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جو (دل سے اور) دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہو گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض پسند کر لیا اور اللہ کا فرقہ کو ہدایت نہیں کرتا۔

یہ آیت شیخ کے خلاف جستہ و دلیل ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے بھی بغیر اکراہ کے صراحت کے ساتھ کفر کر لیا وہ کافر مرتد ہے اور اس نے کفر کے لیے شرح صدر کر لیا ہے۔ قطع نظر اعتقد قلبی اور استھنال قلبی کے، آیت کی تفسیر میں علماء کے اقوال پیش خدمت ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 220/7) میں لکھتے ہیں: اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے ﴿وَلَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا﴾ ”جس نے کفر کے لیے سینہ کھول دیا۔“ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ پہلے جملے کے موافق ہے یعنی جس نے بغیر اکراہ کے کفر کیا اس نے شرح صدر کیا کفر کے لیے۔ اگر یہ مطلب نہ لیا جائے تو آیت کے اول و آخر کے مابین تعارض لازم آئے گا۔ اگر یہ مراد ہوتا کہ جس نے کفر کیا ہے وہ شارح صدر ہے اور یہ بلا اکراہ کے ہوتا تو اکراہ کو مستثنی نہ کیا جاتا بلکہ مکرہ وغیر مکرہ سب کو مستثنی کیا جاتا اگر اس نے شرح صدر نہ کیا ہوتا جب کلمہ کفر بغیر اکراہ کے مرضی سے کہا تو یہ شرح صدر کیا۔ ایک اور جگہ (560/7) فرماتے ہیں: اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوا اور اس کے لیے آخرت کی وعدید کا بھی ذکر کیا پھر فرمایا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ ”یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کو

آخرت کے مقابلے میں پسند کیا۔“ اللہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ اس وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قدریق، تکنذیب، علم اور جہل وغیرہ حب و بعض محبت و نفرت کے باب سے نہیں ہیں یہ لوگ جو جنم کا قول اپنائے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ ان کے دلوں سے قدریق اور ایمان ختم ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس خاتمه کا سبب آخرت کے مقابلے پر دنیا کی محبت تھی ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کفار میں سے مکرہ کو استثناء کیا ہے اگر کفر صرف دل کی تکنذیب سے ہوتا تو پھر مکرہ کو مستثنی نہیں کیا جاتا اس لیے کہ دل پر اکراہ ناممکن ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کفر یہ بات کرے بغیر اکراہ کے یہ کفر ہے۔ ﴿وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا﴾ جو اللہ کا فرمان ہے یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر اسی سے متعلق نبی ﷺ کا فرمان ہے: آدمی صح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا۔ شام کو مسلمان ہوگا صح کافر ہوگا۔ اپنادین دنیاوی مقصد کے لیے فروخت کرے گا۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان لوگوں میں سے اللہ نے صرف اس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کافر شمار ہوگا چاہے یہ کفر اس نے خوف سے کیا ہو۔ کسی کے لحاظ میں، وطن کی محبت، گھر والوں کی محبت، خاندان یا مال کی محبت میں کیا ہو یا ماقی میں کیا ہو یا کسی دیگر مقصد کے لیے کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا تو اس آیت میں صراحت کی گئی کہ یہ کفر اور عذاب اعتقاد، جہل یاد دین سے نفرت کفر کی محبت کی نہیں اس نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا جو اپنے دین سے پھر گیا وہ کافر ہو گیا چاہے اس کے پاس غدر ہو اپنی جان کے خطرے کا یامال والیں کے خطرے کا چاہے کفر باطن سے ہو یا ظاہر سے کیا ہو باطن سے نہ ہو۔ اپنے فعل سے کیا ہو یا قول سے یادوں سے۔ چاہے دنیا میں مشرکین سے کچھ

فائدہ حاصل کرنے کی امید والجی میں کیا ہو تمام حالات میں کافر ہے سوائے مکرہ کے ہماری لغت میں مکرہ کا معنی ہے غصب شدہ اگر دل سے بھی ان کی موافقت کی تو کافر ہے اگرچہ مکرہ ہو۔

(مجموعہ التوحید)

ابن اعرابی رضی اللہ عنہ (کتاب الاحکام: 3/1178) کہتے ہیں: ہمارے محققین علماء نے کہا ہے جب اکراہ کے تحت کفر یہ تلفظ کرنا پڑ جائے تو اس کی زبان سے سوائے توریہ کے کچھ نہیں نکلنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ بھی کافر ہو گا صحیح مذہب یہی ہے توریہ پر بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا خور کریں کہ اکراہ کے تحت کفر یہ تلفظ بغیر توریہ کے جائز نہیں ہے تو جو شخص بغیر اکراہ کے صراحتاً کفر یہ الفاظ کہے تو بدرجہ اولیٰ کفر واردہ ادا کا مستحق ہے۔ ان تمام گزشتہ باتوں سے دور حاضر کے چھمیہ کی غالطی واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے جو آیت میں مذکور کفر سے مراد قبیل کفر لیتے ہیں۔ (یعنی کلمہ کفر سے مراد)

محمد شقرہ کی مداخلت

شقرہ: شیخ اگر اجازت دیں تو میں اختصار کے ساتھ اس مسئلہ میں کچھ کہوں۔؟
البانی: کیوں نہیں؟ کہوں۔

شقرہ: اگر ہم ایک سوال کریں اور اسے لوگوں میں پھیلادیں تو تمام لوگوں کے ہاں اس کا جواب آ جائے گا پھر ہم سلبی جواب ایجادی سے الگ کر دیں گے اور پھر دونوں میں موازنہ کر لیں گے۔ سوال یہ ہو گا کہ ”جو مسلمان ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اور اس سے کوئی ایسا عمل (یا قول) سرزد ہو جاتا ہے کہ جس پر کفر ظاہری کا حکم لگایا جاتا ہے تو ایسے مسلمان کی تکفیر کا کیا فائدہ و نتیجہ ہے۔؟

ابو لصیمی: جو توحید کا مظاہرہ کرنے کے بعد شرک و کفر کا مظاہرہ کرے تو یہ آدمی دو متفاہد چیزوں کا متحمل ہے ایک ہی وقت میں ایسے آدمی کو مسلمان کہنا یا اس کے اندر اسلام کی موجودگی فرض کر لینا

جانز نہیں ہے جہاں تک تکفیر کے فائدے کی بات ہے جس کی اہمیت وفادیت کم کرنے کے لیے یہ شخص مسلسل بول رہا ہے تو پہلے گزر چکا کہ تکفیر اللہ کا ایسا شرعی حکم ہے جس سے مفر نہیں ہے اس کے اقرار کے بغیر چارہ نہیں جبکہ اس کے اسباب و دواعی بہت ہیں مگر بغیر کسی اعتراض و استہانت کے حکم شرعی پر عمل کرنا ضروری ہے تکفیر کے ایسے نتائج یقیناً ہیں کہ جن کی بنا پر کردار عمل کا مدار ہو ایسا کردار جو شرعی نصوص سے ثابت ہے۔ کتب فقہ میں اس کی وضاحت موجود ہے حسب استطاعت اس حکم شرعی (تکفیر) کو قائم کرنا اس کی پیروی کرنا واجب ہے۔ صرف تکفیر کوئی کام نہیں ہے ایسا کام کہ جس کا مقصد غرض نہ ہو یا جو چاہے اپنی مرضی سے تکفیر کرے جیسا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں۔

شقرہ: میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دقيق فہم کا تقاضا کرتا ہے۔

ابو بصیر: جب سوال دقيق فہم کا متقاربی ہے تو پھر آپ اسے عوام میں کیوں پھیلانا چاہتے ہیں عوام سے کیوں رائے طلب کر رہے ہیں؟

شقرہ: جہاں تک میرے پاس اس سوال کا جواب ہے تو میرے خیال میں فائدہ جو اس سوال پر مرتب ہو گا وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو سب سے پہلے اس پر اکتفا کرنا ہو گا اگر آپ کہتے ہیں کہ شرہ یہ ہے کہ میں اسے کافر کہوں جب کفر کا حکم اس پر لگادیا تو کافی ہے۔ کفر کے اس حکم کے بعد کیا باقی رہا؟ کچھ بھی نہیں۔

ابو بصیر: موحد مسلمان کے بارے میں جو موقف ہے کیا وہی موقف مشرک کافر کے بارے میں بھی ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ دونوں میں فرق ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ تکفیر کے بعد بھی بہت کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ علم کا دعویدار سمجھتا ہے کہ صرف تکفیر ہے اس۔

شقرہ: خاص کر جس دور میں ہم ہیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں حق کی طرف رہنمائی کریں تاکہ وہ اتباع کر سکیں۔

ابو بصیر: لوگوں کے سامنے حق واضح کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نیکو کار مسلم کو مسلم نہ کہیں اور کافر گناہ گار کو کافرنہ کہیں بلکہ حق کی راہ بتانے میں سب سے اہم یہی ہے کہ مجرمین کے راستے کی نشان دہی کی جائے مجرمین کی صفات لوگوں کے سامنے لائی جائیں تاکہ وہ ان سے اجتناب کریں حق اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا، جب تک اس کی متفاہ چیز نظر وہ کے سامنے نہ ہو جو شخص شرک و مشرکین کو نہیں جانتا وہ تو حیدر اور موحدین کو نہیں جان سکتا۔ جو شخص کسی بات سے بے خبر ہو اس کا اس میں مبتلا ہونا زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَكَذِلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَيِّلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ال الانعام: ٥٥﴾ اور اس طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ لہذا مشرکین مجرمین کے راستے کی وضاحت اس کے تمام شعبوں مذاہب کے ساتھ اچھی طرح کرنی چاہیے اس پر قرآن نے بہت زیادہ توجہ دی ہے اور کیوں نہ ہو یہ اس تو حیدر کی وضاحت کی شرط ہے۔ جسے محمد ﷺ کو دے کر اللہ نے بھیجا اور کتاب میں نازل کیس مخلوق کو پیدا کیا۔

شقرہ: تاکہ ہم لوگوں کو کفر کے دائرے سے نکال کر اسلام کے دائرے میں داخل کر دیں۔

ابو بصیر: آپ جو لوگوں کو کفر کے دائرے سے نکال رہے ہیں تو کیا یہ لوگ آپ کے نزدیک کافر ہیں جبھی آپ انہیں کفر کے دائرے سے نکال رہے ہیں؟ یا آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن کا معنی خود بھی نہیں جانتے؟ جبکہ آپ تو فصح بلغ آدمی ہیں میر انہیں خیال کہ لوگوں سے مراد آپ کی وہ لوگ ہیں جو جاپاں یا چین میں ہیں یا ان سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں تو پھر آپ کس طرح ان کو دائرہ کفر سے نکال کر دائرہ ایمان میں لاٹیں گے؟ جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کفر اور کافروں اور تکفیر کے بارے میں بولنا فضول کام ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔

شقرہ: جس جواب کی ہمیں توقع ہے کہ اس سوال کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا تو ہم اس کا جواب یہ

دیں گے کہ ہم پر اس آدمی کا قتل واجب ہو گا جو ہمارے اس سوال جواب کی وجہ سے کافر قرار پائے گا۔

ابو بصیر: پہلے گز رچکا کہ دین سے مرتد کا قتل واجب ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) ”جس نے اپنا دین بدل دیا اسے قتل کر دو۔“ لیکن تکفیر کے مقاصد صرف قتل نہیں۔ جیسا کہ یہ التباس پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے بلکہ اس کے مقاصد میں سے مدد، دوستی اور دشمنی ہیں۔ یہ مقاصد نسل، شادی میراث اور ولایت سے متعلق ہیں ان کے علاوہ بھی احکام ہیں جو مرتد اور کھانے سے ہیں مرنے کے بعد دفن ہونے سے متعلق ہیں اس کے علاوہ بھی احکام ہیں جو مرتد اور تکفیر صرف قتل ہے یا صرف تکفیر ہی ہے۔

شقرہ: میرے خیال میں دوسری شق یا دوسرا جواب ہمارے اس زمانے میں بے کار ہے۔

ابو بصیر: کافر مرتد کے قتل کی بات کرنے کو عبتوں بے کار کہنا دراصل اللہ کے حکم کو بے فائدہ قرار دینا ہے (نعوذ بالله) اور ایک لحاظ سے یہ اللہ کے حکم سے انکار نہ اپنندیدگی ہے کہ اللہ کا حکم گویا ہمارے زمانے کے موزوں نہیں ہے یہ حکم مطلق ہے مگر اس شخص نے حاکم بغیر ما نزل اللہ کی تکفیر کو مشروط بنایا ہے جبکہ شیخ نے بھی کہا ہے کہ اگر حاکم یہ کہے کہ اللہ کا یہ حکم اس دور کے لیے موزوں نہیں ہے (تو تب حاکم کافر ہو گا) اور اب شیخ کا ساتھی کہہ رہا ہے اور ان کے سامنے یہی بات کہتا ہے اور شیخ اس کی تائید کرتے ہیں۔

شقرہ: ضروری ہے کہ ہم اس آدمی کے بارے میں ایک نقطہ نظر اپنائیں کہ اس پر کیا حکم لگایا جائے اور اسے کیونکر کافر کہا جائے؟

ابو بصیر: اس آدمی سے کیا مراد ہے اور اس کی کیاوضاحت کہ امت اس کے بارے میں غور کرتی پھرے اور اس کے بارے میں ایک نقطہ نظر اپنائے؟ پھر باقتوں میں یہ پیچیدگی اور الجھاؤ کس لیے

اختیار کیا گیا ہے؟ واضح بات کہنے سے کیوں خوفزدہ ہیں کہ آپ لوگ طاغوت کا نام لیں اور اس کا دفاع کریں۔؟

شقرہ: ضروری ہے کہ جواب دینے سے قبل ٹھہر جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تکفیر کا کوئی عملی فائدہ معاشرے کی اصلاح میں ہے تو ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ کیا آپ کوئی معلوم کہ تکفیر سے لوگوں کو کافر قرار دے کر اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے۔؟

ابو بصیر: ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بحصہ و پیچیدگی کیوں ہے؟ کیا آپ لوگوں میں اس وقت بھی کفر کے حکم لگانے کی جراءت نہیں ہے کہ آپ کی شرائط بھی پائی جاوی ہیں؟ جو ہمیوں کی طرح ہیں؟ اس حد تک آپ کی پرہیز گاری اور تقویٰ پہنچ گیا ہے؟ پھر آپ کے پاس کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ سے کیا دلیل ہے؟ کہ تکفیر کے لیے شرط ہے کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہو؟ اس غریب منفرد اور شاذ قول کو امت کے سلف میں سے کس نے اپنایا ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کافر کی تکفیر نہ کرنا یا اس کے کفر میں شک کرنا خود کفر ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کو رد کیا جاتا ہے اور اسے جھٹلا جاتا ہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اسلام کے بڑے نواقض و منافی امور دس ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص مشرکوں کو کافرنہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے۔ یا ان کے مذہب کو صحیح کہے۔ ایسا آدمی بالاجماع کافر ہے۔ اب خود کو دیکھیں کہ آپ اللہ کے دین کے بارے میں کہاں کھڑے ہیں؟ کہ آپ طواغیت کفر و شرک کی تکفیر سے رک گئے ہیں یا ان کے کفر میں شک کرتے ہیں؟

شقرہ: صحیح نقطہ نظر اپنا ضروری ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اچھے لوگ ہیں تاکہ ہم انہیں اندر ہیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔

ابو بصیر: ہم اس گمراہ اور گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تکفیر شرعی حکم ہے یہ کسی کی مرضی کے

تابع نہیں ہو سکتا ہی زمانے اور حالات کے تابع ہو سکتا ہے۔ کہ آپ اس میں صحیح نقطہ اپنا میں یا نظر یہ تبدیل کر دیں اور اپنی طرف سے کوئی اور حکم لا میں۔ جیسا کہ یہود نے کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے بد لے اپنی طرف سے اپنی مرضی کا حکم لے آئے تھے اپنے لیڈروں اور طواغیت کی پسند کا خیال کرتے ہوئے۔ اللہ کی قسم اگر شیخ کا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہوتا اور تمہاری بات کی شیخ تائید نہ کرتے تو ہم بلا کسی لحاظ کے کھل کر تمہاری تردید کرتے۔

شقرہ: جب آپ حکام کی بات کرتے ہیں تو حکام تو بہت تھوڑا اطباق ہے؟

ابو بصیر: اگرچہ کم گروہ ہے لیکن امت کو جو ذلت و رسوانی ملی ہے وہ انہی کی وجہ سے ملی ہے یہ اس کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے: تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بڑا امام جو تمام لوگوں پر (حکومت کرتا) ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا سے متعلق ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے۔ فرمان ہے: اللہ جس بندے کو کوئی ذمہ داری عوام کی دیدیتا ہے اور وہ اس کو خیر خواہی کے ساتھ نہیں نجھاتا تو وہ جنت کی خوبی سے محروم رہے گا فرماتے ہیں: جو شخص مسلمانوں کا حکمران ہو اور وہ اس حالت میں مرجائے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہو تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی (یہ سب حدیثیں متفق علیہ ہیں) یہ تو مسلمان حکمرانوں سے متعلق احادیث ہیں اور یہ جو کافر طواغیت ہیں تو ان کا شرعاً در خطرہ امت کے لیے اور زیادہ ہے کسی مسلمان حکمران کی بنسبت۔

شقرہ: کل میں ایک عام جلسہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جس حالت اکراہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ کسی ایک فرد سے متعلق نہیں ہے بلکہ امت ساری ہی مجبور و حالت اکراہ میں ہے۔

ابو بصیر: اب معلوم ہوا کہ یہ شخص طواغیت کے حکم کو حالت اکراہ میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے کفر و سرکشی کو جواز فراہم کرے اور مشرق و مغرب کی دوستی، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کو جواز

فراءہم کرے۔ اور وہ جو فتنہ کفر و نافرمانی کو عام کر رہے ہیں اسے صحیح کہا جاسکے اس لیے کہ ان سب کاموں کے کرنے پر وہ مجبور ہیں لہذا اکراہ کا ان کے پاس عذر ہے یہ بہت ہی زیادہ باطل قول ہے کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس میں ذرا سما بھی علم، تقویٰ اور فقاہت و سمجھ نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت اسی ذلت و پسقی میں پڑپڑی رہے اور اب دین کی طرف سے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے اسے نبھانے کی کوشش نہ کرے۔ اور جو بھی کفر ہو رہا ہے اس کو اکراہ سمجھ کر برداشت کرتی رہے۔

شقرہ: ایسا کون ہے جو اس وقت کہ جب دشمنان اسلام کہہ رہے ہوں مسلمانوں سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور تم سے امید رکھتے ہیں کون ہے جو کہہ سکے کہ ہم نہیں کرتے (تمہاری بات نہیں مانتے) ایسا کوئی نہیں ہے۔ (جو دشمنان اسلام کی بات سے انکار کر سکے)

ابو بصیر: اس سوال کا مطلب و نتیجہ یہ ہے کہ جب کفار امت مسلمہ سے چاہے حاکم ہیں یا مخلوق یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر دو اور اس کے علاوہ بتوں و طاغوتوں کی عبادت کرو اور اپنے ملکوں کو ہمارے مفادات کے لیے ہمارے کفر، فتنہ و فجور کے لیے میدان بنادو، تو امت پر لازم ہے کہ وہ فوراً ہاں کدے۔ تسلیم کر لے۔ اس لیے کہ امت میں اب اتنی کثیر تعداد کے باوجود کوئی نہیں ہے جو انکار کر سکے۔ اس لیے سب حالت اکراہ میں ہیں اور یہ عذر ہے جیسا کہ یہ گمراہ شخص (شقرہ) سمجھتا ہے۔ کیا اس گمراہی پھیلانے، فساد برپا کرنے والے۔ ذلت و پسقی کا پر چار کرنے والے کی بات آپ نے سنی جو دین کی ترقی و بلندی کے باوجود اس پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ کیا اس گمراہ آدمی کی بات کی طرح دین اور امت واقعی ایسے ہو گئے ہیں۔؟ یہ گمراہ آدمی اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دے گا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے وجود میں لا یا گیا ہے تم نیکی کا حکم کرو گے
برائی سے منع کرو گے اور اللہ پر ایمان لاوے گے۔

فرماتا ہے:

وَلَسْكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ۱۰۴)

تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے
روکے اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔

فرمان ہے:

اتَّخَشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (التوبہ: ۱۳)
کیا تم ان (کافروں) سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم
مؤمن ہو۔؟

فرماتا ہے:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنِ (المائدہ: ۳)
آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔

حدیث میں آتا ہے: عبادہ بن صامت رض کہتے ہیں: ہم نے رسول ﷺ کی بیعت کی اس بات
پر کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی قسم کی ملامت سے نہ ڈریں
گے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طائفہ منصورہ موجود
رہے گا جو دشمن پر غالب ہو گا اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ کے بارے میں کسی قسم کی ملامت کا
خوف اسے نہیں ہو گا۔ ایک طرف یہ ثابت شدہ نصوص ہیں اور دوسری طرف اس گمراہ کرنے
والے کا قول ہے۔ کیا طاغوت کی طرف جھکا ہے اور ان کے دفاع کی محبت نے اس کی بصارت

و بصیرت دونوں چھین لی ہیں۔؟ پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہوا ملت کے لیے کفر کی طرف پلٹنا اور ذلت و رسالت کو اختیار کرنا جائز ہے؟ کہ پورا معاشرہ ایسا ہو جائے اور پھر اسے اکراہ کا اعذر بنائے؟ حدیث میں آتا ہے: جب نبی ﷺ نے انصار سے نصرت، اطاعت اور دفاع پر بیعت لی تو اسعد بن زرارہ نے اہل شریف سے کہا سنواں کے ساتھ نکلنا تمام عربوں سے ناطہ توڑنا ہے اور بہترین لوگوں کا قتل برداشت کرنا ہوگا اور تلواروں کا سامنا کرنا ہوگا اگر ان بالتوں کے لیے تیار ہو تو اس کا ہاتھ تھام لو تمہارا اجر اللہ پر ہے اور اگر تم دلوں میں خوف محسوس کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور اسے بتا دو یہ اللہ کے ہاں تمہارا اعذر ہوگا۔ (احمد)

بہت سے عرب قبائل نبی ﷺ کی تابعداری سے صرف اس لیے رک گئے تھے حالانکہ وہ آپ ﷺ کی صداقت کے قابل تھے کہ انہیں لوگ اپنی زمینوں اور گھروں سے نکال دیں گے۔ مگر یہ بھی ان کی تکفیر کے مانع نہیں ہوا اور نہ انہیں گناہ کا رقرار دینے میں۔ اسی طرح یہود کے ایک گروہ کا واقعہ گز رچکا ہے جنہوں نے نبی ﷺ سے نوشاہیوں کے بارے میں پوچھا جب آپ ﷺ نے جواب دیا تو انہوں نے آپ ﷺ کے قدم چوم لیے اور آپ ﷺ کی دعوت کی تصدیق کی مگر یہود کے انتقام کے خوف سے آپ ﷺ کی اطاعت نہیں کی۔ اس کے باوجود کافر قرار پائے۔ لوگوں سے خوف ان کی تکفیر کے مانع نہیں بنا اور تابعداری نہ کرنا ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ خوف اور اکراہ میں فرق ہے وہ اکراہ جس کی بنا پر چند لمحوں کے لیے کفر کا اظہار جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جب کفار نے انہیں مجبور کیا کہا تھا کہ اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی ویسا ہی کرنا مگر نہیں کہا کہ ان کے کرنے سے پہلے ہی تو ایسا کر۔ اسی طرح کفار نے مسلمانوں شعبابی طالب میں محصور کیا تھا اور یہ محاصرہ تین سال تک رہا اس دوران مسلمان بھوکے پیاسے پر بیشان حال رہے مگر اس کے باوجود نبی ﷺ نے مسلمانوں کو کلمہ کفر کہنے کی رخصت نہیں دی تاکہ ظالم کافروں کے ظلم میں کچھ کمی ہو سکے۔ اور اس

کو اکراہ بھی قرار نہیں دیا جس کی وجہ سے کفر کا اظہار جائز ہوتا ہے۔

شقرہ: یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بات آپ اپنے گھر میں یاد و ستوں کے درمیان تو کہہ سکتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجبور ہیں حالت اکراہ میں ہیں کسی چیز کے قبول کرنے یا ترک کرنے پر مجبور ہیں۔

ابوبصیر: جب آدمی اس اکراہ و مجبوری کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے علاوہ لوگوں میں عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتا تو یہ لوگ آپ کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام جو اس طرح کا خوف وہ راس پھیلاتے ہیں اور قوموں کو مجبور قرار دیتے ہیں جو طاغوتی حکمران ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں وہ کافر مغربی ملک نہیں ہے جہاں مسلمان اپنے عقیدے اور دعوت کی اتنی آزادی پاتا ہے جو سے اپنے ملک میں سرے سے میسر ہی نہیں ہے۔

شقرہ: ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ میں اب سوال کرتا ہوں کہ جس آدمی پر کفر کا حکم لگ گیا اور ہم نے اسے اعتقادی کافر قرار دیدیا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟

ابوبصیر: خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی جواب دے رہا ہے گویا خود ہی یہ شک اور شش و ثغیث میں مبتلا ہے کہ جسے اعتقادی طور پر کافر کہا جائے اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جس کے بارے میں جہنم کا حکم لگایا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ کفر کی شرعاً اس میں پوری ہوں۔ اسکے علاوہ جو ہے تو یہ اللہ پر بغیر علم کے بولنا ہے۔

شقرہ: سامی تم نے کہا تھا کہ کفر عملی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جس پر حکم لگایا جائے گا کہ یہ کفر ارتداد ہے عقیدتاً اور دوسری قسم ایسی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میں جو چاہیں مثال دیں اور تعریف کریں کہ آپ کس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کفر عملی کی وجہ سے اعتقادی کافر بن گیا ہے۔ شیخ ناصر نے مداخلت کی کہ اس کا عکس والٹ بتاؤ۔

ابو بصیر: یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل دی جائے کہ جس نے اعتقادی کفر کیا تو اس نے عملی کفر بھی کیا اس کا فائدہ (انہیں یہ ہوگا کہ یہ ثابت ہوگا کہ) ملت سے خارج کرنے والا کفر اعتقادی کفر ہوتا ہے جو عمل کے بغیر ہوتا ہے اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات شیخ نے بار بار دھرائی ہے۔ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں یہ زبان کی لغزش اور بغیر قدم واردہ کے بات نہیں ہے اس باطل قول پر رد پہلے گزر چکا ہے دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔

سامی: جو شخص اللہ کے دین کے بد لے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین لاتا ہے یہ کفر اکبر ہے اور یہی عمل ہے۔ (عملی کفر)

شقرہ: یاد رکھیں کہ آپ نے کہا ہے کہ بد لے میں قوانین لاتا ہے۔

سامی: یہی بات ہے اب یہ (طاغوتی حکمران) اللہ کی شریعت کے بد لے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین لائے ہیں یا حکم بغیر ماذل اللہ اور یہ عمل ہے ہم اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ ملت سے خارج کرنے والا عمل ہے جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

ابو بصیر: شقرہ نے سامی کی بات کاٹ دی اور اس مسئلہ میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر کے بات پوری کرنے نہیں دی گئی۔

شقرہ: بات کو بڑھاؤ اور پھیلاؤ مت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس نے اللہ کے دین کو کفر کے نظام سے بدل دیا اب آپ سے سوال ہے کہ جو اس کے ظاہری عمل میں اس کی موافقت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

سامی: اگر وہ راضی ہے۔ (اس کے ظاہر کی موافقت مرضی سے کرتا ہے۔)

ابو بصیر: اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ جو کفر یہ نظام پر موافقت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ احکام کا مدار ظاہر پر ہے باطن پر نہیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ چاہے ظاہر و باطن

میں موافقت ہو یا نہ ہو بحث کرنے والے کو یہ مناسب نہیں کہ ایک بات کا فیصلہ ہوئے بغیر دوسری طرف جائے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو بدل دینے والے کافر ہیں یا نہیں؟ ایک بات کا فیصلہ ہوئے بغیر دوسری طرف چھلانگ مارنا دراصل بھاگنے اور جان چھڑانے کی دلیل ہے۔

شقرہ: یہ کہیں کہ وہ راضی ہو۔

سامی: کس طرح کی موافقت ہوگی؟

شقرہ: اب ایک آدمی اللہ کے دین کے مقابلے میں کفر کا نظام لایا اور کسی نے اس کی موافقت کی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟

سامی: اگر اکراہ کے بغیر (موافقت کی ہے) تو کافر ہے۔

شقرہ: اچھا یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ وہ مجبور و مکر نہیں ہے؟

سامی: اس کے طور طریق سے۔

شقرہ: اب پوری امت جو ہے کیا اور سے نیچے تک تلاش کر کے بتاسکتے ہیں کہ کون ان میں سے مجبور ہے اور حالت اکراہ میں ہے اور کون نہیں ہے؟ کس پر کفر کا حکم لگے گا (کہ وہ حالت اکراہ میں نہیں) اور کون حالت اکراہ میں ہے۔ (کافرنہیں)

ابوبصیر: تلبیں تفصیلیں ہے یہ کہ دو باتوں کو باہم خلط کر دیا ہے ایک یہ کہ اکراہ مانع تنفیر ہے اور دوسری بات یہ کہ لاکھوں افراد کو معمین کر کے معلوم کرنا کہ وہ حالت اکراہ میں ہیں یا نہیں ایک آدمی پر یہ ذمہ داری ڈالنا کہ وہ لاکھوں کروڑوں افراد میں سے معلوم کرے کون مجبور ہے کون نہیں یہ طاقت سے زیادہ ذمہ داری ہے بلکہ ایک پوری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ کسی شخص پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس جاہل آدمی کا یہ سوال باطل و غلط ہے۔ اس کی مثال یوں

ہے کہ یہ زانی کے حد کے بارے میں سوال کرے اور پھر کہے کہ لاکھوں لوگوں پر یہ حکم کیسے لگایا جائے گا کہ کون زانی ہے؟ کیا کوئی عقلمند اس طرح کا سوال کر سکتا ہے؟ چجائیکہ ایک عالم یا طالب علم کرے؟ البتہ یہ بات ممکن ہے کہ ایک خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ کیا اس سے کفر صادر ہوا ہے تو وہ شریعت میں معتر اکراہ کے تحت ہے جیسے جیل، مار پیٹ، سزا وغیرہ جیسا کہ عمار بن یاسر رض وغیرہ کا معاملہ تھا یا اکراہ نہیں ہے۔ اگر ان حالات میں کفر سرزد ہوا ہے اور دل ایمان پر مطمئن تھا تو اکراہ کے مانع ہونے کی وجہ سے کافر نہیں کھلائے گا یہ جاہل اکراہ کے دائرے کو جو سبج کر رہا ہے کہ پوری امت حالت اکراہ میں ہے خوف و کمزوری کی وجہ سے اور ان جھوٹے اور خیالی باتوں کی وجہ سے امت کے لیے کفر و شرک کو جائز قرار دے رہا ہے اور حاکم و مکوم سب کے لیے اس حالت میں کفر و شرک کو جائز قرار دے رہا ہے اس میں وسعت دے رہا ہے کہ مسلمان کفر و شرک کریں اور پھر اکراہ کا اعذر پیش کریں تو یہ بات کہنا ایسی واضح گمراہی ہے جو پہلے کسی نے نہیں کی سوائے اس جاہل کے۔ اس بات کی دلیل کہ اکراہ مانع تکفیر ہے اللہ کا یہ فرمان ہے: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ اگر اس حالت اکراہ کی مکمل تصویر سامنے لانا ہو جو شرعاً مانع تکفیر ہے تو اس آیت کا شان نزول دیکھ لیں اور جنی حالات میں آیت نازل ہوئی ہے ان حالات پر نظر ڈال لیں۔ تمام مفسرین و علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت عمار بن یاسر رض کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں کفار نے نبی ﷺ اور کوگالی دینے اور ان کی شان میں گستاخی پر مجبور کیا تھا۔ عمار رض ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کے تھے انہوں نے اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے قتل کر کے جلا دیا اور اسے پانی میں ڈبو دیا تو اس نے ان کی خواہش کے مطابق کفریہ بات کہہ دی جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ اب عمار رض اور اس کو پیش آنے والے حالات کو دیکھیں اور ان جھوٹے اور خیالی باتوں پر غور کریں جنہیں دور حاضر کے جسمیہ اکراہ کو بنیاد بنا کر اچھا ل رہے ہیں۔ میخ بن معین رض خلق قرآن کے فتنہ کے دنوں

میں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے خود کو تقدیم کے ذریعے چھڑا لیا تھا۔ اور قرآن کو مغلوق کہا تھا۔ جب یہ امام احمد رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گئے اور سلام کیا تو انہوں نے سلام کے جواب نہیں دیا یہ مذدرت کرنے لگے اور عمار بن حینہ کی روایت پیش کرتے رہے اور ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْيَمَانِ﴾ پڑھ کر سنائی۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ میکی رضی اللہ عنہ نے کہا اذر بھی قبول نہیں کر رہے۔؟ جب میکی رضی اللہ عنہ چلے گئے تو احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کہا عمار بن حینہ کی حدیث سے دلیل دے رہے ہیں میں ان کے پاس سے گزر تو وہ تمہیں گالیاں دے رہے تھے میں نے انہیں کہا تو وہ مجھے مارنے لگے۔ اور تم کو صرف اتنا کہا کہ تمہیں ماریں گے اور تم لوگ رک گئے؟ میکی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ قسم میں نے روئے زمین پر تم سے برا فقینہ نہیں دیکھا جو دین کو سمجھتا ہو۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی بات کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت میں اکراہ نہیں ہے جب تک مشرکین تکلیف و سزا نہ دیں۔ (مجموعۃ التوحید: 242) میں کہتا ہوں: کہ اگر حکمی قتل اور مارپیٹ کی ہو تو یہ اظہار کفر کا جواز فراہم کرتی ہے اور یہ اکراہ شرعاً معتبر ہے۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہماری زبان میں مکرہ کہتے ہیں جو قبضے میں آ گیا ہو۔ اگر کسی انسان کو مجبور کیا جائے کہ کفر کرو رونہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا مارا پیٹا جائے گا یا مشرکوں نے اسے پکڑ کر مارا ہو ان کی بات مانے بغیر جان نہ چھڑائی جا سکتی ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ (مجموعۃ التوحید: 241)

سامی: میں کہتا ہوں اگر اقوام اب کفر کے نظام پر جو راجح ہیں راضی ہوں تو بنظر غالبہ دیکھا جائے تو کافر ہیں۔

شقرہ: تم نے تو واضح جواب دیدیا۔ اس وقت یہاں جو لوگ موجود ہیں کیا ان میں سے بتا سکتے ہو کہ کون مکرہ ہے کون نہیں۔؟

ابو بصیر: وہ لوگ مراد ہیں جو شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔

سامی: دراصل یہ لوگ ہمارے نزدیک اب مسلمان ہیں۔

شقرہ: بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میں سے مکرہ یا غیر مکرہ کو الگ الگ کر سکتے ہیں؟

ابو بصیر: اکراہ کی ظاہری کچھ علامات ہیں جو کسی پرمغزی نہیں مثلاً قید، مار پیٹ، سراء، اب ان لوگوں میں مکرہ کہاں ہے؟ یہ لوگ لذیذ فتنم کے کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوں ہو رہے ہیں جو اکراہ کفر کو جائز کرتا ہے اگر ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں فرض کر لیا جائے جو آرام و سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ عین گمراہی ہو گی کہ لوگوں اور طواغیت کے لیے اکراہ کے نام پر کفر کو جائز قرار دیا جائے۔

سامی: نہیں۔

ابو بصیر: صحیح جواب یہ تھا کہ ان لوگوں میں کوئی مجبورہ مکرہ نہیں ہے اگر صحیح اس کے خلاف ہوتا تو وہ آدمی سامنے آ جاتا جو مکرہ ہوتا اور جس میں اکراہ کی شرط موجود ہوتیں۔

شقرہ: تم ایسا نہیں کر سکتے، ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر یہ حکم لگایا جائے کہ یہ راضی ہیں اس نظام کو قبول کرنے پر اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں جس کا نظام کفریہ طاغوتی نظام ہے آپ وہاں پڑھنے پر اور اس نظام پر راضی ہیں اور جامعہ میں دیگر طلبہ (غیر مسلم یا لڑکیوں کے ساتھ) رہنے پر راضی ہیں۔ اور جو لوگ ظاہر اللہ کے دین کے منکر ہیں ان کی داڑھیاں منڈوانے پر راضی ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ پر حکم لگائیں گے۔

ابو بصیر: اس جاہل کو ہم کہتے ہیں کہ جامعہ کی جو مثال تم نے دی ہے وہ ایک سڑک کے کنارے ہے تو سڑک پر چلنے والوں کو بھی کہو گے کہ وہ اس جامعہ کے نظام پر راضی ہیں؟ اس کفریہ نظام کو

پسند کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سڑک پر چل رہے ہیں یا کھڑے ہیں؟ ان جامعات کی مثال تو دوکان کی سی ہے اس میں بہت سی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی ہے اگر ایک شخص اس دوکان سے ایسی چیزیں خریدتا ہے جو اس کی ضرورت ہے اور جائز ہے تو کیا ہم اس کو کہیں گے کہ تم اس دوکان میں رکھی ہوئی ناجائز چیزوں پر راضی ہو۔ اس لیے کہ اس نے انتہائی ضروری چیز خریدی ہے اس دوکان سے۔

سامی: میں راضی نہیں ہوں۔ (پسند نہیں کرتا جامعہ کے اس نظام کو)۔

شقرہ: میں پوچھتا ہوں تم اس نظام پر راضی ہو۔

سامی: نہیں میں راضی نہیں ہوں۔

شقرہ: تم کیسے راضی نہیں ہو کیوں اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟

ابوالصیر: پہلے گزر چکا ہے کہ صرف تعلیم حاصل کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ (یہ طلبہ) کفر پر راضی ہیں ان کو راضی بالکفر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جامعات (جن میں جو منکر و باطل چیزیں ہیں) ان کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کی چند وجوہات ہیں۔

① یہ تمام علوم کا منبع بن چکی ہیں مفید و غیر مفید کا، ان میں دینی شرعی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔

② ان کا کوئی دوسرا مناسب نعم المبدل نہیں ہے۔

③ کسی بھی کام کے لیے ان کی دی ہوئی ڈگری لازمی شرط ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کی امامت و خطابت کے لیے بھی شرط ہے وہ کسی یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہوا گرچہ اس سے بڑا عالم بھی موجود ہو مگر ترجیح جامعہ کی ڈگری کو دی جاتی ہے۔

④ ان سے مکمل طور پر کنارہ کش ہونا گویا علم سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور جمل کو اپنانا ہے

تو اُن میں پچھے رہ جانا ہے۔ جبکہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَاعْدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ال الانفال: ٦٠ ”ان (کافروں کے مقابلے پر) تیاری کرو جو بھی استطاعت ہو قوت میں سے۔“ نبی ﷺ کا فرمان ہے: قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ دیگر وہ احادیث جو علم کے حصول پر آمادہ کرتی ہیں۔

۵ تمام تر کفریہ و گمراہ کن نظام اور خرابیوں کے باوجود یہ معاشرے پر اثر انداز ہونے والے بنیادی ذرائع ہیں یہ منکروں کفر سے خالی نہیں ہیں۔ اگر ایجادی یا اسلامی موقف کی نشان دہی کی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ان جامعات میں اچھائیاں بھی ہی خرابیاں بھی ہیں۔ فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں۔ لہذا مصالح، و فوائد کو مدنظر رکھنا چاہیے خاص کر جس دور میں ہم ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں اور مراحل میں حرام سراحت کر گیا ہے۔

۶ مسلمان طالب علم کو اس کفر و منکر اور گناہوں کے گڑھ میں بھی جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر وہ ساری منکرات کو ختم نہیں کر سکتا تو بعض کو ختم کرنے سے بھی انکار نہ کرے۔ آسان کوشش کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا۔ جتنا کچھ کر سکتا ہے اگر اتنا نہیں کرے گا تو قابل ملامت و محاسبہ ہو گا۔ میرے نقطۂ نظر سے یہ مسئلہ اس بات کا مقاضی ہے کہ امت کے تمام معتبر علماء جمع ہوں اور اس خطرناک مسئلے کے مقابلے پر ایک متفقہ موقف اپنا کیں اور ان مرکز (جامعات) کا متبادل پیش کریں جو لوگوں کو طواغیت کی سیاست کے تابع کر رہے ہیں۔ یہ اہم ترین کام ہے اس میں سستی یا تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔

شیخ البانی کی مداخلت: رضا مندی قلبی ہے یا عملی، رضا کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں۔

ابو بصیر: استھان اور رضا کا مقام دل ہے اور اس پر دلالت کرنے والا ظاہر اور عمل ہے۔ جو ظاہر میں کفر پر راضی ہو تو اس کا دل اور باطن اس پر راضی ہے یہ ناممکن ہے کہ اس حال میں باطن ظاہر سے پچھے رہ جائے اگرچہ زبان سے دعویٰ کرے کہ میرا دل میرے ظاہر کے خلاف ہے۔ شیخ نے

رضامندی کو دو قسموں میں تبدیل کیا ہے ظاہر عملی رضامندی اس سے کافرنہیں ہوتا اور باطنی قلبی رضامندی اس سے کافر ہو جاتا ہے تو یہ ایسی تقسیم ہے جو پہلے کسی عالم نے نہیں کی اور نہ ہی اس پر کوئی شرعی دلیل ہے یہ بھی ایمان و کفر کے بارے میں جہنم کے عقیدے کی تائید ہے۔ اس بات میں درحقیقت شیخ کا مطلب اس شرعی قاعدے کا ابطال ہے جس پر نصوص موجود ہیں اور علماء امت نے اس پر اجماع کیا ہے (قادعہ یہ ہے) کہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةً اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَ
يُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَغُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ
إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفَّارِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

(النساء: ۱۴۰)

تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر یا استہزا کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ دیگر باتیں نہ شروع کر دیں (ورنه) تم بھی ان کی طرح ہو گے۔ اللہ منافقین و کافرین سب کو جہنم میں اکھڑا کرے گا۔

شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: آیت کا معنی وہی ہے جو اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سنے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر یا مذاق کیا جا رہا ہے اور منافقین و کافرین کے ساتھ بغیر اکراہ کے بیٹھا رہا اور جب تک وہ دیگر باتیں نہ کریں اس وقت تک ان کے ہاں سے نہ اٹھا تو وہ ان کی طرح کافر ہے اگرچہ وہ کام نہیں کیا جو وہ کر رہے تھے اس لیے کہ یہ ان کے عمل پر رضامندی کی دلیل (ان کے پاس بیٹھنے رہنا) اور کفر پر رضامندی کفر ہے اس جیسی آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہ پر رضامندی گناہ کی طرح ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس گناہ کو دل سے ناپسند کرتا ہے تو یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حکم ظاہر پر

لگتا ہے اور اس نے کفر ظاہر کیا ہے لہذا کافر ہے۔ (مجموعہ التوحید: 48)

اسی طرح کا قول قرطبی کا ہے (418/5) ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مُّتَّلِّهُمْ﴾ کی تفسیر میں لکھا ہے جو ان سے اجتناب نہیں کرتا وہ ان کے فعل کو پسند کرتا ہے اور کفر کو پسند کرنا کافر ہے۔ جو بھی شخص معصیت و کفر کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ان پر اعتراض نہیں کرتا تو ان کے ساتھ گناہ میں برابر ہے۔ اگر اعتراض کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے تاکہ اس آیت کے تحت نہ آئے۔ اس قاعدے کی تائید میں دلائل بہت زیادہ ہیں جس میں تفصیلیں و تلیپیں کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہم نے اپنی ”كتاب قواعد فی التکفیر“ میں لکھے ہیں۔

سامی: میں جواب دینا نہیں چاہتا۔

ابو بصیر: صحیح کہا سامی نے، ایسی مجلس میں دلائل دینے سے احتراز کرنا چاہیے جہاں ڈرانے والے لوگ ہوں بلکہ کہ اس ڈر کو من قرار دینے والے۔

شقرہ: کیوں نہیں دیتے؟ جواب دو تمہیں جواب ملے گا۔ سامی میں تمہیں بھاگنے والا سمجھتا ہوں۔

ابو بصیر: سامی کو حق پہنچتا ہے کہ جواب نہ دے ایسے وقت میں کہ جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ سوال کے پیچھے سازش ہے گڑھا ہے۔ سوال کرنے والا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مکروہ و حرام کو دینے کے لیے سوال کر رہا ہے۔

شقرہ: بھائی میں کیسے مان لوں کہ تم پسند نہیں کرتے حالانکہ تم روزانہ یور نیورسٹی جاتے ہو؟ ان فضول جوابات کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ تم کافر ہو یا نہیں۔؟

سامی: نہیں، میں کافر نہیں ہوں۔

شقرہ: کیوں نہیں ہو؟ تم کافر ہو خود پر کفر کا حکم لگاؤ۔

ابو بصیر: یہ مفلس کی کل پونچی ہے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرانے خوفزدہ کرنے کی شکوک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قاعدہ کو شریعت کی رو سے باطل کرنے کے لیے اس کے دلائل جب ختم ہو گئے تو یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ یہ قاعدہ کہ کفر پر رضامندی کفر ہے خود پیش کرنے والے کی تکفیر کر رہا ہے اس لیے کہ وہ صرف یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے کفر پر راضی ہے اور اگر وہ خود کو کافر نہیں کہتا تو اس کو چاہیے کہ اس قاعدہ سے ہی دست بردار ہو جائے۔ یہ انداز پہلے خوارج اپنا چکے ہیں جب وہ تکفیر و تشكیک کا اسلحہ صحابہ رض پر چلاتے تھے اور اپنے ہر خالف پر ان کے دین میں شک کرتے تھے مگر یہ سب باتیں اہل حق کو حق تھا منے میں مزید مضبوط کرتی ہیں۔

شقرہ: سامی میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تم پر فکر سوار ہے تکفیر والی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ تم میں باقی ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچ اب ختم ہو گئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم میرے سامنے ظاہر ہو گئے اور تم نے دیگر لوگوں کی طرح باتیں مجھ سے نہیں کیں میں اسے سچ نہیں سمجھ رہا تھا اس کی دو وجہ ہیں:

① میں جانتا ہوں کہ تم میں تکفیر و ایمان کی لوگوں پر کفر و ایمان کا حکم لگانے کی سوچ پختہ نہیں ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ اب تم اس مسئلہ میں مزید دغل نہیں دینا چاہتے۔

② میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ تمہارے حالات ہیں وہ تمہاری اس گفتگو سے مطابقت نہیں رکھتے

ابو بصیر: ڈرانے، دھمکانے، تشكیک کا انداز یہ اس مفلس کی پونچی ہے جس کے پاس شرعی دلائل ختم ہو چکے ہوں مگر یہ ان لوگوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے دلوں کو اللہ نے نور حق سے منور کیا ہے اور علم توحید سے آباد کیا ہے۔

شقرہ: میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بوجب کسی انسان پر کفر کا حکم

لگانے کا تقاضا دو میں سے ایک ہو گایا تو کہنے والا کافر ہو گایا جسے کہا گیا ہے وہ کافر ہو گا دونوں میں سے ایک پر یہ حکم پر لوت آئے گا۔

ابو بصیر: یہ قاعدہ صحیح ہے کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا اس نے (خود) کفر کیا نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہ قاعدہ مطلقاً نہیں ہے اس لیے کہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ قاعدہ کسی معین شخص پر لا گو نہیں ہوتا اور اس کی تکفیر نہیں ہوتی مثلاً کسی صحیح اجتہاد یا ممکن وجائز تاویل کی وجہ سے عذر ہوتا ہے اور صحیح اجتہاد نہ ہونے پر بھی اجر ملتا ہے اس لیے کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے: جب فیصلہ کرنے والا کوشش کرے اور اس میں (پھر بھی) غلطی کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے (کوشش کرنے کی وجہ سے)۔ اسی لیے عمر رض نے حاطب بن ابی بلتعہ رض کی گردان کا ٹنے کی اجازت مانگی تھی کہ اس نے منافق، کفر و مرتد ادا کار رکاب کیا ہے۔ حاطب رض نے مسلمانوں کے خفیہ پروگرام کی اطلاع مشرکین کو دی تھی لیکن نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ حاطب منافق نہیں ہے وہ بد ری صحابی ہے اور اس کا عقیدہ ہمیشہ سے صحیح ہے۔ اس بات سے دلیل ملتی ہے کہ نہیں کہا جاسکتا کہ کفر عمر رض پر لوت آیا کہ اس نے حاطب رض کو کافر سمجھ لیا تھا اس لیے کہ وہ حاطب رض کی تکفیر میں صحیح رائے تک نہیں پہنچ سکے تھے یہ حکم ان کے اجتہاد اور شرح میں معتبر قرآن پر مبنی تھا جو ان پر وعدید لا گو کرنے میں مانع تھا۔ اسی طرح خالد بن ولید رض نے نبی ﷺ سے اس شخص کے قتل کی اجازت مانگی تھی جس نے رسول ﷺ سے کہا تھا کہ خدا کا خوف کر (خالد رض کا خیال تھا کہ وہ منافق ہو گیا ہے اور اس نے اپنادین بدل دیا ہے۔ لیکن نبی ﷺ نے انہیں منع کر دیا مگر یہ بھی نہیں کہا کہ نفاق و کفر کا یہ حکم تم پر لوت آیا ہے۔ اسی طرح کا قول اسید بن حضیر رض عنہ کا ہے جو سعد بن عبادہ رض کو نبی ﷺ کے سامنے کہا تھا جب اس نے رکیس المذاقین عبد اللہ بن ابی کے دفاع میں کچھ کہا تھا (اسید رض نے سعد رض کو کہا) تم منافق ہو اس لیے مذاقین کا دفاع کر رہے ہو (جب مذاقین کے دفاع پر مذاقین کے کافر کہا جاسکتا ہے تو طاغوتی حکمران

والکفر اور نفاق و کفر کی علامت اپنے اندر جمع کرنے والوں کا دفاع کرنے والے دور حاضر کے جمیہ کو کہا جائے گا؟) صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کو بھی کافر کہہ دیا تھا جنہوں نے قرآن کی آیت کی تاویل کی تھی۔ آیت یہ ہے: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقْفَوْا﴾^{۹۳} ”جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر گناہ نہیں جو انہوں نے (شراب) چکھ لی جب انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔“ تاویل کر کے ان لوگوں نے اپنے لیے شراب حلال قرار دی تھی۔ ان کے سر پرست عبداللہ بن مظعون بدری تھے لیکن صحیح بات وہ تھی جو علیؑ نے کی تھی کہ یہ لوگ کافرنہیں ہیں بلکہ انہوں نے ایسی تاویل کی تھی جو ہو سکتی تھی اور وہ ان کی تکفیر میں مانع ہے۔ اور کہا کہ ان پر حجۃ قائم کی جائے ان کی غلطی کی نشان دہی کی جائے۔ اگر وہ تو بے کر لیں تو ان کو اسی کوڑے شراب پینے کی وجہ سے مارے جائیں گے اگر تو بہ نہ کر لیں تو ان کی گرد نہیں اس وجہ سے ماری جائیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا اور دین میں ایسی شریعت بنائی جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی تھی۔ اس واقعہ میں دلیل یہ ہے کہ جن صحابہؓ نے پہلے پہل ان پر کفر و ارتداد کا فتویٰ لگایا تھا ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فتویٰ ان پر لوٹ آیا اس لیے کہ یہ حکم انہوں نے اجتہاد کی بنا پر لگایا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دور حاضر کے جمیہ جو اس قاعدے کو مطلقاً استعمال کرتے ہیں اور مخالفین کو طاغوتی حکمران کی تکفیر سے ورغلاتے ہیں یہ غلط باطل مردود کام ہے جو اہل بصارت سے پوشیدہ نہیں ہے۔

شقرہ: (سامی کو مخاطب کرتے ہوئے) بہی وجہ ہے کہ کتنا بے پرواہ کر دیا ہے تمہیں اس بات سے کہم فلاں فلاں کے اقوال کے حوالے دو کہ عمر شقرہ نے کہا۔ ابن تیمیہ، سید قطب ابن کثیر یا طبریؓ نے یوں کہا ہے اگر ساری دنیا کے علماء بھی یہ بات کر لیں تو بلا دلیل ہی کہیں گے۔

ابو بصیر: کلمہ سے مراد طاغوتی حکمرانوں کی تکفیر ہے لیکن ان طواغیت کے ڈر اور رعب کی وجہ

سے صراحت سے نہیں کہتے۔ غور کریں کہ اس آدمی کوئی جراءت ہو گئی ہے اللہ کے دین کے خلاف اور علماء سلف کی کتنی توہین کرتا ہے ان کے اجماع کو اہمیت نہیں دیتا یہ سمجھتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے علماء جن میں علمائے سلف بھی ہیں اس بات پر اجماع کر لیں کہ یہ حکمران کافر ہیں تو یہ شخص ان حکمرانوں کو کافرنہیں سمجھے گا اس لیے کہ یہ علماء بغیر دلیل کے کافر قرار دیں گے تو گویا علماء امت میں سے کسی کے پاس دلیل نہیں ہے؟ اس اکیلے کے پاس دلیل ہے؟ کہ یہ سلف کے قول وہم کو اپناتا ہے؟ اور سلف کو خلف پر مقدم رکھتا ہے؟ کیا ابن جریر طبری، ابن تیمیہ، سید قطب اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خلف ہیں اور یہ خود اور اس کا شیخ سلف ہیں؟ اس کے بعد ہم اس گمراہ شخص سے کہتے ہیں کہ کیا تمہاری جسارت طاغوتی حکمرانوں کے دفاع میں اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تم امت کے تمام علماء کے اقوال کو رد کرتے ہو جوانہوں نے ان طواغیت کے بارے میں کہے ہیں؟

شقرہ: تم نے کتاب اللہ کی آیت سے دلیل می ہے: ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ التوبہ: ٧٤ ”انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے اور ارادہ کیا اس کا جوانہوں نے پایا نہیں۔“ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یہ اس مسلمان کے بارے میں نہیں ہے جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُهُ“ اللہ کا اقرار کرتا ہو۔

ابو بصیر: یہ بات اس کے خلاف ہے جس پر آیت دلالت کرتی ہے وہ لوگ کافر ہوئے تھے اس بات کی وجہ سے جوانہوں نے کی تھی۔ نفاق کی وجہ سے نہیں۔ اسلام لانے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے اقرار کے بعد اگر فرض کر لیں کہ پہلے وہ منافق تھا تو پھر آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ کلمہ کفر کی وجہ سے کافر ہوئے تھے عملت کفر کی کلمہ کافر تھا۔ لہذا اگر کوئی شخص کلمہ کفر یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ سلیمانی العقائد مسلمان ہوا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرنے والا ہو۔

شقرہ: میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث کی طرف لے جانا چاہوں گا مگر اس سے پہلے ایک

سوال کروں گا۔ شیخ سے مذکور کے ساتھ۔ کہ کیا تم ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہیں کہتے؟ اور کیا تم اس معاشرے میں نہیں رہتے جس کفر سے بھرے ہوئے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ ایسا معاشرہ جس کے حکمران ظالم ہیں؟ تم صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ رہ رہے ہو نماز روزہ حج زکا نہیں کرتے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتے ہو کیا تم کافر ہو یا مومن؟

ابو بصیر: کس طرح یہ شخص اپنی عادت کے برخلاف معاشرے کو کافر قرار دے رہا ہے بلکہ کفر سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں کافر ظالم کا حکم کار فرمائے ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس شخص کو صحیح ثابت کرے جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے مگر اکان اسلام میں سے کوئی بھی رکن بجانبیں لاتا۔ جب معاشرہ کافر ہے کفر سے بھرا ہوا ہے اور حاکم بھی کافر ظالم ہے تو پھر طاغوتی حکمرانوں کا دفاع کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یا یہ شخص معاشرے کے کفر کو معمولی بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ لوگ طاغوتی حکمرانوں کی تکفیر کو مشکل سمجھ لیں جو کہ ہر فتنہ کی جڑ ہیں۔ پھر یہ شخص اپنے مخالف کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہے کہ تم بھی یہی صفات اپنے اندر رکھتے ہو تو کیا صرف ان صفات کی وجہ سے خود کو کافر کہہ سکتے ہو؟ یہ ایسی صفات کے حاملین کی تکفیر سے ڈرانا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی خود کو کافر کہنے سے اجتناب کرتا ہے اگرچہ اسے ان اصولوں کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑے جن کا وہ عقیدہ رکھتا ہے ایک اور لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات کرنے کا ادب و سلیقہ نہیں ہے (مگر یہ کیا جانیں ادب و سلیقہ) کہ مخاطب کر کے کسی کو کہا جائے کہ تم کافر ہو یا مسلمان؟ خود پر کفر یا اسلام کا حکم آدمی کیسے لگاسکتا ہے؟ گویا ان کے مخالف میں وہ صفات موجود ہیں جن کے حامل کے کفر پر اختلاف ہو رہا ہے۔

سامی: اگر میں نماز ترک کر دوں تو کافر ہوں۔

شقرہ: سبحان اللہ کس طرح تم نے خود پر کفر کا حکم لگادیا حالانکہ تم خلوص دل سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرتے ہو۔ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے جس نے خلوص کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا اسے زندگی بھر فا نکدہ دے گا۔ جنت میں داخل ہو گا۔ تم نے خود کو کیسے کافر کہہ دیا؟ جب تم اخلاص

سے کلمہ کہتے ہو تو خود کو کیسے کافر کہتے ہو جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اخلاص سے کلمہ کہنے کی بات کی ہے عمل کی شرط نہیں لگائی اور حدیث شفاعت میں ہے کہ بیہاں تک کہ جہنم سے اسے بھی نکال دیا جائے گا جس نے کبھی بھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہوگا۔ اچھا عمل یعنی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکاۃ دی، نہ حج کیا صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا ہوگا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جبکہ کافر تو جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے بقول تمہارے چاہے عملی کافر ہو یا اعتقادی کیا کہتے ہو؟ جواب دو۔

ابو بصیر: یہ بات صحیح نہیں مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر غلط ہے:

① ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی شروط و قیود ہیں جن کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ان تمام شروط و قیود کو ساتھ نہ رکھا جائے کتاب و سنت کے نصوص سے یہ ثابت ہیں کہ ان کے بغیر نجات نہیں ہوگی تمام ان شرعی نصوص کو دیکھنا چاہیے جو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ سے متعلق ہیں ایک نص کو دیکھنا دوسرا سے چشم پوشی کرنا یہ خلاف حق اور دینانت علمی کے خلاف ہے۔ یہ مراد ہی کی طرف یجا نے والا طرز عمل ہے۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کر دیتے ہیں کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے کے لیے کچھ شروط و قیود ہیں اگر ان میں سے کوئی شرط یا قید ختم ہو جائے تو اس کلمے کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں:

② پہلی شرط ہے: کفر بالطاغوت: کفر بالطاغوت کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا طاغوت کہنے ہیں اللہ کے علاوہ ہر معبود کو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو اللہ کے فرمان سے یہی مراد ہے:

فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقِيِّ لَا

انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران: ۲۵۶)

جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو لوٹنا نہیں اللہ سننے والا جانے والا ہے۔

اہل علم نے مضبوط کڑا سے مراد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ لیا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جو شخص اللہ پر

ایمان لا یا مگر طاغوت کا کفر نہیں کیا تو سے نے مضبوط کرنا نہیں تھا مانہ ہی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی وہ گواہی دی جو فائدہ دے اور نجات کا سبب بنے۔ اس کیوضاحت صحیح مسلم کی حدیث کرہی ہے جس نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہا اور اللہ کے علاوہ معبدوں کا انکار کیا تو اس کی جان و مال محفوظ ہیں اس کا حساب اللہ پر ہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ حدیث کے الفاظ کہ اللہ کے علاوہ معبدوں کا انکار کیا یہ تاکید ہے نفی کی اس کے بغیر کسی کامال و جان محفوظ نہیں اگر شک و تردید کیا تو جان و مال محفوظ نہیں۔

(مجموعہ التوحید: ۳۵)

میری رائے ہے کہ اس کا مال اور جان غیر محفوظ ہیں یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس کا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی گواہی دینا بغیر کفر علی الطاغوت کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے بیک وقت ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے اور اس کی ضد کا بھی ایک ہی وقت میں یعنی تو حید و شرک، وہ کفر بالطاغوت جو نجات کا سبب بنتا ہے اس کی کچھ صفات، علامات اور احوال ہیں جن کے بغیر یہ متحقق نہیں ہوتا صرف زبان سے کفر بالطاغوت کرنا پھر اس کے بعد اس کی ضد والٹ کرنا یعنی طاغوت سے دوستی اور اس کی طرف جھکاؤ تو یہ بغیر حقیقت کے صرف خیال ہے حقیقت حال اور عمل اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

② دوسری شرط ہے: علم: اللہ کا فرمان ہے: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ محدث: ۱۹
”جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبد نہیں ہے۔“ مسلم میں حدیث ہے: جو مر گیا اور وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا علم رکھتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کا مفہوم (فقہاء کی اصطلاح میں مفہوم یا مفہوم مخالف) یہ ہوا کہ جو اس حال میں مر گیا کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا علم نہیں رکھتا تھا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگرچہ وہ زبان سے ادا کر رہا تھا یا تسبیح کے دنوں پر گن رہا تھا۔ اس لیے کہ کسی چیز سے علمی کا مطلب ہے کہ دل میں اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ اور تو حید کا عقیدہ نہ رکھنا (بغیر اختلاف

کے) کفر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ خالق را ذق نہیں ہے اس کے باوجود وہ دعا، فریاد، نذر و نیاز، تحکم، اطاعت وغیرہ غیر اللہ کی کرتے ہیں اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور اپنے اس عمل میں تعارض بھی نہیں سمجھتے ایسے شخص کو صرف زبانی طور پر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ فائدہ نہیں کرتا آنکہ اس کے مطلب و مقصد سے آگاہ نہ ہو اس کی تفسیر قریش کے کفار کی طرح کرتا ہے۔

محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: نبی ﷺ کا دین توحید ہے یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی معرفت اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ اگر کہا جائے کہ تمام لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ خالق را ذق کوئی نہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو اس کا معنی نہیں سمجھتے کچھ ایسے ہیں جو اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو اس کی حقیقت سے لاعلم ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ ایک لحاظ سے اس کو جانتے ہیں مگر دوسرا لحاظ سے اس کے ساتھ اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے ماننے والوں کو پسند کرتے ہیں مگر اس کے دوستوں و دشمنوں میں فرق نہیں کرتے۔ کیا یہ دونوں گروہ ایک ہی دین میں مختلف ہیں اور دونوں حق پر ہیں؟ اللہ کی قسم ایسا ہر گز نہیں ہے حق کے علاوہ تو صرف گمراہی ہے۔ (الرسائل الشخصية: 182)

۳ تیری شرط ہے: صدق و اخلاص ہے: بخاری کی روایت میں ہے جو بھی شخص صدق دل سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے خوشخبری لے لو اور اپنے بعد والوں کو بھی دیو کہ جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ صدق دل سے کہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث کا مخالف مفہوم یہ ہوگا کہ جس نے کذب و نفاق کے ساتھ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا جیسا کہ لیڈر لوگ عوام کو اپنا تابع رکھنے کے لیے کرنے ہیں یا خود کو دیندار ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے اپنی نفاق کفر و گمراہی کی حقیقت چھپانے کے

لیے جیسا کہ بہت سے طاغوتی حکمرانوں کرتے ہیں کہ دین کا اظہار کرتے ہیں اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنا لفڑجاری رکھ سکیں تو جو شخص اس طرح کلمہ پڑھے گا تو حدیث کا مفہوم یہ بنے گا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ یہ ان منافقین میں سے ہوگا جو جنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

③ چوتھی شرط ہے: شک دور کرنا: حدیث میں ہے جو بھی شخص "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" کہے اور اس میں شک نہ کرتا ہو جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ اسے جنت میں داخل کر دے گا حدیث کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" میں شک کرتا ہو یا اس کے لوازمات و مقتضیات میں شک کرتا ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور ان جنتیوں میں سے نہیں ہوگا جنہوں نے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی پچی گواہی دی ہوگی۔

⑤ پانچویں شرط ہے: یقین کا حصول: اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معمولی سایہ کی شک شبہ ہو اسے دور کیا جائے اور بغیر شک و شبہ کے یہ تسلیم کرے کہ اللہ اپنی خصوصیات، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں مسلم میں حدیث ہے جو شخص دل کے یقین کے ساتھ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا اقرار کرتا ہو اسے جنت کی خوشخبری دے دو، حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جو شخص "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی گواہی دیتا ہو مگر اس کے مدلولات و مطالبات پر یقین نہ رکھتا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری نہ دو۔

⑥ چھٹی شرط ہے: محبت: ایمان و توحید اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتے نہ صحیح ہو سکتے ہیں جب تک اللہ رسول ﷺ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے۔ فرمان ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُجْبِونَهُمْ كَحْبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَمْنُوا آشَدُ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ١٦٥)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ معبد بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے

ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔

فرماتا ہے:

فُلْ إِنْ كَانَ أَبَاوْكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ أَخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ
أَمْوَالٍ نِفْرَفُتُمُوهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضُونَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّى يَأْتِي
اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِيقِينَ (التوبہ: ۲۴)

ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان اور جو مال تم نے کمایا ہے۔ تجارت جس کی خرابی سے تم ڈرتے ہو۔ پسندیدہ گھر اگر تمہیں اللہ و رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اچھے لگتے ہو (زیادہ محبت ہو) تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ (مدارج السالکین: 1/100) میں کہتے ہیں: جس نے بھی ان مذکورہ اشیاء میں سے کسی ایک کی اطاعت کو اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت پر مقدم کیا۔ یا ان میں سے کسی کا خوف یا امید و توکل کو اللہ کے خوف۔ امید و توکل پر۔ یا ان کے معا ملے کو اللہ کے ساتھ معا ملے پر مقدم کیا تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جو کو اللہ و رسول کی محبت و رسول کی نسبت سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر زبان سے کہہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے اور جس عمل پر ہے اس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح جس نے کسی کا حکم اللہ و رسول کے حکم پر مقدم کیا تو یہ مقدم کیا ہو اس شخص کے نزدیک اللہ و رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مون نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس کو اس کے مال اور اس کے اہل اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ و محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابو سليمان الخطابی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں: یعنی وہ شخص مجھ سے محبت کے دعوے کرنے میں سچا نہیں ہے۔ جب تک میری اطاعت میں خود کو فنا نہ کر دے اور میری مرضی

کو اپنی خواہشات پر مقدم نہ کرے ترجیح نہ دیدے۔ اگرچہ اس میں جان ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ (شرح صحیح مسلم: 12/3)

میری رائے: اس کی مصدقہ کتاب اللہ میں یہ آیت ہے: ﴿فُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُۚ﴾ آل عمران: ۳۱۔ ”اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔“ نبی ﷺ کی اتباع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے محبت نہیں ہے جتنی اطاعت و اتباع ہو گی اتنی ہی دل میں محبت ہو گی جو اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس دلیل و نص کی رو سے۔ اسی طرح محبت کی نفی اور اس کی ضد لینی شریعت سے نفرت یہ ناقص ایمان میں سے ہے اور تمام اعمال ظاہر و باطنہ کی بر بادی کا داعی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (محمد: ۶-۸)

جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال بر باد کر دے۔

یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ سے نفرت کی تو ان کے اعمال ضائع کر دیے (اللہ نے)۔ ان کے کفر اور اعمال کی بر بادی کی وجہ اللہ کے دین سے نفرت ہے اور نازل کردہ میں سب سے بڑی اور اہم چیز توحید ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ جس نے اس سے نفرت کی یاد شنی کی یا اس کے ماننے والوں سے دشمنی کی اور اس کے دشمنوں سے دوستی کی تو وہ ان کافروں میں سے ہے جو اللہ کے دین سے نفرت کرنے والے ہیں ایسے میں صرف زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

⑦ ساتویں شرط ہے: رضا، تسلیم اور مکمل اطاعت و فرمانبرداری: اللہ کا فرمان ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوْا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَإِسْلَمُوا تَسْلِيمًا (نساء: ۶۵)

تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی امور میں تجھے حکم نہ مان لیں اور پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے تنگی محسوس نہ کریں اسے مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔

فرمان ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات: ۲-۱)

ایمان والوالہ رسول سے آگئے مت بڑھو۔ اللہ سے ڈرجا و اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ ایمان والوپنی آوازیں نبی ﷺ کی آواز پر اوپھی مت کرو اور نہ ہی ان سے اس طرح زور سے بات کرو جیسے آپس میں کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال بر باد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہ ہوگا۔

فرمان ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (الاحزان: ۳۶)

مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے معاملہ کا اختیار ہو۔؟ (ایسا نہیں ہو سکتا)

فرماتا ہے:

فَلَيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: ۶۳)

جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا عذاب الیم پہنچ جائے گا۔

امام احمد رضی وغیرہ علماء نے فتنہ سے مراد شرک لیا ہے۔ اور ﴿الفتنۃ اشد من القتل﴾ شرک و کفر قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا زبان سے ادا کرنا اور اس کے مقصد کو زندگی کا منج نہ بنانا اس کے مطلب و معانی کو تسلیم نہ کرنا یہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی نہیں ہے جو قیامت میں فائدہ دے سکے۔

⑧ آٹھویں شرط ہے: اس پر عمل کرنا اور اس کے لوازمات پر عمل کرنا: (مطلوب یہ کہ) توحید پر عمل اور شرک سے اجتناب ظاہر و باطن میں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (البینة: ٥)

انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور زکاۃ دیں یہی قائم رہنے والا دین ہے۔

فرمان ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ٦)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

جس نے توحید پر عمل باطل کر دیا تو اس نے وہ مقصد ہی ختم کر دیا جس کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور کرتا میں نازل کیں۔ رسول بھیجے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِنِإِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا
فَأَعْبُدُونِ (الأنبیاء: ٢٥)

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے انہیں وہی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں

میری عبادت کرو۔

فرمان ہے:

وَلَقَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الظَّاغُوتَ (النحل: ۳۶)

ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ طاغوت سے اجتناب کرو۔

آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد اس اصول عظیم تک محصور و محدود تھا اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب، گویا اس کے علاوہ ان کا کوئی اہم کام تھا ہی نہیں سوائے اس کے۔ جیسا کہ صحابی ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا (فارس کے بادشاہ کے سامنے) اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لے جائیں اور دیگر ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لہذا ہم کہتے ہیں جس نے صرف کلمہ توحید کے زبانی اقرار پر اتفاق کر لیا اس کے مضمون و مطالبے پر عمل نہیں کیا اور اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی کبھی نہیں کہا کہ اے رب میرے گناہ کو معاف کر دے طواغیت اور ان کی عبادت اور دوستی سے اجتناب نہیں کیا تو وہ کافر اور مشرک ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کی تکذیب کرنے والا ہے۔

شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: آسمیں کوئی اختلاف نہیں کہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل زبان اور عمل سے ہو اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ رہی تو آدمی مسلمان نہیں ہو گا اگر توحید کو پہچان لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ فرعون والیں کی طرح کافر ہے۔

⑨ نویں شرط ہے: اس پر مستقل رہنا: اگر ایک شخص اس حال میں مر گیا کہ توحید کی ضد یعنی شرک پر تھا تو بھلے ساری زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا رہا ہو اسے کوئی فائدہ نہیں ہو گا مسلم کی حدیث ہے۔ جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا اور اس پر اسے موت آئی تو جنت میں داخل

ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا مگر اس پر موت نہیں آئی اس کی ضد یعنی شرک پر آئی توجنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نہ ہی جنتیوں میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے کہ کس حال میں خاتمہ ہوتا ہے جیسا کہ شرعی نصوص سے ثابت ہے۔

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَاطِثُ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِيلُوْنَ (البقرہ: ۲۱۷)

جودین سے پھر گیا مرتد ہو گیا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو ان لوگوں کے اعمال بر باد ہیں دنیا و آخرت میں اور یہ لوگ جہنم والوں میں سے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا اور اللہ کے سوا معبودوں کا انکار کیا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے معانی و مطالب سے باخبر تھا اخلاص کے ساتھ پڑھتا تھا۔ یقین تھا شک نہیں کرتا تھا اس سے اور اس کے ماننے والوں سے محبت کرتا تھا۔ اس پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا تھا ان سب کے بعد اسی پر مر گیا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جس نے دل میں ان قیود و شرائط کو رکھے بغیر کہا تو اسے یہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اگرچہ ساری زندگی زبان سے دہراتا رہے اس مسئلہ سے تمام نصوص میں تقطیق کی یہ صورت ہیں۔

شیخ عبدالرحمن بن آل شیخ اپنی کتاب ”قرۃ عیون الموحدین“ میں کہتے ہیں کتاب و سنت میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے لیے بھاری قیود ہیں جن میں علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، قبول، اطاعت، اور اللہ کے علاوہ معبودوں کا انکار ہے جب کہنے والے میں یہ تمام قیود جمع ہوں تو کلمہ اسے فائدہ دے گا اگر یہ قیود نہیں ہوں گے تو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے علم اور اس پر عمل کرنے میں لوگ مختلف ہیں کسی کو فائدہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا۔ بعض نصوص کو اختیار کرنا بعض کو نہ کرنا اپنے مطلب کے دلائل لینا وصول سے چشم پوشی کرنا جیسا کہ دور حاضر کے جمییہ کرتے ہیں یا اپنی رائے کی تائید تلاش کرنا

ہے یا ایسے قول یا عقیدے کے لیے تائید لانا ہے جس کی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی یہ ان چوروں کی حرکت ہے جو علم چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔

دوسری بات: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار اگر علم، یقین، اعتقاد، محبت، اخلاص اور صدق کے ساتھ ہو تو پھر لازم ہے کہ اس کا اسکا اظہار ظاہر یعنی جسمانی اعضاء کے ساتھ ہو، یہ ناممکن ہے کہ علم و اعتقاد، صدق اخلاص، توحید کی محبت ہو اور پھر ان کا اظہار اعضاء سے نہ ہو۔ ایک کا نہ ہونا دوسرے کے نہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور ایک کی موجودگی دوسرے کی موجودگی کی دلیل ہے۔ یہی بات حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بگزرا جاتا ہے۔ وہ دل ہے۔ ظاہر و باطن کے تعلق کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے، ان دلائل کے بعد یہ جاہل شخص کس طرح فرض کرتا ہے کہ اعتقاد میں توحید کی گواہی ہو اور اس اعتقاد، اخلاص، صدق اور محبت کا اظہار اعضاء سے نہ ہو بلکہ اس کے الٹ کا اظہار ہو۔؟

تیسرا بات: یہ جو آدمی جہنم سے نکل رہا ہے اور اس نے کوئی بھلائی نہیں کی تو دیگر نصوص کی روشنی میں اسے ان لوگوں پر محمول کرنا چاہیے جنہوں نے توحید کے علاوہ کوئی دوسری اچھائی نہیں کی تھی جس نے ظاہر اور باطن اور شر سے ظاہر اور باطن امتحنا کیا اور اس کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں کیا تو یہ آدمی جہنم سے نکلا جائے گا اس کو رحمت ملے گی اور شفاعت فائدہ دے گی۔ اس طرح اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو تاویل پر ہی محمول کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر نصوص میں تعارض ہو گا اور بغیر کسی سبب کے اصول رد ہوں گے۔ بنی یَعْلَمُ کی حدیث ہے۔ مسلم نے روایت کی ہے: جب اللہ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور پھر ارادہ کرے گا کہ اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے تو فرشتوں کو حکم کرے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال دو جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر وہ

رحم کرے گا جو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہتے تھے فرشتے ان کو جہنم میں پہچان لیں گے سجدے کے نشانوں سے آگ انسان کا پورا وجود کھاجائے گی سوائے سجدے کے نشان کے، غور کریں کہ جن لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے جہنم سے نکالے گا ان کی ادنیٰ ترین حد جس کی وجہ سے وہ نکالیں جائیں گے وہ توحید اپنانا اور اجتناب عن الشرک ہوگا۔ پھر اس بات پر غور کریں کہ "سجدے کے نشان سے پہچانیں گے" یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اس توحید کی شروط و لوازمات میں سے ہے جس کی وجہ سے آدمی جہنم سے نکلا گا۔ اور کلی طور پر نماز کو ترک کرنے والا موحدین میں سے نہیں ہو سکتا ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے جو کہ جہنم سے نکلنے اور جنت میں جانے کی شرط ہے۔ اس بات کو نبی ﷺ نے دوسری حدیث میں بیان کیا ہے جو صریح دلالت کرنے والی ہے: "جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا" دوسری حدیث ہے جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تارک نماز مشرک کافر ہے اسے شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی یہ ان لوگوں میں شامل نہیں جنہیں رحمت و شفاعت ملے گی۔ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ جو لوگ جہنم سے نکالیں جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہوں گے جو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے یہ سب سے آخر میں جہنم سے نکنے والے ہوں گے۔ جب انبیاء و رسولوں کی شفاعت ہو چکی ہوگی۔ اس کی دلیل حدیث ہے جسے السنۃ میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے: میں مسلسل اپنے رب سے شفاعت کرتا رہوں گا اور اللہ قبول کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں کہوں گا اے اللہ میری شفاعت اس آدمی کے لیے بھی قبول کر جو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے محمد ﷺ یہ تیرے لیے بھی نہیں اور کسی اور کے لیے بھی نہیں ہو سکتی یہ بات میرے لیے مجھے میری عزت، جلال، و رحمت کی قسم میں جہنم میں ایسے کسی شخص کو رہنے نہیں دوں گا جو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہتا تھا۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" مذکورہ شرط کے ساتھ کہتا تھا جو شرعی نصوص سے ثابت ہیں اور یہ ضروری ہے

اسی طرح جن لوگوں کو رحمت ملے گی اور شفاعت نصیب ہوگی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یہ موحدین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہو گا اس کی دلیل یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے شفاعت دی گئی ہے مگر یہ اسے ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرے گا۔ دوسری جگہ ہے: موحدین میں سے کچھ لوگوں کو جہنم میں عذاب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے پھر انہیں رحمت پالے گی تو وہ وہاں سے نکلیں گے اور جنت کے دروازے پر چھوڑ دیئے جائیں گے اہل جنت ان پر پانی چھڑکیں گے تو وہ ایسے آگ جائیں گے جیسے سیلا ب کے بعد گھاس اگتی ہے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں غور کریں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ موحدین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو گا۔ اس کے علاوہ متعدد نصوص ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت میں جن کو رحمت پائے گی وہ موحدین ہوں گے جو ظاہر و باطن شرک سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے: جنت میں صرف مومنین جائیں گے۔ یعنی موحدین۔ اللہ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَ يَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ النساء: ٤٨: ﴿الَّذِينَ يَخْشَى كَمْ سَاتَھِ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دیتا ہے۔﴾ ان کے علاوہ بہت سے نصوص ہیں جو اس تعبیر پر دلالت کرتے ہیں جنہیں دیگر نصوص کے ساتھ ملا کر فصلہ کرنا چاہیے جن کا مسئلہ سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہوان میں سے کسی نص کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے جو وعد، وعید، جنت، جہنم سے متعلق ہو۔

یہ جو کچھ بیان ہوا اس سے ثابت ہوا کہ دور حاضر کے جمیی لفظ: ((لم یعمل خيراً فقط)) سے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توحید پر عمل جنت میں داخلے کے لیے معتبر شرط نہیں ہے تو یہ باطل ثابت ہوا۔

سامی: یہ تفصیلی امور ہیں اب نصوص میں تطبيق ضروری ہے جن نصوص کو ارجاء نے لیا ہے اور

انہیں قاعدہ بنادیں.....

شقرہ: معدرت کیا آپ ارجاء کا معنی مجھے سمجھائیں گے۔؟

سامی: یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان اقرار کا نام ہے.....

شقرہ: اقرار؟ ہاں۔

سامی: یہ کہتے ہیں کہ (اقرار کرنے والا) ایمان پر ہی رہتا ہے اگرچہ عمل نہ کرے۔ جہنم سے نکل آئے گا۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ تصدیق کا نام ہے۔

شقرہ: اب میں سوال کرتا ہوں کہ تم سچے ہو یا اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)؟

ابوبصیر: اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے اسے یہ باور کر رہے ہیں کہ تم نے ارجاء سے متعلق جو کچھ کہا ہے یہ تم نے نبی ﷺ کو مر جھ کہ دیا حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سامی نے مر جھ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اہل علم کے مر جھ کے بارے میں آراء سے متفاوت نہیں ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے (فتح الباری: 1/100) میں کہا یہ لوگ ارجاء کی طرف منسوب ہیں جس کا معنی ہے ”تا خیز“ اس لیے کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب ہے ان کی اکثریت نے اقرار بالسان کی شرط نہیں لگائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا : مر جھ کہتے ہیں کہ جس نے دل سے رب کو پیچان لیا اور زبان سے اقرار کر لیا وہ مومن ہے اگرچہ اس نے جسمانی عمل کوئی بھی نہ کیا ہو۔ (المسائل والرسائل: 1/73)

کیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مر جھ کی جو تعریف کی ہے جو سامی نے کی ہے تو کیا ان ائمہ نے بھی نبی ﷺ کو (نحوذ باللہ) مر جھ کہا؟ آپ ﷺ کی تکذیب کر لی؟ ایسا نہیں ہے یہ ائمہ بھی ان باتوں سے پاک ہیں جو مر جھ کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ذلت آمیز باتیں کرنے سے اور کفر سے بچائے نبی ﷺ کی بے ادبی کرنے سے محفوظ رکھے۔

سامی: بے شک رسول ﷺ (ہی سچ ہیں۔)

شقرہ: نہیں تم رسول ﷺ کو جھلدار ہے ہو۔

ابو بصیر: اس بات کا مطلب دراصل سامی کی تکفیر کرنا ہے اس لیے کہ جو شخص رسول ﷺ کو جھلدا تا ہے وہ کافر ہے حتیٰ کہ جہمیہ کے نزدیک بھی اس کی جراءت دیکھیں کس طرح اپنے مخالفین کی تکفیر کرتا ہے حالانکہ وہ مخالف اہل قبلہ والتوحید ہے۔ مگر شقرہ ان پر کتنی جلدی تہمت لگا رہا ہے حالانکہ یہی لوگ طواغیت الکفر کی تکفیر سے بچنے کے لیے کیسی کیسی تاویلیں کرتے ہیں۔؟

سامی: کیوں (میں کیوں رسول ﷺ کو جھلدار ہوں؟)

شقرہ: اس لیے کہ رسول ﷺ مر جئی تھے۔ میرے دوست وہ مر جئی تھے۔

ابو بصیر: یہ آدمی ہمیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم اسے گستاخ کہیں۔ رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والا بد اخلاق میرا نہیں خیال کر یا اپنے سر پر ستوں طاغوتی حکمران کے ساتھ اس طرح گستاخی کرے گا۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (الفتاویٰ: 1/226) جب مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نبی ﷺ کا تذکرہ ہوتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا یہاں تک کہ ان کے ہم نشین بھی اس کو محسوس کر لیتے۔ اس بارے میں ان سے ایک دن کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھو تو میری اس حالت پر اعتراض نہیں کرو گے۔ میں نے محمد بن المائد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جو سید القراء تھا کہ ہم جب بھی ان سے کوئی حدیث پوچھتے وہ رونے لگ جاتے یہاں تک کہ ہم ان کو تسلی دیتے۔ میں نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا وہ بہت بہت مکھ آدمی تھے مگر جب ان کے سامنے نبی ﷺ کا نام آتا تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ عبد الرحمن بن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب نبی ﷺ کا تذکرہ ہوتا تو ان کا رنگ ایسا ہو جاتا جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو ان کی زبان سوکھ جاتی رسول ﷺ کے رب سے۔ میں نے الہروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے جو خوش مزاج آدمی تھے جب ان کے سامنے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو وہ ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو پہنچانتے نہیں نہ انہیں کوئی پہنچانتا ہے۔ میں عامر بن عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے لیا جاتا تو ورنے لگتے یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو باقی نہ رہتے۔ میں صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا وہ مجتهد اور عبادت گزار تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو وہ رونے لگتے یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے انہیں اکیلا چھوڑ دیتے، یہ ہے ادب ہمارے اسلاف رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حالت ہوتی تھی ان کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا۔ اس داعی سلفیت میں ہمارے عظیم اسلاف کی طرح ادب و اخلاق کہاں ہے؟ ابن حجر اپیشی رضی اللہ عنہ (الزرواجر: 29)

میں کہتے ہیں: جس نے ندمت کے طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نامناسب بات منسوب کر لی یا ان کے بارے میں گھٹیا اندراز گفتگو اختیار کیا یا ان کی طرف جھوٹ و منکر منسوب کر دیا۔ یا ان کی طرف بعض انسانی عیوب کی نسبت کر دی تو ان میں سے کوئی بھی کام کر لیا تو وہ شخص بالاجماع کافر ہے اسے قتل کیا جائے گا اکثر علماء کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا جس نے لفظ ”عند صاحبکم“ کہا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے تو ہیں آمیز کلمہ سمجھا تھا۔

سامی: ”اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ.....۔

شقرہ: میرے سامنے اعوذ باللہ مت کہو تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ارجاء کا حکم لگایا ہے۔

ابو بصیر: یہ گراہ جنمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا علم و برہان و خوف کے جھوٹ بولا انہیں مر جسہ وجہیہ کہا۔ سامی کا اس کو مر جسہ کہنا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارجاء قرار دیا۔ اس لیے کہ سامی نے وہی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوبات کی وہ سامی نے کی ہے اس نے جہالت اور مخالف کو ڈرانے کے لیے اس قول کو نبوت کا جامہ پہنادیا۔ حالانکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ خود کو الزم دیتا پنی بات میں غلطی تلاش کرتا بجائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا۔ کیا

ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی خارجی کو کہا جائے کہ تم خارجی ہو اس لیے کہ خوارج کی رائے اپنائے ہوئے ہو تو وہ کہنے والے کو کہے کہ تم نے توبی ﷺ کو خارجی کہہ دیا اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور جو رسول ﷺ نے کہا تھا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ بے ادبی اور جسارت نہیں ہو گئی نبی ﷺ کی شان میں گستاخی نہیں ہو گئی؟ یہی حال اس گمراہ کا ہے کہ اس نے ارجاء کو نبی ﷺ کی طرف منسوب کر دیا۔

شقرہ: سامی ایسی کوئی نص لے آؤ جو اس حدیث کے معارض ہو جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ: جس نے دل کے اخلاص سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا زندگی میں کسی بھی دن تو یہ اس کو فائدہ دے گا۔ اس کے معارض کوئی نص لے کر آؤ۔

ابوبصیر: اس کے معارض کوئی نص نہیں ہے لیکن دیگر نصوص ایسے موجود ہیں جن میں ایسے الفاظ کا اضافہ ہے جنہیں معتبر مانا جاتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ انہیں بھی لیا جاتا ہے۔ شروع التوحید کا جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ حدیثیں ذکر ہو چکی ہیں۔ وہاں دیکھ لو۔

سامی: میں کہتا ہوں کہ نصوص میں تقطیق دینا ضروری ہے.....

شقرہ: لا، میرے پاس نص لے کر آؤ.....

سامی: اللہ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ النساء: ٦٤ ”ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجتے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔“ اللہ نے رسولوں کی بعثت کی حکمت بتائی ہے کہ وہ ہے اطاعت۔ جب رسول کی اطاعت نہیں ہو گئی تو رسول کی بعثت کی حکمت ہی ختم ہو جائے گی۔

شقرہ: اب میں تمہارے اس اعتراض یا سوال کا جواب دوں گا۔ یہ جو آیت تم نے پیش کی ہے تو کیا بندوں کی اطاعت (سب کی) برابر ہے یا ان میں فرق ہے؟

سامی: الگ الگ ہے۔ (فرق ہے)

شقرہ: اچھا جس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا اس نے اطاعت کی یا نہیں یہ اصل عقیدہ ہے۔

ابو بصیر: آیت مذکور میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے بندوں پر رسول کی اطاعت تمام اور امر میں فرض کی ہے اور تمام منہیات سے اجتناب فرض کیا ہے۔ اب جس نے ایک میں اطاعت کر لی دوسری میں نہیں کی تو یہ ناقص و بے فائدہ اطاعت ہے اس کے ایمان و کفر کا حکم اس کی معصیت کے لحاظ سے ہو گا اگر اس نے رسول کی نافرمانی تو حید اور اس کی شروط میں کی ہے تو یہ ایسی معصیت ہے جو اسلام سے خارج کر کے کفر کی طرف لے جاتی ہے اگرچہ اس نے دوسرے معاملات میں اطاعت کی ہے مگر ہر اطاعت اسلام میں داخل نہیں کرتی اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ کفار قریش وغیرہ نے توحید ربوبیت میں رسول ﷺ کی اطاعت کی تھی لیکن یہ ناقص اطاعت تھی اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اس لیے انہوں نے توحید کے دوسرے پہلو میں نافرمانی کی۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے میں رسول ﷺ کی اطاعت کی مگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تمام شروط پر مطالبات پر عمل نہیں کیا جن کے بغیر اس کا اقرار صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ناقص اطاعت ہے اور ایسی ناقص ہے کہ اپنے مرتكب کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ اطاعت کتنی بھی کر لی جائے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم دوبارہ بتادیتے ہیں کہ ایمان و کفر کے مسائل وعد وعید کے مسائل ایک ہی نص سے لینے جائز نہیں بلکہ تمام متعلقہ نصوص کو لینا چاہیے ورنہ نتیجہ افراط یا تفریط کا نکلے گا۔

سامی: میں اسی پر اتفاقاً کرتا ہوں۔

شقرہ: میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جس نے خلوص دل سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا اس نے اطاعت کی یا نہیں۔ جتنا سوال ہے اتنا جواب دو۔

سامی: ابتداءً تو اطاعت کر لی۔

شقرہ: وضاحت کرو ابتدأ یا نہایتًا کیا مطلب ہے؟

سامی: اسلام میں داخل تو ہوا مگر اس کا اسلام برقرار نہیں رہے گا۔

ابو بصیر: سامی کا مقصد یہ ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے سے وہ اسلام میں داخل تو ہو گیا مگر وہ اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اگر استطاعت کے باوجود اس کے لوازمات و شروط کو پورا نہیں کرے گا یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ ایسا ہی ہو گا کویا ایک آدمی ایک آدمی ہی وقت میں دو متضاد چیزوں کا حامل ہے۔

شقرہ: اچھا باب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی یہودی یا نصرانی تھا اس نے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا پھر اس نے غسل کر لیا اور ظہر کی نماز کا وقت تھا وہ نماز کے لیے آیا مگر پڑھی نہیں اور اسی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟

سامی: جنت میں جائے گا۔

شقرہ: کیوں؟

سامی: نیانیادین میں آیا تھا.....

شقرہ: یہ نیانیادین میں آنے کی بات کہاں سے لائے ہو؟ یہ کیا ہے؟

سامی: ان احادیث میں سے جن میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول ﷺ کے پاس آ کر کہا میں پہلے جنگ میں جاؤں یا پہلے مسلمان ہو جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان ہو جاؤ..... اس آدمی نے نماز نہیں پڑھی اور مر گیا.....

ابو بصیر: اس حدیث میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نیانیادین میں آنکھیں کے لیے مانع ہے۔ البتہ ذات انواع کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جس میں ہے کہ کچھ صحابہ ؓ نے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے رسول ﷺ سے مطالبه کیا کہ ان کے لیے یہی کا درخت

مقرر کر دیں جس کے پاس وہ حالت کفر میں بیٹھتے تھے اور اس پر تلواریں لٹکاتے تھے جیسا کہ مشکوں کے لیے ایسا درخت ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور تلواریں لٹکاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ! تم نے وہ بات کہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبد مقرر کر دیجیے ان کے ہیں۔ اللہ کی قسم تم لوگ پہلے والوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس واقعہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کلمہ کفر کہنے کے باوجود ان کی تکفیر جو چیز مانع تھی وہ تھا ان کا نیا مسلمان ہونا وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ جو کچھ ان پر واجب ہے وہ اسلام کے شروعِ دنوں میں سیکھ لیں جبکہ اس پر اتفاق ہے کہ بغیر مسئلہ و ذمہ داری کو رفع کر دیتا ہے جب تک کہ استطاعت اور علم نہ آجائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیا مسلمان ہونا اگر علم آنے کے بعد تو حید کے نواقض میں سے کسی ناقض کا مرتكب ہو جائے تو (یہ تکفیر میں مانع نہیں ہوگا) اس کا عذر نہیں ہوگا اس لیے کہ عذر میں یہ واقع ہوا ہے اس سے عدم معرفت ہے صرف نیا مسلمان ہونا نہیں ہے۔ یہ قبل توجہ بات ہے۔

شقرہ: اچھا اگر یہ آدمی مکمل عمل کر کے مر جائے اور اگر دو یا تین آدمی ہوں ایک تو اس دوران مر گیا (عمل کے موقع آنے سے پہلے) دوسرے نے انتظار کیا مگر نماز مغرب یا عشاء نہیں پڑھی۔ اب نماز کے ترک پر تو مواخذہ نہیں ہوگا مگر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ثواب اسے ملے گا یا نہیں۔؟

سامی: تارک نمازوں میں اختلاف ہے.....

شقرہ: نمازوں کو چھوڑ کر ہم کسی اور عمل کی بات کر لیتے ہیں پھر۔؟

سامی: جب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دیا اور عمل نہیں کیا تو یہ کافر ہے اس لیے کہ مکمل طور پر عمل کو ترک کرنا کافر ہے۔

شقرہ: تمہارا استدلال غلط ہے۔ میں نے سوال کیا تو تم نے کہا: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ﴾ جبکہ میں کہتا ہوں جو شخص اخلاص قلب سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ اس کا کیا حکم ہے

کیا تم نے نہیں کہا کہ اس نے اطاعت کی۔؟

سامی: نہیں اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔

ابو بصیر: اس طرح کہتے تو صحیح ہوتا کہ اس نے اللہ کی اطاعت ناقص کی ہے۔ جب اس نے توحید پر عمل نہیں کیا تو اس سے تفکیر کی نفع نہیں کی جاسکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک شخص عمل نہیں کر رہا تو حید کے آثار اس سے ظاہر نہیں ہو رہے تو ہم کیسے فرض کر لیں کہ یہ توحید پر برقرار ہے۔

شقرہ: اچھا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا؟ اسلام میں داخل ہونے کی کیا علامت ہے۔؟

سامی: یہی تو فرق مرجدہ اور اہل سنت میں ہے۔

شقرہ: رہنے دو بھائی: محمد ﷺ بھی تمہارے نزدیک مرجدہ ہو گئے۔

ابو بصیر: کس طرح یہ اپنے اوپر ارجاء کا لگنے والا الزام محمد ﷺ پر لگا رہا ہے۔ اس کے خیال میں محمد ﷺ بھی ارجاء کی بات کر رہے ہیں لہذا جو شخص اس پر اعتراض کرے گا وہ بنی ﷺ پر طعن کرنے والا شمار ہو گا اور مخالف کو چاہیے کہ اس سے نجح کر رہے۔ پھر اس کے بولنے کا ادب و آداب اور بہترین اخلاق بھی ملاحظہ کریں کہ تمام انسانوں کے سردار صاحب رسالت ﷺ کا نام بغیر صلاۃ و سلام اور بغیر نسبت نبوت کے لے رہا ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے۔ جس کے سامنے میری ذکر ہوا اور وہ درود پڑھنا بھول گیا تو (گویا) وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبراہیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے محمد ﷺ جس کے سامنے آپ ﷺ کا ذکر ہو رہا ہوا اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور مرنے کے بعد اللہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ تو اللہ اسے دور کر دے۔ آمین کہیے۔ میں نے آمین کہی (طرانی نے اسے جامع الصغیر صحیح میں روایت کیا ہے)۔ جبکہ یہ گمراہ شخص جب طواغیت کا ذکر کرتا ہے جو عزت و تکریم (اور محمد ﷺ کا بغیر تکریم) کے ساتھ کرتا ہے۔

سامی: تم لوگوں نے بعض نصوص اپنائے ہوئے ہیں جبکہ ہم تمام نصوص اپناتے ہیں۔

شقرہ: میرے پاس نصوص نہیں ہیں۔

ابوالصیر: سچ کہتا ہے اس کے پاس نصوص نہیں ہیں بلکہ خواہشات، گمراہی، بھی اور شبہات ہیں۔

شقرہ: (میں نے نصوص مانگے تو) تم نے غلط نص پیش کر دیا جب تم نے ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ.....﴾ پیش کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اور زکاۃ دیتا ہے۔ دوسرا آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا اور زکاۃ بھی نہیں دیتا اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے کیا کہتے ہوا سے نے اللہ کی طاعت کی یا نہیں۔؟

سامی: (بات سمجھنہیں سکا)

شقرہ: میں دوبارہ اپنی بات دھرا دیتا ہوں ایک آدمی شہادتین کے علاوہ تین چار اركان چھوڑ دیتا ہے اور ایک رکن پر عمل کرتا ہے کیا اس نے اللہ کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ ایک آدمی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اور اسلام کے تمام اركان پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتا ہے اسلام کے اركان میں سے صرف ایک پر عمل کرتا ہے بقیہ پڑھنہیں کرتا۔ اس نے اللہ کی اطاعت کی یا نہیں۔؟

سامی: ہم دیکھیں گے کہ اس نے جو اعمال چھوڑے ہیں کیا وہ کفر کو واجب کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم اسے کافر قرار دیں گے.....

شقرہ: روزہ چھوڑتا ہے۔؟

سامی: کافرنہیں ہے۔

شقرہ: زکاۃ چھوڑتا ہے۔؟

سامی: وہ بھی ایسا ہی ہے (کافرنہیں ہے)

شقرہ: حج چھوڑ دیتا ہے؟

سامی: وہ بھی ایسا ہی ہے۔ (کافرنہیں ہے)

ابو بصیر: نبی ﷺ کی صحیح حدیث ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

اسلام کی بنیاد پانچ اركان پر ہے:

① اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر کا انکار کیا جائے۔

② نماز قائم کرنا۔

③ زکاۃ دینا۔

④ بیت اللہ کا حج کرنا۔

⑤ رمضان کے روزے۔

ارکان کے بغیر عمارت صحیح نہیں بنتی ان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی نہ برقرارہ سکتی ہے بھی وجہ ہے کہ سلف نے ارکان اسلام میں سے کچھ یا ایک کو ترک کرنے والے کے کفر میں اختلاف کیا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 96/20) میں لکھتے ہیں: اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اگرچہ اس کے ترک کا ضرر اس کے مرتكب سے آگئے نہیں جاتا۔ ان کے ترک کرنے پر جمہور علماء کے نزدیک قتل کیا جائے گا اور بہت سے اسلاف کہتے ہیں کہ وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ انہم میں سے بعض کے نزدیک ایک رکن کے ترک پر بھی قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ان پر ہے یہ سلف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جماعت سے اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مردی ہے۔ بعض انہ کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کافر قرار دیا جائے گا سو ائمہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں نمازو زکاۃ کی وجہ سے قتل کیا جائے گا مگر اسے کافرنہیں کہا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں صرف نمازو کے ترک پر قتل کیا جائے گا مگر کافرنہیں کہا جائے گا جیسا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے تارک نمازو کی

تکفیر صحابہؓ و تابعینؓ جمہور سلف سے منقول ہے۔ ان باتوں کے یہاں نقل کرنے کا ہمارا مقصد ان میں سے صحیح قول کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم قارئین کو ان ارکان کی اہمیت سے آگاہ کریں اور یہ بتاسکیں کہ ان کے تارک یا کسی ایک رکن کے تارک کی تکفیر نہ کرنا سلف کی ایک رائے نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو (سلف کا اتفاق اس پر نہیں ہے) جیسا کہ بھائی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے۔

شقرہ: اگر نماز ترک کر دی؟

سامی: ہم تو قف کریں گے۔

ابوبصیر: تارک نماز پر کفر یا اسلام کا حکم لگانے میں سامی کا توقف چند وجوہات کی بنابر غلط ہے۔

① یہ سامی کی پہلی بات سے متصادم ہے جس میں اس نے تارک نماز کو کافر کہا تھا۔ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا اور کامل طور پر عمل ترک کرنے والا کافر ہے۔

② جو شخص اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہوا تو وہ یقینی و صریح کفر کے ساتھ ہی نکلا گا۔ اس مسئلے میں سامی کے لحاظ سے پہلا نصف تو موجود ہے مگر دوسرا نصف نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سامی تارک صلاة کے کفر میں مترد ہے اور جب تردد آجائے تو تکفیر سے رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ وہ اس پر اسلام کا حکم لگائے اگرچہ ہم سمجھتے ہیں بلکہ ترجیح دیتے ہیں اس بات کو کلی طور پر نماز کو ترک کر دینے والا یقینی کافر ہے جسے ہم اپنے مقام پر بیان کر دیں گے۔

شقرہ: کیوں؟ (کیوں توقف کرو گے؟)

سامی: اس لیے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

ابو بصیر: کسی مسئلے کے اختلافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں توقف کیا جائے اور راجح اور مرجوح کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

شقرہ: تب اسے کافرنہ کہیں؟

سامی: نہیں (میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں) بلکہ ہم توقف کریں گے جبھی وہ کافر ہو سکتا اور کبھی کچھ اور.....

شقرہ: میں آپ سے راجح قول کی نشان دہی چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے؟

سامی: توقف کریں گے۔ اس پر حکم نہیں لگائیں گے ابھی مجھے معلوم نہیں۔

ابو بصیر: میں کہتا ہوں کہ کلی طور پر نماز ترک کرنے والے کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ وہ کافر ہے یعنی کافر خارج اسلام یا اس وقت ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا اقراری ہو یہ ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ اور اقوال سلف، صحابہ، تابعین وغیرہم ائمہ محدثین جیلش کا اس کی تفصیل حاضر ہے:

کتاب اللہ سے دلائل

دوسری دلیل:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوَةَ فَإِنَّهُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَضَّلُ

الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (التوبۃ: ۱۱)

اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔

آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اگر وہ شرک سے توبہ نہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اور دینی بھائی کی کی نفی صرف کافروں سے ہوتی ہے لیکن جب دیگر

نصوص آنکیں جنہوں نے تارک زکاۃ کو کفر سے پھیر دیا جیسا کہ مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ جو بھی مال جمع کرنے والا اگر اس کا حق نہیں دیتا یہاں تک کہ جب اللہ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تمہاری گنتی کے مطابق تو وہ شخص اپناراستہ دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ جب اسے مشیت پر چھوڑا جائے گا کہ یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف تو یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو تو حید پر مر گیا ہو کافرنہ ہواں لیے کہ کافر کے لیے قیامت میں صرف جہنم ہے۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ شرعی قرینہ ایسا پایا گیا ہے جس نے تارک زکاۃ سے کفر کو پھیر دیا مگر تارک نماز کے ساتھ ایسا نہیں ہے الہنا متعین ہوا کہ تارک نماز کافر ہے تارک زکاۃ نہیں۔

دوسرا دلیل:

يَوْمَ يُكَشِّفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، خَاسِعَةً
أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كَانُوا يُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَ هُمْ
سَلِمُونَ (القلم: ۴۲، ۴۳)

جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلا یا جائے گا تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئیں ہوں گی انہیں ذلت نے ڈھانپ رکھا ہوگا ان لوگوں کو (دنیا میں) سجدے کے لیے بلا یا جاتا تھا (مگر یہ نہیں آتے تھے) حالانکہ یہ صحیح سالم تھے۔

یہ کافروں کے لیے وعید ہے اور منافقین کے لیے جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے کے لیے بلا جاتے تھے اور نماز کے لیے تو یہ انکار کرتے تھے تو جو بھی دنیا میں نماز کا تارک ہے وہی آیت میں وعید کا مستحق مراد لیا گیا ہے۔ یہ نص اسے شامل ہے۔

ابن کثیر رض تفسیر (4/435) لکھتے ہیں: جب انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلا یا جاتا تھا تو وہ

صحیح سلامت ہونے کے باوجود رک جاتے تھے اس طرح قیامت کے دن انہیں عذاب ہوگا اس طرح کہ سجدہ کی طاقت ہی نہیں دی جائے گی جب اللہ عزوجل تجلی دکھائے گا اور مومن سجدہ کریں گے اس کے آگے کافروں اور منافقین میں سے کوئی بھی سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا بلکہ جب سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو گدی کے بل پیچھے کو گرامیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں مومنین کے طریقے کے الٹ چلتے تھے۔ اس کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کفار و منافقین کی پشت گائے کی سینگ کی طرح (اخت) ہو جائے گی اور سجدہ کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ مسلم کی روایت کردہ حدیث میں ہے اللہ جہنم میں تمام کافروں بت پستوں اور اہل کتاب کے کافروں کو ڈال دے گا صرف وہ لوگ نج جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے گناہ گاروں نیکوکاروں کے پاس اللہ معمولی صورت میں آجائے گا ان سے پوچھھے گا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر قوم جس چیز کی عبادت کرتی تھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں ان لوگوں سے علیحدہ ہو گئے تھے حالانکہ ہمیں ان کی بہت ضرورت تھی مگر ہم ان کے ساتھ نہیں ہوئے۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے دویا تین مرتبہ ایسا ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ ان میں سے کوئی پلٹ جائے کہ اللہ فرمائے گا کیا تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے سے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے جو شخص نفاق و ریاء کے لیے سجدہ کرتا تھا اس کی کمر اللہ تختہ بنادے گا وہ جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی گدی کے بل گر جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ حال اس شخص کا ہوگا جو اپنی طرف نفاق کے طور پر سجدہ کرتا تھا تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے کبھی کوئی سجدہ نہیں کیا ہوگا؟ اور اس کا ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسے کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب اس دن اتنے بڑے مظاہرے کے لیے صرف بندوں میں سے وہ رہ جائے گا جو خوشنی سے ورضا مندی سے سجدہ کرتا تھا یا وہ جو نفاق سے سجدہ کرتا تھا ان کے علاوہ کوئی تیرasherیک

نہیں ہوگا۔ تارک و نماز و بحمدہ کو ان گناہ گاروں یا نیکوکاروں میں شامل نہیں کیا جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ نبی ﷺ سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ تارک نماز کے بارے میں فرماتے ہیں: کفر و بندے کے درمیان صرف نماز کا ترک ہے اور فرماتے ہیں: ہمارے اور ان (کافروں) کے درمیان عہد نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا۔ فرماتے ہیں: ایمان۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے شرک کر لیا۔ فرمایا: سب سے آخری چیز دین میں سے جو گم ہوگی وہ نماز ہے۔ جب نمازوں نہیں رہے گی تو پھر کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہوگی جو اسے اسلام میں باقی رکھ سکے اور اس پر اسلام کا حکم لگایا جاسکے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسلام کا آخری کڑا جوٹوٹے گا وہ نماز ہے۔ فرمایا: بندے اور کفر یا شرک کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا ان کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جو تارک نماز کے کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین نہیں ہے۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جس کی نمازوں نہیں اس کا ایمان نہیں جس کا وضوء نہیں اس کی نمازوں نہیں۔ حماد بن زید رضی اللہ عنہ ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں: نماز چھوڑنا کفر ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ محمد بن نصرالمرزوqi رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ سے سنا نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ تارک نماز کا فر ہے اسی اہل علم کی رائے نبی ﷺ سے یہ منقول ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے کافر ہے۔ عبد اللہ بن شفیق العقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اصحاب محمد ﷺ نماز کے علاوہ کسی عمل کا ترک کفر نہیں سمجھتے تھے۔

میں کہتا ہوں: یہ لوگ جو کفر مراد لیتے تھے وہ کفر اکبر ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بہت سے اعمال کے ترک کو کفر اصغر کہتے تھے جو ملت سے خارج نہیں کرتا۔ ابن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: عمر، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ وغیرہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک مرتبہ بھی فرض نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا وقت

نکل گیا وہ کافر مرتد ہے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے اختلاف منقول نہیں ہے۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
: صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی یہاں تک کہ اس
کا پورا وقت نکل گیا تو وہ کافر ہے۔ اس جماعت میں عمر، عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، معاذ بن
جبل، جابر بن عبد اللہ، ابوالدرداء رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ احمد بن حنبل، اسحاق بن
راہب یہ، عبد اللہ بن مبارک، ابراہیم نجعی، حکم بن عنتیب، ایوب سختیانی، ابو داؤد الطیالی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر بن ابی
شیبہ، زہیر بن حرب وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں۔ (ترغیب و ترہیب)

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (فتاویٰ: 308/28) میں لکھتے ہیں : اکثر سلف کی رائے ہے کہ اسے کافر سمجھ کر قتل
کیا جائے گا یہ تب ہے کہ وہ اس کی فرضیت کا قائل ہو، تارک نماز کو کافر کہنے والے قول کو ترجیح
دینے کے دلائل ہمارے پاس یہ ہیں۔ اور ہم نے مخالفین کے دلائل بھی دیکھے ہیں وہ ان کے
سامنے نہیں ٹھہر سکتے جیسا کہ کلیتاً تارک نماز کے کفر کو کفر اصغر عملی قرار دینا۔ ترک نماز کو کفر اکبر ملت
سے خارج کرنے والا ہی قرار دینا چاہیے۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو خود کو سلفی کہتے ہیں جس کا
مطلوب ہوتا ہے کہ سلف کی رائے کو مقدم کرنا غافل پر مگر یہ لوگ اکثر مقامات پر ”خواہشات کی وجہ
سے“ خلف کی رائے کو سلف کی رائے پر مقدم کرتے ہیں جیسا کہ موجودہ مسئلے میں کر رہے ہیں یہ
کیسی سلفیت ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟

شقہ: ان لوگوں میں کسی نے اللہ کی اطاعت نہیں کی؟

سامی: جو عمل کیے وہ تو اللہ کی اطاعت کر لی۔۔۔۔۔

شقہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، عمل ہے؟ کبھی نہیں۔

سامی: عمل ہے لیکن اکیلا کافی نہیں۔۔۔۔۔

شقہ: سامی یہ فکر تم کہاں سے لائے ہو یہ تمہاری باتیں تو تمام عقلاء کی عقولوں کے منافی
ہے۔

ابو بصیر: یہ ظالمانہ بہتان ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے وہ علماء جو کہتے ہیں کہ ایمان، اعتقاد، قول اور عمل کا نام ہے اور توحید ایمان کے لیے شرط ہے کیا وہ عقلاء نہیں ہیں؟ سامی کا قول کہ عمل شرط ہے یہ سلف کے اقوال کے مطابق ہے۔ اس کا یہ الزام کہ سامی کی بات تمام عقلاء کے قول سے معارض و منافی ہے یہ امت کے سلف پر بہتان ہے ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ یہ نبی ﷺ پر بہتان ہے۔

شقرہ: یہ بات بہت ہی فضول ہے سامی تمہیں یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا قطعاً کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنی باتوں میں اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک ہی جگہ تم تین چار قسم کے تضادات کا شکار ہو۔ کبھی کہتے ہو ہاں اس لیے کہ اس نے جنس عمل کو ترک نہیں کیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ ترک نماز؟ تو تم کہتے ہو تو قف کریں گے تکفیر نہیں کریں گے۔ اچھا میں بھی تمہارے توقف کے ساتھ ہوں..... کیا وہ کافر ہے؟ کیا خیال ہے؟

ابو بصیر: تمہارے لیے کیسے ضروری ہے کہ اس کی تکفیر سے توقف کرو اور پھر کہو کہ وہ کافر ہے؟ یہ تمہاری عادت، خواہش یا حق قول کرنے سے سینے کی تنگی ہے جو تم سے اس تقاضہ الجھاؤ والی بات کا تقاضا کرتے ہیں؟

سامی: یہ تمہارا اجتہاد ہے تمہارے لیے ہے۔

شقرہ: تو پھر اس پر کفر یا عدم کفر کا حکم لگائے گا؟

سامی: شرعی نصوص، کتاب و سنت۔

شقرہ: ہم نے نصوص میں اختلاف نہیں کیا۔ مکمل اختلاف کیا ہے۔

ابو بصیر: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف نہیں کیا۔ مکمل اختلاف کیا کیا عقلاء کے نزدیک ایک ہی چیز اور اس کا ففیض بیک وقت لا سکتے ہیں؟

شقرہ: تب لوگ ایک ہی انسان پر کفر و عدم کفر کا حکم لگانے میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کو کیوں ترجیح نہ دیں جس سے جان چھوٹ جائے؟ اور جس مسئلے میں ہم اختلاف کر رہے ہیں اس سے بھی چھوٹ جائیں گے کیسے ترجیح دیں؟ کیا خیال ہے؟

ابوبصیر: مضطرب والجھن والی بات ہے واضح نہیں ہے مقصد سمجھ میں نہیں آتا کوئی جاہل ترین آدمی بھی اس طرح بات نہیں کرتا۔

شقرہ: کیا ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں کہ یہ حکم ہم پرواپس آجائے؟ (کہ ہم پر کفر کا حکم واپس نہیں آئے گا) کیا خیال ہے تمہارا؟

ابوبصیر: یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ تارک نماز پر کفر کا حکم لگانے سے حکم واپس اختلاف کرنے والوں پر نہیں آتا۔ اس لیے کہ یہ حکم اجتہاد علم اور تقویٰ کی بنیاد پر لگایا گیا ہے۔ خواہش و جہل کی بنا پر نہیں۔ پھر علماء کا تارک نماز کے بارے میں اختلاف بھی پہلے گزر چکا ہے مگر اس میں یہ کہیں نہیں تھا کہ تارک نماز کو کافرنہ ماننے والے ماننے والے کو کہا ہو کہ کفر تم پر لوت آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم دلیل کی بنیاد پر شرعی نصوص کی روشنی میں ہوتا تھا علم پر بنی شارع کے مقصد کے حصول کی نیت سے ہوتا تھا۔ دور حاضر کے جمییہ یہ سب جانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نصوص شرعیہ میں جو بدیانتی کی ہے وہ مخالف کوڈرانے کے لیے کافی ہے مخالف ان کے شاذ اور عقیدہ سلف کے خلاف باتوں پر اس بدیانتی کی وجہ سے لا جواب ہو جائے گا۔

سامی: (اس کی بات نہیں سمجھ سکا)۔

شقرہ: میں اب نماز کے بارے میں بات کرتا ہوں.....

سامی: نماز کی جو بات ہے تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان (یعنی یہ فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا توقف کیا ہے) اللہ ہی اس کی حالت سے واقف ہے جب تک کہ ہمیں اس مسئلہ میں راجح صورت نہیں ملتی۔

شقرہ: تم کب راجح بات معلوم کرو گے؟ قیامت کے دن؟ کب؟ یا جب جان کنی کا وقت آجائے گا؟۔

ابو بصیر: یہ مذاق اور استہزا و بکھیں یہ ہے ان کی عادت اپنے مخالف کے ساتھ۔

شقرہ: سامی اب تمہیں اپنی تمام باتوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اب میں تم سے آخری سوال پوچھتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں یونیورسٹی جاؤں گا اور جاتا ہوں میں نے یونیورسٹی کی مثال دی جو اس مسئلے میں بہت عمدہ و اعلیٰ مثال تھی تاکہ تم پر حکم لگایا جاسکے کہ تم منکرو جھوٹ کے مرتكب ہو رہے ہو اور تم اس نظام کفر پر راضی ہو جئے تم نے خود نظام کفر کہا ہے۔ تم نے کہا ہے کہ میں جامعہ جاؤں گا۔ کیوں جاؤ گے جامعہ؟

ابو بصیر: اس بات کا مطلب مخالف پر کفر کا حکم لگانا ہے اس لیے کہ کفر پر راضی ہونا بالاتفاق کفر ہے۔

سامی: میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے یونیورسٹی جانا پڑتا ہے حالانکہ میں (وہاں کے نظام کفر پر) راضی نہیں ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان اس کا جواب دے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔

شقرہ: تم پھر جامعہ کیوں جاتے ہو؟ میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ تمہارے ظاہری عمل کی بنابر تمہیں کافر قرار دوں اس لیے کہ تم طاغوت پر راضی ہو۔ کیا خیال ہے؟

ابو بصیر: شقرہ چاہتا ہے کہ جب سلف کے اقوال کے مطابق سامی ظاہری اعمال پر اعتماد کرتا ہے تو اس بنابر اس کی تکفیر کی جائے اس لیے کہ اس کا ظاہری عمل اسے کفر پر راضی ثابت کرتا ہے اور جب اس ظاہر میں واقع نہ ہو گا تو ظاہر پر حکم نہیں لگے گا جب تک کہ اس کا باطن اور دل نہ دیکھ لیا جائے۔ یہ اس کا مبلغ علم ہے یہ تقویٰ اور پرہیز گاری ہے۔ جو مرضی ہے کرتے رہو۔ ہم دیکھتے ہیں کفر کسی پر لوٹ آتا ہے۔ تکفیر و تغییف مشہور تھیا رہے جو تم سے پہلے خوارج نے صحابہ و تابعین

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے خلاف استعمال کیا ہے۔

سامی: میں راضی نہیں ہوں۔ (کفر کے نظام و طاغوت پر)

شقرہ: میں تمہارے ظاہر پر حکم لگا رہا ہوں میں تم پر کفر کا حکم لگا رہا ہوں۔

ابوبصیر: یہ غلو اور افراط دیکھیں جو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وہ مخالفین جواہل قبلہ و اہل توحید ہیں جبکہ طاغوتی حکمران کے ساتھ انکار و یہ نرمی، تاویل، ارجاء، اور تغیریط کا ہوتا ہے۔ کسی نے ان کے بارے میں سچ کہا ہے کہ یہ خوارج ہیں۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت اور طاغوتی حکمرانوں کے لیے بہت ہی نرم ہیں۔

سامی: اب یہ بھی بتاؤ کہ حکمرانوں کے بارے میں کیا کہیں؟ جوان حکمرانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں؟

ابوبصیر: میطلق نہیں ہے بلکہ عمل کی نوعیت کے لحاظ سے ہے اور جتنا وہ طواغیت کے قریب ہوگا اس کے حساب سے ہوگا۔ جس کا ظاہری عمل طواغیت کے ساتھ دوستی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد ہوگا وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو شخص قوانین وضعیہ پر فیصلے کرتا ہے یا شریعت کے خلاف قوانین وضع کرتا ہے جیسا کہ طاغوتی پارلیمنٹ ہیں۔ یا جس کا عمل ان قوانین کا نقض کا ہوگا جیسے وزیر وزراء تو یہ شخص بلا شک و شبہ کافر ہے اس کے کفر میں صرف مر جسہ یا جہنمیہ ہی شک کر سکتے ہیں۔

شقرہ: وہ کیوں؟

سامی: اس لیے کہ وہ بھی راضی نہیں ہے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں اگر بت پرستی پر راضی ہو جاؤں تو کافر ہوں یا نہیں؟

ابوبصیر: کفر کو مطلق رضا کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ ہر وقت کی رضا کی نفعی کفر

کی نفی نہیں کرتی۔ کفر بعض دفعہ بغیر رضا کے بھی ہوتا ہے۔ جو عناد، استہزاء، دنیا کی محبت اور فائدے کے لیے کفر کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اگرچہ دلی اور اعتقادی طور پر وہ اس کفر پر راضی نہیں ہوتا۔

اللہ کا فرمان ہے:

ذلِكَ بِإِنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ (النحل: ١٠٧-١٠٦)

یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اللہ کا فرقہ کو بہایت نہیں کرتا۔

اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان کا کفر دنیا کو آخرت پر ترجیح کی وجہ سے تھا۔ حدیث ہے کہ: آدمی صبح مسلمان ہو گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہو گا صبح کا کافر ہو جائے گا اپنادین دنیاوی مفاد کے لیے فروخت کرے گا اس کے کفر کی وجہ دنیاوی مفاد کا حصول ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ دلی و اعتقادی لحاظ سے راضی تھا نہیں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

شقرہ: مجھے کیا معلوم -؟

سامی: میں راضی ہوں، راضی ہوں مطلب یہ کہ جب ظاہری طور پر میں ان کے ساتھ چلتا ہوں وہی کرتا ہوں جو وہ چاہتے ہیں یا کرتے ہیں کیا میں کافر ہوں یا نہیں؟ یہ ہمارے درمیان اختلاف نوجوانوں کے ماہین یہ حکام کا مسئلہ نہیں ہے صرف عمل کا ہے کام کا ہے میں حکومت کے ساتھ کام میں شامل ہوں (سرکاری ملازم ہوں) کفر پر راضی ہونا کیا یہ کافر ہے یا نہیں؟ موجودہ حالت کے بارے میں بتاؤ۔

شقرہ: مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ تم راضی ہو یا نہیں -؟

ابو بصیر: تناقض، خواہشات کی پیروی اور بحث کا شوق دیکھیں ابھی سامی کو صرف اس بنابر کافر قرار دے رہا تھا کہ وہ صرف جامعہ جاتا ہے الہذا کفر پر راضی ہے۔ اور اب سامی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں کفر پر راضی ہوں (تو میرے لیے کیا حکم ہے؟) اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا معلوم تم راضی ہو یا نہیں؟ قارئین نے بھی اس طویل مباحثہ کے دوران محسوس کیا ہو گا کہ ان لوگوں نے سامی کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس کی کسی بات کا اعتراض نہیں کیا حالانکہ اس کی بہت سی باتیں علم پر منی تھیں حق پر تھیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ فطرتاً خواہشات کے پیرو اور بحث و مباحثہ کے خواہشمند ہیں حق کو تسلیم کرنا ان کی فطرت نہیں ہے۔

سامی: میرا طرز عمل (میرے طرز عمل سے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں راضی ہوں۔)

شقرہ: تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں دلالت کرنے والی ایک زبان قال دوسری زبان حال، زبان قال کے بارے میں تو قطعی بات یہ ہے کہ اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اس لیے کہ اس نے زبان سے اقرار کیا ہے۔

ابو بصیر: جب یہ بات ہے تو پھر اس شخص کی تکفیر سے کیوں خاموش ہو جوزبان سے اقرار کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں کیا معلوم کہ وہ دل سے کفر پر راضی ہے یا نہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نزدیک زبان قال کفر پر دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دلی طور پر کفر پر رضامندی نہ ہو جو کہ تمہارے ہاں واحد شرط تکفیر کے لیے ہے۔

شقرہ: لیکن زبان حال کی تاویل ممکن ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کافر ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہم زبان حال کی وجہ سے کہ وہ تاویل کا اختیال رکھتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کافر ہو لیکن تم نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیدیا ہے۔

ابو بصیر: وہ اپنے آپ پر کفر کا حکم لگا رہا ہے اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر کفر پر رضامندی کو کفر سمجھتا ہے اور کفر کی دلیل بھی۔ الہذا اس بنیاد پر (شقرہ کے خیال میں) وہ جامعہ جانے کی وجہ سے

کافر ہے۔

الباني کی مداخلت: اگر زبان حال سے خصوصاً دل کی رضامندی اور عمل کی وضاحت کر دی تو وہ عمل راضی ہے۔

ابو بصیر: یہاں شیخ نے وضاحت کر دی کہ ان کا مخالف سامی زبان حال کی وجہ سے کافر ہے اس لیے کہ وہ ظاہری عمل اور کفر پر رضامندی کو کفر سمجھتا ہے۔ اور وہ جامعہ جانے کی وجہ سے عملًا کفر پر راضی ہے۔ حالانکہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ تقسیم کے کفر پر ظاہرًا عملًا رضامندی کفر نہیں ہے اور قبلی و باطنی رضامندی کفر ہے۔ یہ تقسیم غلط ہے باطل ہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے یہ صرف دور حاضر کے جہیزی کی اختراع ہے اور کچھ نہیں۔

سامی: ہم دوبارہ آیت کی طرف آتے ہیں: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ اکراہ صرف ظاہر پر ہوتا ہے۔ عمل پر ہوتا ہے کسی انسان کے عقیدے پر نہیں.....

شقرہ: یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟

سامی: عمار بن یاسر رض کے بارے میں۔

شقرہ: عمار نے کیا کہا تھا؟

سامی: کلمہ کفر کہا تھا۔

شقرہ: تم تو کہتے ہو کہ اکراہ عمل پر ہوتا ہے۔ میرے بھائی سبب نزول کو دوبارہ پڑھ لیں اس کے بعد آکر بات کریں۔

ابو بصیر: آیت ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ.....﴾ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اکراہ عمل و اعضاء پر ہوتا ہے، دل و اعتقاد پر نہیں ہو سکتا اکراہ کے تحت اگر کسی کا دل کفر پر مطمئن ہو تو وہ کافر ہے اس کے لیے بالاجماع اکراہ عذر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ گمراہ

شخص بحث کرتا ہے۔ اور اپنے مخالف کی زبان سے مسلسل حق سننے کے باوجود اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اکراہ صرف زبانی اقرار سے ہوتا ہے یا زبانی اقرار عمل دونوں سے اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے راجح قول یہ ہے اکراہ تمام اعضاء ظاہرہ پر ہوتا ہے۔ اس کے مصالح و مفاسد کا لاحاظ رکھا گیا ہے تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔ اس آدمی کے سامنے پراعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکراہ صرف زبان پر سمجھتا ہے دیگر اعضائے بدن پر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب معاملہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا تو وہ امت چاہے حکمران ہوں یا عوام کے لیے کیسے جائز قرار دے گا کہ وہ کفر عملی میں اکراہ کے تحت کیسے ملوث ہوں گے؟

سامی: شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس نے کفر کے لیے شرح صدر کر لیا۔ اکراہ عقیدے پر نہیں ہوتا۔ میں عمل پر مجبور کیا جاسکتا ہوں بت کو سجدہ کرنے پر۔ صلیب گلے میں لٹکانے پر۔ لیکن عقیدہ پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ جس نے بھی عملاً کفر کیا اس نے شرح صدر کیا اسی لیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیت جہنم کے قول کی خرابی پر دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جس نے کفر کی بات کی اس پر کفر واقع ہو گیا۔

البانی: بہر حال تم اس شرح صدر سے متعلق ہی بات کرتے ہو اس بات سے متعلق کچھ نہیں کہتے حالانکہ یہ اس موضوع پر فیصلہ کن بات ہے شاید تم صرف اسی نکتہ کے لیے آیت پڑھتے ہو یعنی جب کوئی کفر میں مبتلا ہو گیا تو اس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا؟

سامی: جب موانع تکفیر نہ ہوں۔

ابو بصیر: سامی کی بات کا ٹیکنیکی مکمل نہیں کرنے دی گئی میرے خیال میں شیخ کی بات کا جواب یہ ہوتا کہ جو بھی بغیر اکراہ کے کفر میں واقع ہو گیا وہ کافر ہے اس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا ہے۔ آیت کام منطق و مفہوم اس پر دلالت کرتے ہیں۔ بحث کا مداری یہی ہے۔

الباني: میرے بارے میں ایسی بات کرو۔
سامی: ہرگز نہیں کہھی نہیں۔

الباني: جب تم ایک انسان کے بارے میں استطاعت نہیں رکھتے اور پھر کہتے ہو کہ ضروری نہیں کہ جس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا وہ کافر ہے۔

ابو بصیر: یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شرح صدر ہو بلکہ ہم جو کہہ رہے ہیں اور علماء جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے ظاہراً کفر کیا بغیر اکراہ کے اور بغیر کسی شرعی طور پر معتبر موانع کے تو اس نے کفر کر لیا اور کفر بھی شرح صدر کے ساتھ اگرچہ وہ زبان سے اس کے خلاف بولے۔ یہاں اختلاف ممکن ہے۔

سامی: ہمارے پاس موانع تکفیر ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے کفر کیا ہے، ہم اسے کافر قرار دیں اس لیے کہ موانع تکفیر ہیں۔

ابو بصیر: اس کی بات پوری نہیں ہونے دی گئی۔

الباني: مجھے امید ہے کہ تم آیت سے نہیں پھر و گے۔

ابو بصیر: ان کا مخالف (سامی) آیت سے نہیں پھر ان کا جوشہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے تفصیلی جواب کا تقاضا کرتا ہے مگر جب اس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں علمی ہوتے ہیں تو یہ لوگ جلدی سے اس کی بات کاٹ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ موضوع سے ہٹ گیا ہے اور اس نے بات پھیلا کر وسیع کر دی ہے۔

الباني: آیت اس شخص کو کافر قرار دے رہی ہے جس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا ہو۔ جس نے بھی کفر کے لیے شرح صدر کیا وہ کافر ہے۔

ابو بصیر: جب بات اس طرح ہے تو اللہ نے صرف مکرہ کو کیوں مستثنی کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا

کہ مکرہ غیر مکرہ دونوں کو مستثنی کرتے اگر شرح صدر نہ ہوتا۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (الفتاویٰ: 220/7) اگر یہ کہا جائے کہ یہ شروع آیت کے موافق ہے جس نے بغیر اکراہ کے کفر کیا تو اس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا اور نہ آیت کا اول و آخر متناقض ہوں گے۔ اگر مراد یہ ہوتی کہ جس نے بھی کفر کیا اس نے کفر کے لیے شرح صدر کیا اور یہ بلا اکراہ ہوتا ہے تو اکراہ کو مستثنی نہیں کیا جاتا، بلکہ مکرہ وغیر مکرہ دونوں کو اگر وہ شرح صدر نہ کریں تو مستثنی ہونا چاہیے تھا۔ جب کلمہ کفر خوشی سے کہا تو یہ کفر کے لیے شرح صدر کیا اور یہی کفر ہے۔

البانی: تم ایسا کوئی عالم نہیں لاسکتے جو یہ کہے کہ اگرچہ کفر کے لیے شرح صدر بھی نہ کرے (تب بھی کافر ہے) ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی عالم صریح قرآن کی مخالفت کرے گا۔

ابو بصیر: شیخ سوال اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا نہ اس وجہ سے اختلاف ہو اہے اختلاف یہ ہے کہ جس نے بغیر اکراہ کے ظاہرًا کفر کر لیا کیا اس نے کفر کے لیے شرح صدر کر لیا یا نہیں؟ یہ ہے اصل نزاع و اختلاف؟ ہم آپ کو سوال کی صحیح صورت بتاتے ہیں تا کہ آپ لوگ متفق ہو کر یک جماعت بن کر سامنے آجائیں کیا آپ بتاسکتے ہیں کسی عالم کے بارے میں جہم کے علاوہ کہ وہ کہتا ہو کہ بغیر اکراہ و شرعی مانع کے کفر ظاہری کرنا کفر کے لیے شرح صدر نہیں ہے؟ ہم جواب کا انتظار کریں گے بھلکتی ہی مدت تک کرنی پڑے۔

سامی: کشف الشہبات میں محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی.....

ابو بصیر: سامی کی بات کاٹ دی گئی محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتانے نہیں دیا گیا۔

البانی: محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سر آنکھوں پر ان کی تمام کاوشیں قابل قدر ہیں لیکن یہ (محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ) ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں ایک آدمی نے مکھی مزار پر چڑھاوے کے طور چڑھائی تھی کیا تھیں وہ حدیث یاد ہے؟

سامی: اس حدیث کو آپ نے صحیح کہا ہے.....

البانی: گذشتہ باتوں کو چھوڑیں ہمیں الحجۃ ملت اب تمہیں حدیث یاد ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا وہ بت کے پچار یوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ کفر کرو بت کی عبادت کرو اس نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ ایک مکھی تقرب کی نیت سے چڑھا دواں نے ایسا ہی کیا اور جہنم میں چلا گیا اس طرح یہ حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں ہے۔ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے جس نے کمھی کا نذر انہ دیا کیا یہ کافر مرتد ہوا؟

سامی: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

البانی: محمد بن عبد الوہاب نے پیش کی ہے.....

سامی: ہم محمد بن عبد الوہاب کا اتباع نہیں کرتے یہی آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔

شقرہ: یتم نے پہلے نہیں سیکھا تھا.....

البانی: ایسی باتیں مت کرو۔ یہ سچ کہہ رہا ہے کچھ سیکھا تھا کچھ نہیں۔

ابوبصیر: شیخ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق و باطل کی پہچان میں کچھ صحیح کہا کچھ غلط۔

البانی: اصل بات یہاں یہ ہے کہ اس آدمی نے اکراہ کے تحت مکھی چڑھائی ورنہ قتل ہو جاتا جس طرح اسی واقعہ میں اس کے ساتھی کے قتل کا ذکر ہے کیا یہ آدمی جہنم میں جائے گا.....؟۔

سامی: جب اکراہ کی تمام صورتیں موجود ہوں گی اس لینے نہیں کوہ مومن ہے.....

البانی: اچھا محمد بن عبد الوہاب رض نے تو اس قسم سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے چڑھا دیا اگرچہ ایک مکھی ہی ہو وہ کافر ہو گیا جبکہ فرق کرنا ضروری ہے اب تم عمر والی آیت ﴿إِنَّمَنْ أُنْجَرَهُ﴾ پیش کرو۔

ابوبصیر: محمد بن عبد الوہاب رض کے بارے میں جو طعن کیا گیا ہے اور اشارے کیے گئے ہیں

اور جو کچھ ان لوگوں سے سنائی گیا ہے اس پر ہم مندرجہ ذیل اعتراضات کرتے ہیں:

① حدیث اور اس کے بارے میں علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کیا محمد بن عبد الوہاب رض اس طعن کے مستحق ہیں؟ طارق بن شہاب رض کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا صحابہ رض نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو آدمی ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کا ایک بت تھا وہ اس وقت تک کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک کچھ بت کو نذر نہ دیں۔ انہوں نے ان میں سے ایک کو کہاند رو دوسرا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں انہوں نے کہا ایک مکھی ہی چڑھا دو اس نے ایسا کیا اور انہوں نے اسے راستہ دیدیا وہ جہنم میں چلا گیا دوسرے کو بھی یہی کہا اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نذر نہیں دے سکتا انہوں نے اسے قتل کر دیا وہ جنت میں چلا گیا۔ (احمد۔ باب الزهد: 33/84 دارالکتاب العربي)

طارق بن شہاب رجلی الحسن ابو عبد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہا جاتا ہے اس نے کچھ سنائیں۔ البغوی کہتے ہیں: کوفہ آیا تھا۔ ابو حاتم کہتے ہیں: وہ صحابی نہیں، یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں: اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر ان سے کچھ سنائیں۔ ابن حجر کہتے ہیں: جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ صحابی ہے اور جب اس نے کچھ نہیں سنا تو اس کی روایت مرسل صحابی ہے۔ اور ایسی روایت مقبول ہے۔ نسائی نے اس کی کئی احادیث روایت کی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ہے۔ ابن حبان نے ان کی تاریخ وفات ۸۳ ہجری سند سے ثابت کر کے بتائی ہے۔ (تيسیر العزیز الحمید: 194۔ فتح المجید: 148)

② متن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس آدمی نے اکراه کے تحت مکھی چڑھائی تھی اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تاکہ یہ آیت ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ سے معارض ہو جب وہ آدمی جہنم میں گیا اور اس کا سبب فعل تھا تو یہ اس بات پر مجبول ہو گا کہ اس نے وہ فعل اخلاص کے

ساتھ کیا تھا اکراہ کے بغیر تھا ان کے اس مطالبہ کو معمولی سمجھ کر کیا تھا یہ کفر کے لیے شرح صدر تھا۔ (قرۃ العيون المودعین: 80) میں ہے وہ جہنم میں اس لیے گیا کہ اس نے دل سے قصد کیا تھا اور اپنے عمل کی اطاعت کی تھی لہذا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی تھی۔ اس میں مسلم کی حدیث پہلے گزری ہوئی حدیث کا معنی بھی پایا جاتا ہے جو باب الخوف من الشرک جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ جس نے اللہ سے ملاقات کی اللہ نے میری امت سے خطا اور بھول معاف کر دی ہے اور اکراہ کو معاف کر دیا ہے۔ (احمد، ابن ماجہ، طبرانی، حاکم، صحیح البخاری: 1731) حدیث کا مفہوم یہ نکلے گا کہ امت محمد یہ علیہ السلام کے علاوہ سابقہ امتوں کی خطاء و نسیان بھی معاف نہیں ہے اور اکراہ بھی نہیں صرف امت محمد علیہ السلام کے لیے یہ معافی خاص ہے۔ جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں ہے مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئیں ہیں جو مجھ سے قبل کسی کو نہیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت پر میری مدد کی گئی ہے۔ میرے لیے ساری زمین مسجد و پاک بنائی گئی ہے میری امت کے کسی شخص کو جہاں نماز پالے وہ وہیں پڑھ لے میرے لیے غیمت حلال ہے جو پہلے کسی کے لیے نہیں تھی۔ مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف مبیوث ہوتے تھے میں تمام لوگوں کی طرف مبیوث ہوں۔

۳) محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اکراہ بھی عذر نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کا مکر ہے اور محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ کے عقیدے و دعوت پر حملہ ہے یہ اس کے خلاف ہے جو ان سے کئی مقامات پر ثابت ہے۔

۴) ایسی حدیث سے استشهاد کرنا جو آپ لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے یہ تمہارے لیے لازم نہیں کرتا کہ تم طعن، اشارے، جرج و توہین کرو جبکہ تم شیخ کے عقیدے و دعوت سے لوگوں کو تنفس کر رہے ہو۔ پھر کتنی ہی حدیثیں ہیں جنہیں آپ نے صحیح کہا ہے اور ان کی وجہ سے امت کو الزام دیا اس پر مقابلہ و مباحثہ بلکہ جھگڑا کیا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان کا ضعف آپ پر آشکارا ہو گیا

اگر آپ اپنی اس غلطی کے استدراک سے قبل فوت ہو جاتے تو آپ کے بارے میں لوگ وہی کہتے جو محمد بن عبد الوہاب رض کے بارے میں کہتے ہیں؟

۵ محمد بن عبد الوہاب رض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ضعیف حدیث سے استشہاد کیا ہے تو دنیا میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جس نے کبھی ضعیف حدیث سے استشہاد نہ کیا ہو تو کیا آپ کے لیے جواز بن گیا کہ علماء پر طعن کریں صرف ایک غلطی کی بنیاد پر؟ یا یہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے حسد اور ان کی دعوت پر حملہ ہے؟ ہم نے دور حاضر کے جمیبہ جو کہ شیخ ناصر الدین الالبانی کے قربی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ان لوگوں کو سلفی کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب رض کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں اور ان دس نواقض میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں جن کے کفر پر اجماع نقل کیا ہے سوائے ایک ناقص کے جس پر یہ خود بھی متفق ہیں یعنی استحصال اور قلبی طور پر انکار۔

البانی: اگرچہ دری ہو گئی مگر میں وہی بات کروں گا جواب اب امک نے کی تھی جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس میں غور کرو اور اس منجح کو اپناو ﴿فَإِنْ تَنَازَّ عَنْمُّنِي شَيْءٍ فَرُدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ النساء: ۵۹] اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ و رسول (علیہ السلام) کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ (تمہارے حق میں) بہتر ہے اور باعتبار ان جام کے اچھا ہے۔“ اپنے آپ کو غوفہ فکر کے لیے تیار رکھو، مم اس سوال کے جواب لیے جو کوئی اور تم سے کرے یا خود تمہارے ذہن میں پیدا ہو جناب اب آپ نے ﴿إِلَّا لِيُطَاعَ يَا ذِنْ اللَّهِ﴾ النساء: ۶۴] سے استدلال کیا ہے یہ انہی کا کلام تھا اور جواب کا حاصل بھی تھا کہ لیطاع کا مطلب ہے اطاعت کا معاملہ اگر اطاعت ناقصہ ہو؟ تم آیت کو کیسے سمجھو گے میر انہیں خیال کر تم اس سے اطاعت کا مالہ سمجھو گے۔

ابو بصیر: اس میں فرق موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کام ملہ ہے یا ناقصہ اور ان حدود کے درمیان

کے ان کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں رہتا ہے ان دونوں کو باہم خلط کرنا تسلیم تحلیل اور دھوکہ ہے پہلا مسئلہ جو ہے تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ لیطاع وغیرہ آیات جن میں اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم ہے سے مراد رسول کی مکمل اطاعت ہے تمام اوامر میں جواب پنے لیے اس کے علاوہ کا دعویٰ کرتا ہے وہ بالاتفاق منافق کافر ہے۔ وہ شخص ہے جو ناقص اطاعت کرتا ہے مگر ساتھ یہ اقرار کرتا ہے کہ مکمل اطاعت اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

فَلَيَحْدُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ

آلیم (النور: ٦٣)

جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا عذاب الیم پہنچ۔

فتنه سے مراد یہاں کفر و شرک ہے۔ فرمان ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ٦٥)

تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملات میں تجھے حکم نہ مان لیں اور پھر تیرے فیصلے سے اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔

البتہ وہ اطاعت جو آدمی کو اسلام میں باقی رکھتی ہے اور قیامت میں نفع بخش ثابت ہو گی تو یہ وہ اطاعت ہو گی جس میں توحید پر عمل مع اس کے ظاہری و باطنی شروط کے ہو۔ دوسرا دین کی اطاعت کا نہ ہونا (جب تک کہ حجود کا انکار عناد و کبر نہ ہو) یہ گناہ اور عذاب کا سبب ہے مگر اپنے مرکلب سے ایمان و اسلام کی نفع نہیں کرتا۔

سامی: (سامی کی بات واضح نہیں تھی اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی)۔

الباني: اچھا تو بات اس کے بر عکس ہے کہ اطاعت ہونی چاہیے چاہے ناقص ہی ہو۔ یہاں شقرہ نے شیخ کی بات کاٹ دی اور کہا کہ: جو شخص خلوص دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے اور کبھی بھی کوئی عمل نہیں کرتا یہ اس کی ناقص اطاعت ہے یہ بات تسلیم کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔

ابو بصیر: اختلاف اس پر نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ اطاعت ناقصہ جو عمل سے خالی ہو وہ قیامت میں نفع بخش ہے اور کیا ایسا کرنے والا اسلام میں رہتا ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بات گزر پچھی ہے کہ اس طرح کی اطاعت ناقصہ قیامت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور ایسی اطاعت کرنے والا اسلام میں برقرار نہیں رہتا اس لیے کہ شروط ایمان موجود نہیں ہیں جن میں تو حیدر پر عمل اور شرک سے کنارہ کشی ہے۔ سامی کا تمہاری اس بات کو تسلیم کرنا کہ یہ اطاعت ناقصہ ہے اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ تمہاری یہ بات صحیح ہو گئی کہ عمل سے مطلقاً خالی ایمان نفع بخش ہوتا ہے۔

شقرہ: ہم آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل ہے نماز کی کہ اس کا تارک کافر ہے اور اس کی تفسیر تم نے اس طرح کی جس طرح دیگر علماء کرتے ہیں کہ تارک نماز کا کفر ارتدا ہے لیکن تم ہمیشہ اس جزوی بات نماز میں توقف کرتے ہو مناسب نہیں کہ تم اس دوران شیخ سے مجادلہ و مباحثہ کرو جب وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جس نے خلوص دل سے ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دیا اللہ نے اس کا جسم آگ پر حرام کر دیا اس نے اللہ کی ناقص اطاعت کر لی؟ مگر تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کیوں؟ باوجو کیمہ تم اب کہہ رہے ہو ﴿لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ میں ضروری نہیں کہ اطاعت کاملہ ہو ورنہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔

ابو بصیر: جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسول ﷺ کی اطاعت تمام اور میں مکمل اطاعت کرنی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کی اطاعت ناقص رہی وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے کہ ایمان کی صحت کے لیے شرط اور واجب میں فرق ہے۔ ہر شرط واجب ہے مگر ہر واجب شرط نہیں

ہے دونوں کو ایک قرار دینا تلبیس، تدليس و تعلیل ہے۔

شقرہ: اگرچہ اطاعت ناقصہ ہو یہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اطاعت سے اضافہ اور معصیت سے کمی ہوتی ہے۔

ابوصیر: یہ جو ایمان، وعدا و عید کے بارے میں ہم کی طرح رائے رکھتے ہیں اس قول میں ہم نے متضاد بات کی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس لیے کہ اگر ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بات ہو گی تو یہ بھی لازم آئے گا کہ معصیات کا ایمان پر سلسلہ یا صعفاً اثر ہوتا ہے معصیت کی نوعیت یا کیفیت کے لحاظ سے صغیرہ گناہوں کا اثر ایمان پر کم ہوتا ہے بنسبت کبیرہ گناہوں کے جیسے شراب، زنا، چوری، قتل ناحق ان تمام کبیرہ گناہوں کو ملا کر بھی ان کا جواہر ایمان پر ہوتا ہے وہ شرک سے کم ہوتا ہے مگر شرک ایمان پر اثر کے لحاظ سے دیگر گناہوں سے علیحدہ ہے شرک دل سے ایمان کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے جبکہ دیگر گناہوں سے ایسا نہیں ہوتا فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَ عَمْلُكَ وَ لَتُكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ☆ الزمر: ٦٥﴾ "اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے عمل بر باد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے۔" فرمان ہے: ﴿وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَجْبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ☆ الانعام: ٨٨﴾ "اگر یہ (انیاء بالفرض) شرک کر لیتے تو ان کے اعمال باطل ہو جاتے۔" صحیح حدیث میں آتا ہے ایمان اور کفر ایک آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے جبکہ تم کہتے ہو کہ جمع ہوتے ہیں جب تک کہ استھان و تنذیب قلبی نہ ہو اس طرح تم لوگوں نے شرک کو دیگر گناہوں کے ساتھ برابر قرار دیدیا ایمان پر اثر کے لحاظ سے۔ جس طرح دیگر گناہ دل سے ایمان ختم نہیں کرتے اس طرح تمہارے نزدیک شرک و کفر بھی دل سے ایمان ختم نہیں کرتے اس سے تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور تم نے جو عقیدہ سلف کا پرداہ اپنے اوپر ڈال رکھا ہے وہ ہٹ گیا ہم کہتے ہیں کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے جو اگر استھان قلبی سے کیا جائے تو وہ ملت سے خارج کرنے والا کفر ہے

؟ الہذ ضروری ہے کہ شرک کو دیگر گناہوں سے علیحدہ کیا جائے اس لحاظ سے کہ شرک بذاتہ کفر ہے
چاہے استھلال کے ساتھ ہو یا بغیر استھلال کے ساتھ ہو۔

شقرہ: میں اس دوران بحث میں تجھب کرتا رہا جبکہ استاد تم سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ تم دونوں
کے درمیان جو بحث اب تک ہوئی اگر صحیح بات کی جائے تو وہ اس میں تھی کہ اطاعت ناص یا مکمل
یہ کہتا ہے کہ جس نے خلوص دل سے ”اللہ الا اللہ“ کہا اس پر یہ آیت تفسیر کے ساتھ صادق آتی
ہے تو پھر اس تمام مدت بحث کس لیے کی۔؟ (والسلام علیکم)

ابوبصیر: علیک السلام۔ یہاں کیسٹ ختم ہو گئی اور اس پر رد بھی مکمل ہوا اللہ سے امید ہے کہ وہ
اسے قبول فرمائے گا اور ہمارا علم خالص اپنی رضا کے لیے بنادے گا جس طرح کہ ہم یہ امید کرتے
ہیں جس شخص کو اس زمانے میں جہنمیہ و مرجمہ کے شہادات نے گمراہ کیا ہے (اسے راہ راست
دکھائے)۔

شیخ ناصر الدین الالبانی سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس رد کو مکمل طور پر پڑھ لیں دویا تین
عبارتیں سن کر جلدی میں کوئی حکم نہ لگائیں جن کی نشان دہی ان کے ساتھیوں نے کی ہو۔ ہم اللہ
سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے اور ان کا خاتمہ اللہ کی رضا پر
ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے ان کے ان شہادات پر روشنی کیا تھا جن کی وجہ سے
اکثر ممالک کے لوگ فتنے میں بنتا ہوئے ہیں تو ہمارا مقصد شیخ محترم پرجوہ یا اپنی تشهیر نہیں تھی
ہمارا مقصد صرف حق کی طرف داری کرنا تھا جس پر ہم کسی کو مقدم نہیں رکھتے۔ وہ حق جس سے اللہ
خوش ہوتا ہے اگرچہ لوگ ناراض ہوں۔ اللہ کی عزت و تکریم ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر
ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور جو ہمارے عقیدے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم شیخ کی اچھی صفات کو
پسند کرتے ہیں جو مشہور بھی ہیں اور بہت زیادہ بھی ہیں، ہم ان صفات کا انکار نہیں کرتے صرف ان
باتوں کو ناپسند کرتے ہیں جو انہوں نے حق کے خلاف کی ہیں، ہم ان کی وہ تمام باتیں لیتے ہیں جو

حق کے موافق ہوں اور جن میں ان سے غلطی ہوئی حق کی مخالفت ہوئی ہم حق کی محبت میں ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ کو ہم آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی باتوں سے جو کچھ وہ کہتے ہیں مخلوق سے پہلے وہ خالق کی نگاہ میں آتی ہیں الہذا آپ طاغوت کے مددگار نہ بنیں اہل توحید کے خلاف (اگرچہ اس کا نام آپ نے خوارج سے جنگ رکھا ہے) اگر آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم حق کے مخالفین کی مدد تو نہ کریں اگرچہ ایک لفظ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم شیخ کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ براء ساتھیوں سے احتساب کریں ان کے قریب نہ جائیں نہ انہیں قریب آنے دیں۔ وہ خود تو براء ہیں ہی مگر آپ کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

یہ تھیں میری چند گزارشات جو میں نے خیر خواہی کے طور پر گوش گزارکیں۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحًا مَا أَسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَ

إِلَيْهِ أُنِيبُ (ہود: ۸۸)

میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میری استطاعت ہے صرف اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اسی پر بھروسہ ہے اسی کی طرف توجہ ہے۔

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَآخِرُ دُعَوانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بفضل اللہ بر وز جمہ اذی الحجۃ ۱۴۲۶ھ کو تکمیل ہوئی
عبد المعمم مصطفیٰ حلبیۃ ابو بصیر الطروی

مترجم: عبد العظیم حسن زین

مسلم ورلڈ ڈیٹا پرسینگ پاکستان

Muslim World Data Processing Pakistan

website : <http://www.muwahideen.tz4.com>

email : info@muwahideen.tk